

اَنْلَحِقُ اَعْمَلَ النِّسَاءِ بِالنِّسَاءِ

فِتْنَةٌ قَادِيَّيَّةٌ مُّتَعَلِّقَةٌ تِبْيَانِ سَوَالِ اُشْكَنِي جَوَابَاتٍ

ائِنَّهَا قَادِيَّيَّةٌ

نَظَارَةٌ

شَيخُ الْحَدِيثِ حَضْرَتُ مَوْلَانَا عَلِيِّ الْجَيْدِرِ لَدَهِيَانُوي مَظَلَّةٌ
أُسْتَادُ التَّقْفِيَّ حَضْرَتُ مَوْلَانَا مُحَمَّدَ عَابِدَ صَاحِبَ مَظَلَّةٌ

بُقْدَةٌ

شَيخُ الْحَدِيثِ حَضْرَتُ مَوْلَانَا مُفْتَى نَظَامُ الدِّينِ شَانِي شَاهِي

تَرْيِيبٌ

مُنَاظِرَخَمِ نَبَوَّثُ اللَّهُ وَدَا يَا حَنْطَلَيَا حَضْرَتُ مَوْلَانَا



انْتَخَابُهُمْ لِتَبَيَّنَ لِكُلِّ بَنِي عَدَلٍ

فِتْنَةٌ قَادِيَانِيَّةٌ مُّتَعْلِقَةٌ تِبْيَانُهُمْ سَوَالٌ اُنْجَكِ جَوَابُهُ

کتبہ حضرت احمد رضا

نظارۃ

شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی ناظر
اُسٹاؤ التفسیر حضرت مولانا محمد عبدالصاحب ناظر

مقدمة

شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامی شیخ

تذکرہ

مکاتبہ ختم شیوت اللہ دوستیا یا حضرت مولانا

عالیٰ مجلسِ شیعیۃ الحجۃ بن بوقح شہری برگ روشنان
514122

بسم الله الرحمن الرحيم

انتساب!

دفاق المدارس العربية پاکستان کے پہلے صدر، خیر العلماء حضرت مولانا
خیر محمد جالندھری اور پہلے ناظم اعلیٰ، مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود اور اب
ان کے جانشین دفاق المدارس العربية پاکستان کے صدر، شیخ الحدیث، یادگار
اسلاف، حضرت مولانا محمد سلیم اللہ خان صاحب مدظلہ اور ناظم اعلیٰ، فاضل اجل
حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب جالندھری مدظلہ کے نام!

گر قبول افتاد زہے عزو شرف

فهرست

۶	افتتاحیہ	شیخ الشائخ حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب مدظلہ
۷	پیش لفظ	شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عابد صاحب مدظلہ
۱۰	تقریظ	حضرت مولانا قاری محمد حنیف جاندھری مدظلہ
۱۲	مقدمہ	از شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی نظام الدین شاہزادی شہید

ختم نبوت

۲۷	سوال نمبر۱	ختم نبوت کا معنی، مطلب، اہمیت و خصوصیات
۳۳	سوال نمبر۲	آیتِ ختم نبوت کی تشریع و توضیح، کتب کے نام
۳۵	سوال نمبر۳	ختم نبوت پر آیات احادیث، اجماع، توادر
۴۰	سوال نمبر۴	قادیانی تحریف اور اس کا جواب
۴۵	سوال نمبر۵	ظلی و بروزی، من گھٹ اصطلاح کا بطلان
۴۸	سوال نمبر۶	وہی الہام، کشف
۷۹	سوال نمبر۷	آیات و احادیث میں قادیانی تحریفات کے جوابات
۱۰۶	سوال نمبر۸	لاہوری، قادیانی گروپوں کا اختلاف اور حکم
۱۱۳	سوال نمبر۹	عبد صدیقؑ سے دور حاضر تحریک ختم نبوت
۱۱۷	سوال نمبر۱۰	رد قادیانیت کے لئے علمائے دیوبند کی خدمات

حیات عیسیٰ علیہ السلام

۱۳۸	سوال نمبر۱	حیات مسیح پر اسلام، یہودیت اور مسیحیت کا نقطہ نظر
۱۳۹	سوال نمبر۲	رفع مسیح الی السماء پر قرآن و سنت کے دلائل

سوال نمبر۳	حیات مسیح کے خلاف قادیانی عقیدہ کی اصل وجہ
سوال نمبر۴	یعنی اپنی متوفیک میں قادیانی تحریف کا جواب
سوال نمبر۵	اور حضرت ابن عباسؓ کا عقیدہ
سوال نمبر۶	رافعہ اللہ کی توضیح و تشریع
سوال نمبر۷	نزول مسیح کے دلائل نزول مسیح ختم نبوت کے منانی نہیں
سوال نمبر۸	حضرت مهدیؑ دجالِ حسین اور قادیانی دجال
سوال نمبر۹	رفع مسیح کے خلاف قادیانی تحریفات کے جوابات
سوال نمبر۱۰	رفع و نزول کا امکان عقلی و حکمتیں
سوال نمبر۱۱	قادیانی و ساؤس و شبہات کے جوابات

کذب مرزا قادیانی

سوال نمبر۱	مرزا قادیانی کے حالات و دعاویٰ کی کیفیت
سوال نمبر۲	ایمان، ضروریات دین، کفر دون کفر کی توضیح
سوال نمبر۳	قادیانیوں کی وجوہ علیحدگی، مسجد، قبرستان و دیگر احکام
سوال نمبر۴	اوصاف نبوت اور مرزا قادیانی
سوال نمبر۵	مرزا قادیانی اور انگریز
سوال نمبر۶	اویائے امت کی عبارات میں تحریف کا اصولی جواب
سوال نمبر۷	مرزا قادیانی کی پیشیں گویاں
سوال نمبر۸	محمدی بیگم اور مرزا قادیانی
سوال نمبر۹	لو تقول علیہنا میں قادیانی تحریف کا جواب
سوال نمبر۱۰	مرزا قادیانی کا اخلاق

افتتاحیہ

از شیخ المشائخ حضرت اقدس مولانا خواجہ خان محمد صاحب

سجادہ نشین خانقاہ سراجیہ ندیاں

الحمد لله رب العالمين . والصلوة والسلام على اشرف الانبياء
و خاتم المرسلين . اما بعد ! بني كريم ﷺ کی محبت و عظمت ایمان کی بنیاد ہے۔
آپ ﷺ کی امت کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس نے جہاں دین متین کی حفاظت کی وہاں آپ
کی ذات اقدس علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی ناموس کے دفاع میں بڑی حساس اور غیرت مند
رہی۔ آپ ﷺ کی حیات طیبہ ہی میں جھوٹے مدعاں نبوت کا فتنہ کھڑا ہو گیا تھا۔ مگر امت
کے ہر اول دستے نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لئے کسی قربانی سے دربغ نہیں کیا۔
گزر شصت سال میں مرزا غلام احمد قادریانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو الحمد لله ! تمام مکاتب فقر
کے علماء امت خصوصاً علماء دین یونہد نے ہمراپور طور پر اس کا رد کیا۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ،
الحمد لله ! ہر سطح پر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور دفاع کے لئے خدمت کر رہی ہے۔ حال ہی
میں شاہین ختم نبوت عزیزم مولوی اللہ و سلیمان سلمہ نے وفاق المدارس العربية پاکستان کے
اکابرین کے حکم کی تعییل میں بڑی عرق ریزی کے ساتھ تمیں سوالات کے جوابات آئندہ
قادیانیت کے نام سے مرتب کئے ہیں۔ فقیر دعا گو ہے کہ اللہ پاک ان کی اس کاوش کو قبول
فرما کیں۔ آمین ! انشاء اللہ ! یہ محنت بارگاہ رسالت علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں ان کے قرب
کا ذریعہ نہیں گی۔ میں تمام اہل علم سے عموماً اپنے سے محبت رکھنے والوں سے خصوصاً گزارش
کروں گا کہ وہ اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ اللہ پاک مرتب اور تمام معاد نہیں کو جزاً نہیں
نصیب فرمائیں۔

فقیر ابوالثقلیل خان محمد

از خانقاہ سراجیہ ندیاں

بسم الله الرحمن الرحيم

پیش لفظ

از حضرت مولانا محمد عبدالصاحب مدظلہ خلیفہ مجاز

بی طریقت شیخ کامل حضرت مولانا محمد عبداللہ بلوی

الحمد لله رب العالمين . والصلوة والسلام على خاتم النبيين . وعلى آله واصحابه اجمعين . قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبيین لا نبی بعدی . اما بعد!

نبی کریم ﷺ کا وجود مسعود پوری کائنات کے لئے بے شار خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن انعامات سے آپؐ کو فواز اُن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ آپؐ نبی بھی ہیں سید الرسل علیہم الصلوٰۃ والسلام بھی۔ مگر اس کے ساتھ آپؐ ﷺ کا خاص احتیاز و اعزاز ختم نبوت کا تاج ہے۔ اسی کی بدولت آپؐ کو ان مقامات و درجات سے فواز اگیا کہ جن کو بیان نہیں کیا جاسکتا۔ امت محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام روز اول سے ہموس نبوت کے دفاع کے لئے ہر قسم کی تربیتی کو سعادت بخشی رہی ہے۔ گزشتہ صدی میں تحدہ ہندوستان پر فرنگی کے تسلط کے بعد مرحوم امام احمد قادریانی نے نبوت کا دعویٰ کر کے ایک بار پھر امت مسلم کی غیرت کو لکھا رہا۔ حالات انتہائی کٹھن تھی ملکی قانون غداروں کا محافظ تھا۔ لیکن غیرت و عشق بھی عجیب چیز ہے۔ اس کے دیوانے موت سے بھاگنے نہیں بلکہ موت ان سے دوڑتی ہے۔ چنانچہ تھوڑے ہی عرصہ میں صداقت نے طاقت کو پاٹ پاٹ کر دیا اور پورے ملک کے مسلمان اس دجل فریب سے آگاہ ہو گئے۔ اس ذیل میں خاتم الحمد شیخ حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری قدس سرہ اور امیر شریعت حضرت مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری قدس سرہ کی گرفتار خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ لیکن تقسیم کے بعد اس فتنے نے انداز میں راحت یا تو ایک بار پھر آتی تھی کی ناموس کے دفاع کے لئے سرفروشان میدان میں اترے اور 1953ء میں اسی تحریک چلائی کے مرزا یت کی کرنوٹ گئی۔ اس زمان میں مجلس تحفظ ختم نبوت کے نام سے اس مقدم مقصد کے لئے جماعت کی تخلیل ہو چکی تھی۔ مجلس کے باñی مرحوم اور ان کے رفقاء کرام نے کام کے لئے مسکون اصول وضع کئے جن بر جماعت نے ہر یت کو تحریک کی اور جرأت کے ساتھ ہر شیخ پر اس فتنے کے ظلاف کام شروع کر دیا جس کے اثرات پورے ملک دیرون ملک میں ظاہر ہونے لگے مگر کام میں بھروسہ اس وقت پیدا ہو جاتی ہے ملک کا

قانون غداران ختم نبوت کو تحفظ فراہم کرتا۔ اللہ کی شان: یکھنے کہ 1974ء میں چناب نگرانیشن پر مرزا یور کی غنڈہ گردی کے نتیجے میں تحریک چلی جس کے نتیجے میں ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ الحمد للہ! آج بھی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اپنے اصولوں کے مطابق برٹھ پر کام کر رہی ہے۔ اعلیٰ عدالتون میں مرزا یوں کو مسلسل بیکاری فاش ہو رہی ہے۔ تحریریہ حوالے سے اتنا کام ہو چکا ہے کہ اس موضوع پر پورا کتب خانہ مرتب ہو گیا ہے۔۔۔۔۔ تحریر کی محنت سے آگاہی کے لئے ہفت روزہ ختم نبوت کراچی اور ماہنامہ لو لاک میان مسلسل شائع ہو رہے ہیں۔ فالحمدللہ علی ذالک!

لیکن اس کے ساتھ جماعت نے اس بات کی بھی شدت سے ضرورت محسوس کی کہ اہل علم کو اس موضوع کی طرف بطور خاص مزید متوجہ کیا جائے جس کی مندرجہ صورت یہ سامنے آئی کہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے حضرات اکابر سے گزارش کی جائے کہ وہ عقیدہ تحفظ ختم نبوت کو داخل نصاب کریں۔ اس سے جہاں طلباء کرام کو اس موضوع کی اہمیت اور زماں کتابت کا علم ہو گا وہاں اس ائمہ پر کام کرنے والوں کو راہنماء صول بھی حاصل ہو جائیں گے۔

الحمد للہ! وفاق کے حضرات کرام نے حوصلہ افزائی فرمائی اور طے پایا کہ جدید اسلوب میں قدیم مواد کو مرتب کیا جائے۔ چنانچہ اس ذیل میں تیس سوالات مرتب کئے گئے ہیں۔

میر کاروں اس حضرت القدس مولا ناخواجہ خان محمد صاحب مدظلہ کے حکم پر شاہین ختم نبوت حضرت مولا نا اللہ و سایا صاحب مدظلہ نے بڑی محنت سے جوابات مرتب کئے جو "آئینہ قادریانیت" کے نام سے آپ کے باحکوم میں ہے۔ اس موضوع پر کام کرنے والے حضرات جانتے ہیں کہ بنیادی طور پر تین موضوعات پر گفتگو کی جاتی ہے۔ (۱)..... کذب مرزا۔ جس میں اصول عکیم بھی آ جاتے ہیں۔ (۲)..... ختم نبوت۔ (۳)..... حیات عسکی علیہ السلام۔ الحمد للہ! مولا نا موصوف مدظلہ نے تینوں موضوعات پر دلنشیں انداز سے حقائق ترتیب دئے گئے۔ جس کو کچھ علامہ کرام نے ملاحظہ کیا۔ چنانچہ کتاب کا سپلایمنٹ اکتوبر ۲۰۰۱ء میں منتظر عام پر آ گیا۔ کتاب دو بارہ بعض اہل علم حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر زیادگار اسلام حضرت مولا نا سلیم اللہ خان صاحب مدظلہ نے بڑی شفقت فرمائی اور متعدد مقامات پر ہونے والی فروع گروہوں کی طرف متوجہ فرمایا۔ حضرت موصوف مدظلہ کے شکریہ کے ساتھ مجلس نے تمام متفقہ مقامات کی تصحیح کر دی۔ اس کے علاوہ جانشین حضرت لدھیانوی مرحوم حضرت مولا نا سعید احمد صاحب جلالیوری مدظلہ مرزا زی راہنماء مجلس تحفظ ختم نبوت نے ازاں ہا آثر بغور کتاب کا مطالعہ کیا اور تصحیح کی۔

اہم ملت حضرت مولانا محمد علی صاحب جالندھری مرحوم کے فرزند اور مجلس کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا مختار حنفی جالندھری کے علاوہ شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالجید صاحب مدظلہ شیخ الحدیث حضرت مولانا مختار حنفی نظام الدین شاہزادی صاحب مولانا محمد عبد اللہ احمد پور شریقی مولانا منظور احمد چنیوٹی علامہ خالد محمود سیالکوٹی نے بھی ملاحظہ کیا۔ راقم المعرف محمد عابد نے بھی اپنی بہت کے مطابق دیکھا جن حضرات نے نظر ہانی کی ان کی آراء کی روشنی میں حذف و اضافہ بھی کیا گیا۔ بہر حال امکانی حد تک کوشش کی گئی کہ کوئی لفظی و معنوی غلطی رہ نہ جائے۔

اب اس کی دوسری طباعت کا اہتمام کیا جا رہا ہے تا کہ شعبان و رمضان کی تعلیمات میں ملک کے متعدد مقامات پر ختم نبوت کے موضوع پر منعقد کئے جانے والے دروس سے علماء و طلباء اس کتاب سے مزید مستفید ہو سکیں۔

بہر حال مدارس عربیہ کے علماء کرام کو اس مبارک موضوع کی طرف متوجہ کرنے کی یہ ابتدائی سنجیدہ کوشش تو ضرور ہے مگر حرف آخر نہیں۔ حضرات اکابر زیدِ مجدد حرم کے فرمان پر بھرپور بھی حذف و اضافہ کی چنیائش موجود ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ ہمارے حضرات اکابر نور اللہ مرقدہ علماء دین بند کی اس ذیل میں جو گرفتہ خدمات میں موجودہ نسل اس سے بخوبی آگاہ نہیں۔ اگر اس وقت اس زدا کت کو نہ سمجھا گیا تو اندر ایسا ہے کہ کہیں آئے والی نسل مزیداً اوقیانیت کا شکار نہ ہو جائے۔ اللہ پاک جزاۓ خیر نصیب فرمائے شہید ختم نبوت حضرت لدھیانوی مرحوم کو کہ جنہوں نے اس ضمن میں حضرات اکابر کی خدمات پر مشتمل ”دارالعلوم دین بند اور تحریک انصاف نبوت“ تائی پختگت میں بڑے جامع انداز میں تاریخ مرتب کر دی ہے۔ یہ رسالہ تحریک قادیانیت جلد ۲۰۱۰ء میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ”آئیں قادیانیت“ کو عوام و خواص کے لئے مفید بنائے اور ”ذمہ دار“ مخالف مدظلہ کو اپنا قرب خاص نصیب فرمائے۔ آمین!

امیدوار شفاقت

محمد عابد غفرلہ

درس جامعہ خیر المدارس

یک از خدام حضرت بہلوی قدس سرہ

تقریظ

حضرت مولانا قاری محمد حنف جالندھری مدظلہ

ناظم اعلیٰ وفاق المدارس العربیہ پاکستان

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى!

قادیانیت کے دل و فریب سے عامۃ المسلمين کو آگاہ کرنا اور "عقیدہ ختم نبوت" میں نقہ لگانے والوں کی دیسیں کاریوں سے مسلمانوں کی "متاع ایمان" کی حفاظت کرنا افضل ترین عبادت ہے۔ اس فریضہ کی انجام دی کا سلسلہ آنحضرت ﷺ کے زمانہ مبارک ہی سے شروع ہو گیا تھا۔ آنحضرت ﷺ نے اپنی حیات طیبہ سے آخری ایام میں مسیکہ کذاب کی سکونی کے لئے لشکر روان فرمائے کا حکم دیا تھا۔ اور آپ ﷺ کے وصال کے بعد ظلیل الرسول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تمام صحابہ کرام کے نیصہ کے مطابق مردمیں و مکریں ختم نبوت کے خلاف باتا تھا جہا، فرمایا۔ اور اس وقت تک تکوار نیام میں نہیں رکھی جب تک اس نند کا مکمل استیصال نہیں ہوا۔ اس کے بعد بھی جس تجھی نے سراخیا اسلامی کو متوجہ نہ اپنادیں فریضہ ادا کرتے ہوئے اس پر حداد مرد اور جاری کر کے اسے جہنم واصل کیا۔ بر سیر میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں میں مرزا غلام احمد قادیانی کا نام سرفہرست ہے۔ جسے ہندوستان میں برطانوی علمداری کی وجہ سے پھیلنے پھولنے کا موقع ملا۔ مرزا قادیانی نے ۱۸۹۱ء میں سچ موعود اور ۱۹۰۱ء میں نبی ہوتے کا دعویٰ کیا۔ حالاً، امت نے اس قدر کے تعاقب و استیصال کے لئے کوئی دقيقہ فروغ نہ داشت۔ زیکاری۔ اگر اکبریں نے سر پرستی کے عاثیہ قندسرطان کی مانند بڑھتا گیا۔ تاہم علائی کرام کے بروقت انتباہ اور جد، جہد کی برآمدت سے تمام مسلمان قادیانی دل و فریب کی حقیقت سمجھنے لگے اور امت کے اجتماعی ضمیر نے انہیں ملت کے خداروں کی صاف میں شمار کیا۔ خود قادیانی بھی اپنے آپ کو مسلمانوں سے الگ فرقہ شمار کرتے تھے۔ چنانچہ مرزا غلام احمد قادیانی نے خود کو نہ مانئے والوں کو نہ صرف کافر قرار دیا بلکہ انہیں زانیہ کی اوالا ذکریوں کے بنپے اور ولد ایذا تک کہا اور اپنے ہیروکاروں کو ان کے بچوں، عورتوں اور معصوموں تک کی نماز جائزہ سے روک دیا۔

حقیقت یہ ہے کہ امت مسلمی کی حدت "عقیدہ ختم نبوت" پر استوار ہے۔ جو شخص ضروریت ہے، اور ہم خدا کی تھیں اور ختم نبوت پر غیر مشروط و غیر مجزل ایمان رکھے وہ مومن ہے۔ خواہ کسی مسئلک اور کسی منتظر کا چیزوں کا درجہ نہیں جو شخص اس حدت کو توڑتا ہے اور ظلیل بروزی وغیرہ کی آڑ میں ختم نبوت کا اہم کرکٹے ہے اور

کارشنہ امت محمد ﷺ سے منقطع ہو جاتا ہے۔ قادیانیوں کے اسی ارتدا اور خروج عن الاسلام کی بنا پر اہل اسلام کی ۹۰ سالہ جدوجہد اور عظیم اثاث انحریک کے بعد ۲۷ اگست ۱۹۴۸ء میں پاکستان کی قومی آئینہ نے منتظر طور پر قادیانیوں اور لاہوری مرزا نیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا۔

پاکستان کی قومی آئینہ کا یہ فیصلہ کسی فرد واحد کی ظرفیت نہ تھی۔ بلکہ پوری قوم اور عرب اسلامیہ کا منفرد موقف تھا۔ ساری دنیا کے مسلمان آنحضرت ﷺ کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی اور رسول ﷺ کی کرتے ہیں۔ اور آپ ﷺ کی ذات کے بعد نبوت و رسالت کا دعویٰ کرنے والے کو دائرہ اسلام سے خارج کبھی نہ ہیں۔ تاہم قادیانی شاطرین نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا اور وہ آج تک سادہ لوح مسلمانوں کو یہ دھوکہ دیتے کی کوشش کرتے ہیں کہ: ”هم کلمہ پڑھتے ہیں۔ پھر مسلمان کیوں نہیں؟“ حالانکہ قادیانیوں کو یہ حقیقت بھی معلوم ہے کہ جب کوئی شخص دین کے اساسی و بنیادی عقیدے کا انکار کر دے تو محض کلمہ پڑھنے سے مسلمان نہیں سمجھا جاسکتا۔

مرزا اخlam احمد قادیانی اور اس کے پیروکاروں کے اسی نوع کے دل و فریب سے آ کاہ ہونا اور مسلمانوں کو بچانا از بس ضروری ہے۔ اس مسلمان میں ایک عرصہ سے یہ ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ دورہ حدیث شریف سے فارغ ہونے والے طلبہ کو قادیانیت کے خدوخال سے نہ صرف آگاہ ہونا چاہئے۔ بلکہ اس کی علمی تربیت اور استعمال کے لئے محسوس والاں و برائیں سے سلسلہ بھی ہونا چاہئے۔ تاکہ وہ بحیثیت عالم دین مرزا قادیانی کے دل و فریب اور کفر و الحاد کو بر طاب اضخم کر سکیں اور عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں قادیانیوں کی پھیلانی ہوئی غلط فہمیوں کا موثر و ثابت جواب دے سکیں۔ چنانچہ ”فاق الدارس العربیہ پاکستان“ کی درخواست پر خواجہ خواجہ گان مخدوم العلماء حضرت مولانا خوبیہ خان محدث صاحب دامت برکاتہم کے حکم سے ”علمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان“ کے مرزا زی مبلغ حضرت مولانا اللہ سایا صاحب زید مجدد حرمؒ نے ”آئینہ قادیانیت“ تاییف فرمائی۔ اس کتاب کے مطالعہ کے بعد اس حقیقت کو بخشنہ میں کوئی ابہام باقی نہیں رہتا کہ اسلام کی ساری عمارت آنحضرت ﷺ کی ختم نبوت پر قائم ہے۔ جو فرد یا طبقہ سے منبدم کرنے کی کوشش کرے گا۔ امت مسلمہ اسے کسی صورت میں برداشت نہ کرے گی۔

اسی طرح اس کتاب میں مرزا نعیم احمد قادیانی کے دل و فریب، کذب بیانیوں اور جھوٹی پیشکوئیوں کا پردہ بھی خوب چاک کیا گیا ہے۔ فتنہ قادیانیت کے استعمال، تعاقب کے نہاد میں یہ کتاب انشا اللہ الفضلاء، فاق الدارس العربیہ پاکستان کے لئے کلیدی رہنمایا تھات ہو گی۔

دعائے کرم تعالیٰ شانہ سے مولف زید مجدد حرمؒ اور ناشرین کے لئے دنیاہ آخرت میں نافع بنائیں اور فتنہ قادیانیت کی بخش کنیتی مہربونی کے لئے اہل اسرائیل، کہاں ہے؟ خلاف فی خط ریاض، وہ سرفروشانہ کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین!



(مولانا) نجم حسین جاندہ تحری

ڈھرم اہل، فاق الدارس العربیہ پاکستان

مختصر جامعہ حیدر آباد مدرسہ اسلام

بے جامعہ حیدر آباد مدرسہ اور نئی زینب وڈ ملکیان پاکستان

مقدمہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادَةِ الَّذِينَ أَصْطَفَيْتَ إِنَّمَا بَعْدَ:
 ”مَا كَانَ مُحَمَّداً إِبْرَاهِيمَ وَلَا هُوَ أَخْلَقَكُمْ وَلَكُمْ
 رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّنَ۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
 عَلِيهِمْ۔“
 ترجمہ: ”محمدؐ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں
 لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے ختم پر ہیں اور اللہ تعالیٰ
 ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔“ (ترجمہ حضرت تھانویؒ)
 ”عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول
 الله صلى الله عليه وسلم انه سيكون في امتى كذا بون
 ثلاثون كلهم يزعم انهنبي وانا خاتم النبيين لانبي
 بعدى۔“ (ابوداؤ دص ۲۲۸ ج ۲۲۸ واللفظ له ترمذی ص ۲۵۷ ج ۲۵)

ترجمہ: ”حضرت ثوبان رضي الله عنه سے روایت ہے کہ
 حضور صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں تیس جھوٹے
 مدعا نبوت پیدا ہوں گے، ہر ایک یہی کہے گا کہ میں نبی ہوں

حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی کسی قسم کا نبی نہیں۔“

”عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالہ و النبیہ قد
انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔“ (ترمذی ص ۱۵۷ ج ۲)

ترجمہ: ”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت

ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسالت و نبوت ختم
ہو چکی ہے، پس میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ نبی۔“

”عن ابی امامۃ الباهلی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم

قال انا آخر الانبیاء و انتم آخر الامم۔“ (ابن ماجہ ص ۲۹۷)

ترجمہ: ”حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت

ہے کہ آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”میں آخری نبی
ہوں اور تم آخری امت ہو۔“

”عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر اول الرسل آدم و
آخرهم محمد۔“ (کنز العمال ص ۳۸۰ ج ۱۱)

ترجمہ: ”حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابوذر! نبیوں میں سب
سے پہلے نبی آدم (علیہ السلام) ہیں اور سب سے آخری نبی محمد
(صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں۔“

قرآن کریم کی صریح آیات اور بے شمار احادیث متواترہ سے صراحتاً یہ بات

ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ جس سلسلہ نبوت کا حضرت آدم

علیہ السلام سے آغاز ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ آپؐ کی نبوت و رسالت قیامت تک دستیق اور بحیط ہے۔ آپؐ کے بعد کسی بھی انداز میں دعویٰ نبوت کی گنجائش نہیں۔ جس مسلمان کے قلب میں یہ بات آجائے کہ آپؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت و رسالت میں سے کسی کی گنجائش ہے تو وہ دائرۃِ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اس ارتاد کی بنابر اجرب القتل گردانا جائے گا تاوقتیکہ توبہ کرے۔

اس بنابر امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جھوٹے مدعا نبوت سے دلیل طلب کرنے والے کے لئے بھی دائرۃِ اسلام سے خارج ہونے کا فتویٰ صادر فرمایا ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ”ختم نبوت کامل“ میں بے شمار آیات کریمہ کی صراحت و دلالت اور سینکڑوں احادیث مبارکہ سے ثابت کیا ہے کہ آپؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کی نبوت و رسالت کا امکان باقی نہیں رہتا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری زمانہ میں جھوٹے مدعا اسود غصی کے قتل کا حکم صادر فرمایا کہ اس بات کی وضاحت کر دی تھی کہ شریعت اسلامیہ میں جھوٹے مدعا نبوت اور اس کے پیروکار واجب القتل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف بری کے بعد امت میں جس مسئلہ پر سب سے پہلا اجماع ہوا وہ صحابہ کرامؓ کے درمیان مسئلہ ختم نبوت پر تھا۔ خلیفہ اول و جانشین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسیلہ کذاب کے جھوٹے دعویٰ نبوت کو مسترد کرتے ہوئے جہاد کا اعلان کیا اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نہ صرف اس کی تائید کی بلکہ عملی طور پر اس جہاد میں شرکت کی۔

اجماع امت کے حوالہ سے ہم تاریخِ اسلامی کا مطالعہ کرتے ہیں تو تمام اکابر امت کی تصریح ملتی ہے کہ چودہ سو سالہ اسلامی دور میں کوئی دور ایسا نہیں گزر رہا جس میں اس بات پر علمائے امت کا اجماع نہ ہو کہ آپؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص

منصب نبوت پر فائز نہیں ہو سکتا اور جو شخص آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ مرتد اور دائرۃِ اسلام سے خارج ہے۔

علامہ علی قاریؒ شرح فقہ اکبر کے صفحہ ۲۰۲ میں صراحت کے ساتھ فرماتے ہیں

کہ:

”دعویٰ النبوة بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم“

کفر بالجماع۔“

ترجمہ: ”ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا

دعویٰ کرنا بالجماع کفر ہے۔“

حافظ ابن حزم الاندلسیؒ اپنی کتاب ”الفصل فی الملل والا ہوا والخل“ کے صفحہ

۷۷ جلد اپریم طراز میں کہ:

”قد صح عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم“

بنقل الكواف التى نقلت نبوته واعلامه وكتابه انه

اخبر انه لا نبى بعده الا ما جاءت الاخبار الصحاح

من نزول عيسى عليه السلام الذى بعث الى بنى

اسرائيل وادعى اليهود قتله وصلبه فوجب القرار

بهذه الحملة وصح ان وجود النبوة بعده عليه السلام

باطل لا يكون اليه۔“

ترجمہ: ”جس کثیر تعداد جماعت اور جم غیر نے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور نشانات اور قرآن مجید کو

نقل کیا ہے اسی کثیر تعداد جماعت اور جم غیر کی نقل سے حضور

اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ثابت ہو چکا ہے کہ آپ کے

بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا۔ البتہ صحیح احادیث میں یہ ضرور آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ یہ وہی عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے تھے اور یہود نے جن کو قتل کرنے اور صلیب دینے کا دعویٰ کیا تھا۔ پس اس امر کا اقرار واجب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا وجود باطل ہے، ہرگز نہیں ہو سکتا۔“

حافظ فضل اللہ تور پشتی ”المحتمد فی المعتقد“ کے صفحہ ۹۲ پر فرماتے ہیں کہ وازاں جملہ آنست کہ تصدیق وی کند کہ بعد ازاوی صحیح نبی نباشد مرسل و نہ غیر مرسل، و مراد از خاتم النبیین آنست کہ نبوت را مہر کر دنوبوت بآمدن اوتمام شد یا بمعنی آنکہ خدا تعالیٰ پیغمبری را بوسی ختم کر دختم خدائی حکم است بدآنچہ ازاں نخواهد گردایند۔“

ترجمہ: ”مخلصہ عقائد کے یہ ہے کہ اس بات کی تصدیق کرے کہ آپؐ کے بعد کوئی نبی نہیں، نہ رسول اور نہ غیر رسول، اور خاتم النبیین سے مراد یہ ہے کہ آپؐ نے نبوت پر مہر لگادی اور نبوت آپؐ کی تشریف آوری سے حد تام کو پہنچ گئی، یا یہ معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ نے پیغمبری پر آپؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ مہر لگادی اور خدا تعالیٰ کا مہر کرنا اس بات کا حکم ہے کہ آپؐ کے بعد نبی نہیں بھیجے گا۔“

فتاویٰ عالگیری کے صفحہ ۲۶۳ جلد ۲ میں تصریح سے مذکور ہے کہ ”اذالم يعرف الرجل ان محمدًا صلی الله علیه وسلم آخر الانبياء فليس بمسلم او قال انا رسول الله او قال بالفارسية من پیغمبرم یرید به من پیغامی برم یکفر۔“

ترجمہ: ”جب کوئی شخص یہ عقیدہ نہ رکھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو وہ مسلمان نہیں اور اگر کہے کہ میں رسول ہوں یا فارسی میں کہے کہ میں پیغمبر ہوں اور مراد یہ ہو کہ میں پیغام پہنچاتا ہوں تب بھی کافر ہو جاتا ہے۔“

فقہ شافعی کی مستند کتاب ”مغني المحتاج شرح منهاج“ ص ۱۳۵ ج ۲

میں صراحت سے مذکور ہے کہ:

”(او) نفی (الرسل) بان قال لم يرسلهم الله او نفی النبوة نبی او ادعی نبوة بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم او صدق مدعیہا او قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم اسود او امرد او غیر قریشی او قال النبوة مكتسبة او تنال رتبتها بصفاء النبوت او اوحى الى ولم يدع نبوة (او) كذب رسولاً او نبیا او سبہ او استخف به او باسمه او باسم الله (کفر)۔“

ترجمہ: ”یا کوئی شخص رسولوں کی نفی کرے اور یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں بھیجا یا کسی خاص نبی کی نبوت کا انکار کرے یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے یا مدعی نبوت کی تصدیق کرے یا یہ کہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم (نعوذ بالله) کا لے تھے یا بے ریش تھے، یا قریشی نہیں تھے، یا یہ کہے کہ نبوت حاصل ہو سکتی ہے یا قلب کی صفائی کے ذریعہ نبوت کے رتبے کو پہنچ سکتے ہیں، یا نبوت کا دعویٰ تو نہ کرے مگر یہ کہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے یا کسی رسول و نبی کو

جھوٹا کہے یا نبی کو برا بھلا کہے یا کسی نبی کی تحریر کرے، یا اللہ تعالیٰ کے نام کی تحریر کرے تو ان سب صورتوں میں کافر ہو جائے گا۔“
خبلی مسلک کے مشہور و مستند مجموعہ فتاویٰ مخفی ابن قدامہ کے صفحہ ۱۲۲ جلد ۱۰
میں اس اس سلسلہ میں یہ حکم تحریر ہے کہ:

”وَمَنْ أَدْعَى النَّبِيَّةَ أَوْ صَدَقَ مِنْ أَدْعَاهَا فَقَدْ
أَرْتَدَ لَانِ مُسِيلَمَةَ لِمَا أَدْعَى النَّبِيَّةَ فَصَدَقَهُ قَوْمُهُ صَارُوا
بِذَلِكَ مُرْتَدِينَ وَ كَذَلِكَ طَلِيقَةُ الْأَسْدِيِّ وَ
مَصْدِقُوهُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا
تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ ثَلَاثُونَ كَذَابُوْنَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ
أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ۔“

ترجمہ: ”جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے یا مدعا نبوت کی تصدیق کرے وہ مرتد ہے کیونکہ مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کی قوم نے اس کی تصدیق کی تو وہ بھی اس کی وجہ سے مرتد قرار پائی، اسی طرح طلحہ اسدی اور اس کے تصدیق کنندگان بھی، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت قائم نہیں ہو گی یہاں تک کہ تمیں جھوٹے نکلیں گے، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ رسول اللہ ہے۔“
قاضی عیاض ”الشفاء“ کے صفحہ ۲۲۶ جلد ۲ میں تحریر فرماتے ہیں کہ:

”وَ كَذَلِكَ مَنْ أَدْعَى نَبِيَّةً أَحَدًا مَعَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بَعْدِهِ أَوْ مَنْ أَدْعَى النَّبِيَّةَ لِنَفْسِهِ أَوْ جُوزَ
اَكْتَسَابِهَا وَ كَذَلِكَ مَنْ أَدْعَى مِنْهُمْ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ وَ
أَنَّ لَمْ يَدْعَ النَّبِيَّةَ فَهُوَ لَاءٌ كُلُّهُمْ كُفَّارٌ مُكَذِّبُونَ لِلنَّبِيِّ“

صلی اللہ علیہ وسلم لانہ اخبار صلی اللہ علیہ وسلم انہ خاتم النبیین لانہ بعدہ و اخبار عن اللہ تعالیٰ انہ خاتم النبیین وانہ ارسل کافہ للناس واجمعت الامة علی حمل هذا الكلام علی ظاهرہ وان مفہومہ المراد به دون تاویل ولا تخصیص فلا شک فی کفر هولاء الطوائف کلها قطعاً اجماعاً و سمعاً۔“

ترجمہ: ”اسی طرح جو شخص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا آپؐ کے بعد کسی شخص کے نبی ہونے کا مدئی ہو..... یا خود اپنے لئے نبوت کا دعویٰ کرے یا نبوت کے حصول کو اور صفائے قلب کے ذریعہ مرتبہ نبوت تک پہنچنے کو جائز رکھے اسی طرح جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ اس پر وحی نازل ہوتی ہے خواہ صراحتاً نبوت کا دعویٰ نہ کرے تو یہ سب لوگ کافر ہیں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ آپؐ خاتم النبیین ہیں اور یہ کہ آپؐ کے بعد کوئی نبی نہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی خبر دی ہے کہ آپؐ خاتم النبیین ہیں اور یہ کہ آپؐ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لئے مبعوث کئے گئے ہیں اور پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ یہ کلام ظاہر پر محمول ہے اور یہ کہ بغیر کسی تاویل و تخصیص کے اس سے ظاہری مفہوم ہی مراد ہے، اس لئے ان تمام لوگوں کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں اور ان کا کفر کتاب و سنت اور اجماع کی رو سے قطعی ہے۔“

ان تمام شواہد و براہین کی بنابرہ مارے مرشد شہید اسلام حضرت مولا نا محمد یوسف لدھیانوی نور اللہ مرقدہ نے اپنے رسالے ”عقیدۃ ختم نبوت“ (مشمولہ تحفہ قادریانیت

جلد اول) میں قرآنی آیات، احادیث نبویہ اور اجماع امت کے تمام اقوال اور فقہائے کرام کی تصریحات تحریر فرمانے کے بعد خصوصی کلام کے طور پر تحریر فرمایا ہے کہ:
 ”قرآن کریم، احادیث متواترہ، فقہائے امت کے فتاویٰ اور اجماع امت کی رو سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلا استثناء

تمام انبیاءے کرام علیہم السلام کے علی الاطلاق خاتم ہیں، اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص کسی معنی و مفہوم میں بھی نبی نہیں کہلا سکتا، نہ منصب نبوت پر فائز ہو سکتا ہے اور جو شخص اس کا مدغی ہو وہ کافر اور دائرۃ الاسلام سے خارج ہے۔

اور یہ خاتمیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اعلیٰ ترین شرف و منزلت اور عظیم الشان اعزاز و اکرام ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کا نبی بن کر آنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت توہین ہے، کیونکہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی آمد فرض کی جائے تو سوال ہو گا کہ اس نئے نبی کو کچھ نئے علوم بھی دیئے گئے یا نہیں؟ اگر کہا جائے کہ اس نئے نبی کو نئے علوم نہیں دیئے گئے بلکہ وہی علوم اس پر دوبارہ نازل کئے گئے تھے تو قرآن مجید اور علوم نبوی کے موجود ہوتے ہوئے دوبارہ انہی علوم کو نازل کرنا کا رعبث ہو گا اور حق تعالیٰ شانہ عبث سے منزہ ہیں..... اور اگر یہ کہا جائے کہ بعد کے نبی کو ایسے علوم دیئے گئے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیئے گئے تو اس سے نعوذ بالله..... آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا ناقص ہونا، قرآن کریم کا تمام دینی امور

کے لئے واضح بیان (تبیاناً لکل شبیہ) نہ ہونا اور دین اسلام کا کامل نہ ہونا لازم آئے گا اور یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم کی اور دین اسلام کی سخت توجیہ ہے۔

علاوہ ازیں اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی آمد فرض کی جائے تو ظاہر ہے کہ اس پر ایمان لانا لازم ہو گا اور اس کا انکار کفر ہو گا ورنہ نبوت کے کیا معنی؟ اور یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسرے انداز میں توجیہ و تتفییص ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ نے پورے دین پر ایمان رکھنے کے باوجود کافر ہے اور ہمیشہ کے لئے دوزخ کا مستحق ہو جس کے معنی یہ ہوں گے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی (نوع ذ باللہ) کفر سے بچانے اور دوزخ سے نجات دلانے کے لئے کافی نہیں۔“

جو ہٹے مدعاں نبوت کے فتنہ کا آغاز اس وقت ہی ہو گیا تھا جب مسیلہ کذاب نے اپنے قبیلہ بنو حیفہ کے ساتھ آستانہ نبوی پر حاضر ہو کر بیعت اسلام کی مگر ساتھ یہ درخواست بھی کر دی کہ مجھے اپنا جانشین یا خلیفہ مقرر کر دیں۔ اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں کھجور کی ایک بُنیٰ تھی۔ آپ نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تم امر خلافت میں اگر مجھ سے یہ شاخ بھی طلب کرو تو میں دینے کو تیار نہیں۔ یہاں پر بھی مورخین کے مطابق اصل صورت حال یہ تھی کہ مسیلہ کذاب نے بیعت کے لئے خلافت یا نبوت میں شرکت کی شرط رکھی تھی؛ جب آپ نے قبول نہیں فرمائی تو اس نے بیعت اسلام ہی نہیں کی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اس نے نبوت میں شرکت کا اعلان کر دیا۔ اس فتنہ کو خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جہاد کے

ذریعہ ختم کیا اور مسلمہ کذاب اپنے تمیں ہزار لشکر سمیت جہنم رسید ہوا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف بری سے چند دن قبل اسود عنی نے جھوٹا دعویٰ نبوت کیا اور اہل نجران کو شعبدہ بازی اور کہانت کے چکروں میں ڈال کر اپنا پیر و کار بنالیا۔ بعد ازاں اس نے یمن پر چڑھائی کر کے پورے یمن پر قبضہ کر لیا۔ حضرت عمر و بن حزم اور حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہما نے مدینہ منورہ پہنچ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع پہنچائی جس پر آپ نے اہل یمن کے بعض سرداروں کو اہل نجران و یمن کے خلاف جہاد کے لئے خطوط تحریر فرمائے اور اسود عنی کو قتل کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ اسود عنی نے یمن کے شہر صنعاہ پر فتح پانے کے بعد اس کے مسلمان حاکم شہر بن باذان کو شہید کر کے ان کی الہیہ آزاد کو جبری طور پر اپنا حکوم بنالیا تھا۔ اس مسلمان عورت کے عم زاد حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ کو جو شاہ جہش کے بھانجے تھے ان واقعات کی اطلاع می تو وہ اپنی بہن کی مدد کو پہنچ اور ابھی بہن کی نجات کے لئے فکر مند تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جہاد اور اسود عنی کے قتل کا حکم ملا۔ اس پر انہوں نے اپنی بہن کے ساتھ مل کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کا مخصوصہ بنایا اور اپنی بہن سے مل کر اسود عنی کو اس کے محل کے اندر ہی قتل کرنے کی مہم تیار کی اور ایک رات موقع پا کر حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ محل کے عقب سے نقب لگا کر اسود عنی کے کمرے میں پہنچ گئے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے اسود عنی جاگ گیا۔ حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ نے فوری طور پر جست لگا کر اسود عنی کو پکڑ لیا اور اس کی گردان مرود دی۔ شور سن کر پھرہ دار آئے تو آزاد نے کہا کہ خاموش رہو! تمہارے نبی پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ اسود کے مرتبے ہی حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ نے اس کے قتل

کا اعلان کیا اور موزن نے بھر کی اذان میں ”اشهد ان محمد رسول اللہ“ کے بعد ”اشهد ان عیہلہ کذاب“ کے الفاظ کے ساتھ اہل یمن کو اس سے نجات حاصل کرنے کی خوشخبری سنائی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آنحضرت تو آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم جمعیں کو ان الفاظ کے ساتھ خوشخبری سنائی:

”فاز فیروز!“

ترجمہ: ”فیروز کامیاب ہو گیا!“

آپ کی وفات کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس پہلے جھوٹے مدعاً نبوت کے جہنم رسید ہونے کی اطلاع تفصیل کے ساتھ آئی۔ اس طرح آپ کی یہ سنت جاری ہوئی کہ جھوٹا مدعاً نبوت واجب القتل ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق قیامت تک تیس کذاب دجال پیدا ہوں گے۔ ہم چودہ سو سالہ تاریخ اسلامی کا مطالعہ کرتے ہیں تو اب تک ایسے جھوٹے مدعاً نبوت کی تعداد ہزاروں سے تجاوز کر چکی ہے جنہوں نے کسی نہ کسی انداز میں دعواً نبوت کیا مگر بڑے جھوٹے مدعاً نبوت جن کی جھوٹی نبوت کو کسی نہ کسی حد تک کوئی حیثیت حاصل ہوئی یا جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ کسی شمار میں ہوئے ان کی تعداد ابھی تک تیس کو نہیں پہنچی۔ اس بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ ابھی قیامت تک ایسے کچھ اور فتنے بھی رونما ہوں گے جو ملت اسلامیہ کے لئے ناسور بنیں گے اور ان میں سب سے آخری دجال اعظم یعنی کانا دجال ہو گا، جس کے قتل کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لا کیں گے۔ چودہ سو سالہ تاریخ میں جتنے بھی جھوٹے مدعاً نبوت کے قتوں کا ظہور ہوا، امت مسلمہ نے ان کا قلع قلع کرنے کے لئے بھر پور کروار ادا کیا، اس لئے ان قتوں میں سے کوئی فتنہ باقی نہیں رہا، البتہ انہیوں صدی کے اختتام اور بیسویں صدی

کے شروع میں انگریزی استبداد و غلامی میں مرزا غلام احمد قادریانی کی شکل میں جھوٹے مدعی نبوت کے برپا کردہ جس فتنہ قادریانیت نے سراٹھایا باوجود ایک صدی گزر جانے کے وہ اب تک ملت اسلامیہ کو ناسور کی شکل میں تضان پہنچانے کے درپے ہے۔ فتنہ قادریانیت محدث العصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق اتنا بڑا فتنہ تھا جس کے آغاز کے وقت ایسا اندازہ ہوتا تھا کہ یہ ملت اسلامیہ کو اپنے بہاؤ میں بہا کر لے جائے گا، لیکن علمائے دیوبند نے اس کے آگے بند باندھ کر اس فتنہ کی شرائیکیزیوں اور گمراہیوں سے اسٹ کو حفظ کر دیا۔

فتنه قادریانیت کی سب سے بڑی خرابی اور اس برائی کی جز یہ ہے کہ اس فتنہ کو ہمیشہ عیسائیوں اور یہودیوں کی سرپرستی حاصل رہی اور اس نے اسلام کا الیاد و اوڑھ کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا بیڑہ اٹھایا۔ زن، زر اور ز میں اور مال و دولت اس کے سب سے بڑے تھیار رہے ہیں اور متعدد مسائل و عقائد میں ٹکوک و شبہات اور بحث و مباحثے کے ذریعہ مسلمانوں کے ایمان کو متزلزل کرنا اس کا طریقہ کار رہا ہے۔ اس لئے جب بھی ہم ان کے کسی مناظرہ یا مباحثہ کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ حیات و نژادل عیسیٰ علیہ السلام، ختم نبوت کا مفہوم اجرائے تبوت، امام مہدیؑ کی تشریف آوری جیسے علمی اور دلیق مسائل کے بارے میں گفتگو کرتے نظر آتے ہیں، جن کے بارے میں مسلمان عقیدہ کی مضبوطی کی حد تک تو واقفیت رکھتے ہیں مگر ان امور پر علمی بحث عوام الناس تو کیا اکثر علمائے کرام کے دائرة علم سے بھی باہر ہوتی ہے۔ اس لئے اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے منتسب طلباء کے لئے ایسا نصاب تیار کیا جائے جس میں ان مباحثہ کا احاطہ کیا جائے اور اس کا

باقاعدہ امتحان ہو۔ اس سلسلے میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے درخواست کی جس کو وفاق المدارس، العربیہ پاکستان کے صدر حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے اپنی مجلس عاملہ سے منظور کر اک نصاب کی تیاری کی ذمہ داری عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے سپرد کی۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر مرکزیہ حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب مدظلہ نے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی مرکزی مجلس شوریٰ کی منظوری سے شایین ختم نبوت مولانا اللہ و سایا کے ذمہ یہ خدمت سپرد کی۔ انہوں نے بہت محنت اور دقت نظر سے یہ نصاب تیار کیا جس کو حضرت مولانا عبدالجید صاحب کہروڑ پکا، حضرت مولانا عزیز الرحمن جالندھری اور راقم الحروف کے علاوہ دیگر علمائے کرام نے نظر ثانی کے بعد مستند اور مفید قرار دیا۔ امید ہے کہ یہ نصاب نہ صرف اس ضرورت کو پورا کرے گا بلکہ اس کے پڑھنے والے ایک عظیم مبلغ اور مناظر ختم نبوت کے طور پر تیار ہو کر امت مسلمہ کو فتنہ قادر یا نیت کے ناسور سے بچانے کے لئے اہم کردار ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور امت کے علمائے کرام اور اہل علم کے لئے نافع بنائے۔ و ما توفیق الا بالله۔

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآلہ واصحابہ جمعین

ڈاکٹر مفتی نظام الدین شامزی

شیخ الحدیث جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ناؤں

حکیم العصر مولا نا محمد یوسف لدھیانوی کے ارشادات

- ☆ اگر بہر و پنے کے طور پر بھی کسی کو نبی بنا تھا تو نقل مطابق اصل تو ہوتی۔ شکل دیکھو، فہم دیکھو، فراست دیکھو، مرزا غلام احمد قادریانی نبیوں کا مقابلہ کرتا ہے۔
- ☆ ہماری غیرت کا اصل تقاضا تو یہ ہے کہ دنیا میں ایک قادریانی بھی زندہ نہ بچے۔ حکومت کو چاہئے کہ پکڑ کر ان خبیثوں کو مار دے۔
- ☆ عقیدہ نزول عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا فرض ہے۔ اس کا انکار کفر ہے۔ اور اس کی تاویل کرنا زبیع و ضلال اور کفر والخاد ہے۔

☆.....☆.....☆

حکیم العصر مولا نا محمد یوسف لدھیانوی کے ارشادات

- ☆ ہر قادریانی کے منہ پر ایک سنت برستی ہے جس کو اہل نظر فوراً پہچان لیتے ہیں۔
- ☆ زندقیں ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہو مگر در پرده کفر یہ عقائد رکھتا ہو۔
- ☆ مرزا قادریانی سب دہریوں سے بڑھ کر اپنے دہریہ ہونے کا اعلان کرتا ہے۔
- ☆ قادریانی کا ذیجہ کسی حال میں بھی حلال نہیں بلکہ مردار ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ختم نبوت

سوال: ۱: ختم نبوت کا معنی اور مطلب اور اس کی اہمیت، اور آپ ﷺ کی ذات اطہر کے ساتھ اس منصب کی خصوصیات کو واضح طور پر بیان کریں؟

جواب: ختم نبوت کا معنی اور مطلب:

اللہ رب العزت نے سلسلہ نبوت کی ابتداء سیدنا آدم علیہ السلام سے فرمائی اور اس کی انتہا محمد عربی ﷺ کی ذات اقدس پر فرمائی۔ آنحضرت ﷺ پر نبوت ختم ہو گئی۔ آپ آخراں اعیا ہیں، آپ کے بعد کسی کو نبی نہ بنایا جائے گا۔ اس عقیدہ کو شریعت کی اصطلاح میں عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔

عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت:

ختم نبوت کا عقیدہ ان اجتماعی عقائد میں سے ہے، جو اسلام کے اصول اور ضروریات دین میں شمار کئے گئے ہیں، اور عہد نبوت سے لے کر اس وقت تک ہر مسلمان اس پر ایمان رکھتا آیا ہے کہ آنحضرت ﷺ بلا کسی تاویل اور تخصیص کے خاتم النبیین ہیں۔

الف: قرآن مجید کی ایک سوالات کر،

ب: رحمت عالمی اللہ کی احادیث متواترہ (دو سو دس احادیث مبارک) سے یہ

مسئلہ ثابت ہے۔

ج: آنحضرت ﷺ کی امت کا سب سے پہلا اجماع اسی مسئلہ پر منعقد ہوا، چنانچہ امام اعصر حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیریؒ اپنی آخری کتاب ”خاتم النبین“ میں تحریر فرماتے ہیں:

”واول اجماع کے دریں امت منعقد شدہ اجماع بر قتل مسیلمہ
کذاب بودہ کہ بسبب دعویٰ نبوت بود، شائع دگروے صحابہ الرعدۃ
وے معلوم شدہ، چنانکہ ابن خلدون آورہ سپس اجماع بلا فصل قرنا
بعد قرآن بر کفر و ارتدا و قتل مدعا نبوت ماندہ و یعنی تفصیلے از بحث نبوت
ترشیحیہ وغیر ترشیحیہ نبودہ۔“

ترجمہ: ”اور سب سے پہلا اجماع جو اس امت میں منعقد ہوا
وہ مسیلمہ کذاب کے قتل پر اجماع تھا، جس کا سب صرف اس کا دعویٰ
نبوت تھا، اس کی دیگر گھناؤنی حرکات کا علم صحابہ کرامؐ گو اس کے قتل
کے بعد ہوا تھا، جیسا کہ ابن خلدونؓ نے نقل کیا ہے، اس کے بعد قرنا
بعد قرآن مدعا نبوت کے کفر و ارتدا و قتل پر ہمیشہ اجماع بلا فصل رہا
ہے، اور نبوت ترشیحیہ یا غیر ترشیحیہ کی کوئی تفصیل کبھی زیر بحث نہیں
آئی۔“ (خاتم النبین ص: ۲۷، ترجمہ ص: ۱۹)

حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ نے اپنی تصنیف ”مسک الخاتم فی ختم نبوة“

سید الانامؓ میں تحریر فرمایا ہے کہ:

”امت محمدؓ میں سب سے پہلا اجماع جو ہوا، وہ اسی مسئلہ پر
ہوا کہ مدعا نبوت کو قتل کیا جائے۔“ (احساب قادیانیت ج: ۲، ص: ۱۰)

آنحضرت ﷺ کے زمانہ حیات میں اسلام کے تحفظ و دفاع کے لئے جتنی جنگیں اڑی

گئیں، ان میں شہید ہونے والے صحابہ کرامؓ کی کل تعداد ۲۵۶ ہے۔ (رحمۃ للعلمین ج ۲، ص: ۲۱۳: قاضی سلمان منصور پوری) اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ و دفاع کے لئے اسلام کی تاریخ میں پہلی جنگ جو سیدنا صدیقؓ اکبرؒ کے عہد خلافت میں مسیلمہ کذاب کے خلاف بیامہ کے میدان میں لڑی گئی، اس ایک جنگ میں شہید ہونے والے صحابہؓ اور تابعینؓ کی تعداد بارہ سو ہے (جن میں سے سات سو قرآن مجید کے حافظ اور عالم تھے)۔ (ختم نبوت کامل ص ۳۰۳ حصہ سوم از منقی محمد شفیع و مرقاۃ المفاتیح ج ۲۲ ص ۵)

رحمۃ عالیۃ اللہ علیہ کی زندگی کی کل کمائی اور گراں قدر امامۃ حضرات صحابہ کرامؓ میں، جن کی بڑی تعداد اس عقیدہ کے تحفظ کے لئے جام شہادت نوش کر گئی۔ اس سے ختم نبوت کے عقیدہ کی عظمت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ انہی حضرات صحابہ کرامؓ میں سے ایک صحابی حضرت حبیب بن زید انصاری خزر جیؓ کی شہادت کا واقعہ ملاحظہ ہو:

”حبیب بن زید الانصاری الخزرجی“

هو الذى ارسله رسول الله ﷺ الى مسیلمة الكذاب
الحنفى صاحب اليمامه فكان مسیلمة اذا قال له اتشهد ان
محمد رسول الله قال نعم و اذا قال اتشهد انى رسول الله
قال انا اصم لا اسمع ففعل ذلك مرارا فقطعه مسیلمة عضوا
عضوا فمات شهيدا۔“

(اسد الغابہ فی معرفة الصحابة ج: ۱، ص: ۴۲۱ طبع بیروت)

ترجمہ: ”حضرت حبیب بن زید انصاریؓ کو آنحضرت ﷺ

نے یمامہ کے قبیلہ بنو حنیفہ کے مسیلمہ کذاب کی طرف بھیجا، مسیلمہ کذاب نے حضرت حبیبؓ سے کہا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ حضرت حبیبؓ نے فرمایا ہاں، مسیلمہ نے کہا کہ کیا تم

اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں (میلہ) بھی اللہ کا رسول ہوں؟
 حضرت جبیبؓ نے جواب میں فرمایا کہ میں بہرا ہوں تیری یہ بات
 نہیں سن سکتا، میلہ بار بار سوال کرتا رہا، وہ یہی جواب دیتے رہے
 اور میلہ ان کا ایک ایک عضو کا ثار رہا تھی کہ جبیبؓ بن زید کے جسم
 کے نکڑے نکڑے کر کے ان کو شہید کر دیا گیا۔“

اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام مسئلہ ختم نبوت کی عظمت و اہمیت سے
 کس طرح والہانہ تعلق رکھتے تھے، اب حضرات تابعینؓ میں سے ایک تابعؓ کا واقعہ بھی
 ملاحظہ ہو: ”حضرت ابو مسلم خولاںی“ جن کا نام عبد اللہ بن ثوبؓ ہے اور یہ امت محمدیہ (علی
 صاحبہ السلام) کے وہ جلیل القدر بزرگ ہیں جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے آگ کو اسی طرح
 بے اثر فرمادیا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے آتش نمرود کو گزار بنا دیا تھا۔ یہ یمن
 میں پیدا ہوئے تھے اور سرکار دو عالمیت کے عہد مبارک ہی میں اسلام لاچکے تھے لیکن
 سرکار دو عالمیت کی خدمت میں حاضری کا موقع نہیں ملا تھا۔ آنحضرت ﷺ کی حیات
 طیبہ کے آخری دور میں یمن میں نبوت کا جھوٹا وعدہ اسود عنیٰ پیدا ہوا۔ جو لوگوں کو اپنی
 جھوٹی نبوت پر ایمان لانے کے لئے مجبور کیا کرتا تھا۔ اسی دوران اس نے حضرت ابو مسلم
 خولاںیؓ کو پیغام صحیح کرانے پاس بلایا اور اپنی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دی، حضرت
 ابو مسلمؓ نے انکار کیا پھر اس نے پوچھا کہ کیا تم محمد ﷺ کی رسالت پر ایمان رکھتے ہو؟
 حضرت ابو مسلم نے فرمایا ہاں، اس پر اسود عنیٰ نے ایک خوفناک آگ دہکائی اور حضرت
 ابو مسلمؓ کو اس آگ میں ڈال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے آگ کو بے اثر فرمادیا، اور
 وہ اس سے صحیح سلامت نکل آئے۔ یہ واقعہ اتنا عجیب تھا کہ اسود عنیٰ اور اس کے رفقاء پر
 ہیبت کی طاری ہو گئی اور اسود کے ساتھیوں نے اسے مشورہ دیا کہ ان کو جلاوطن کر دو، ورنہ
 خطرہ ہے کہ ان کی وجہ سے تمہارے قیروں کے ایمان میں تزلزل آجائے، چنانچہ انہیں
 یمن سے جلاوطن کر دیا گیا۔ یمن سے نکل کر ایک ہی جائے پناہ تھی، یعنی مدینہ منورہ، چنانچہ

یہ سرکار دو عالم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے چلے، لیکن جب مدینہ منورہ پہنچ تو
 معلوم ہوا کہ آنتاب رسالت روپوش ہو چکا ہے۔ آنحضرت ﷺ وصال فرمائے تھے، اور
 حضرت صدیق اکبر خلیفہ بن چکے تھے، انہوں نے اپنی اوثنی مسجد نبویؐ کے دروازے کے
 پاس بٹھائی اور اندر آ کر ایک ستون کے پیچے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ وہاں حضرت عمرؓ
 موجود تھے۔ انہوں نے ایک اجنبی مسافر کو نماز پڑھتے دیکھا تو ان کے پاس آئے اور جب
 وہ نماز سے فارغ ہو گئے تو ان سے پوچھا: آپ کہاں سے آئے ہیں؟ یہن سے! حضرت
 ابو مسلمؓ نے جواب دیا۔ حضرت عمرؓ نے فوراً پوچھا: اللہ کے دشمن (اسود غمی) نے ہمارے
 ایک دوست کو آگ میں ڈال دیا تھا، اور آگ نے ان پر کوئی اثر نہیں کیا تھا، بعد میں ان
 صاحب کے ساتھ اسود نے کیا معاملہ کیا؟ حضرت ابو مسلمؓ نے فرمایا: ان کا نام عبد اللہ بن
 ثوب ہے۔ اتنی دری میں حضرت عمرؓ کی فراست اپنا کام کر چکی تھی، انہوں نے فوراً فرمایا: میں
 آپ کو قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا آپ ہی وہ صاحب ہیں؟ حضرت ابو مسلم خولاؓ نے
 جواب دیا: ”جی ہاں!“ حضرت عمرؓ نے یہ سن کر فرط مسرت و محبت سے ان کی پیشانی کو بوسہ
 دیا، اور انہیں لے کر حضرت صدیق اکبرؑ کی خدمت میں پہنچے، انہیں صدیق اکبرؑ کے اور اپنے
 درمیان بٹھایا اور فرمایا: اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے موت سے پہلے امت محمدیہ کے
 اس شخص کی زیارت کرادی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسا
 معاملہ فرمایا تھا۔“ (حلیۃ الاولیاء ص ۱۲۹، ج ۲، تہذیب وجہ ۶ ص ۳۵۸، تاریخ ابن عساکر
 ص ۳۱۵، ج ۷، جہاں دیدہ ص ۲۹۳ و ترجمان السنۃ ص ۳۲۷ ج ۲)

منصب ختم نبوت کا اعزاز:

قرآن مجید میں ذات باری تعالیٰ کے متعلق ”رب العالمین“، آنحضرت ﷺ کی
 ذات اقدس کے لئے ”رحمۃ للعالمین“، قرآن مجید کے لئے ”ذکر للعالمین“ اور بیت اللہ
 شریف کے لئے ”حدی للعالمین“ فرمایا گیا ہے، اس سے جہاں آنحضرت ﷺ کی نبوت و

رسالت کی آفاقت و عالمگیریت ثابت ہوتی ہے، وہاں آپؐ کے وصف ختم نبوت کا اختصاص بھی آپؐ کی ذات اقدس کے لئے ثابت ہوتا ہے، اس لئے کہ پہلے تمام انبیاء علیہم السلام اپنے اپنے علاقہ، مخصوص قوم اور مخصوص وقت کے لئے تشریف لائے، جب آپؐ تشریف لائے تو حق تعالیٰ نے کل کائنات کو آپؐ کی نبوت و رسالت کے لئے ایک اکائی (ون یونٹ) بنادیا۔

جس طرح کل کائنات کے لئے اللہ تعالیٰ ”رب“ ہیں، اسی طرح کل کائنات کے لئے آنحضرت ﷺ ”نبی“ ہیں۔ یہ صرف اور صرف آپؐ کا اعزاز و اختصاص ہے۔ آنحضرت ﷺ نے اپنے لئے جن چھ خصوصیات کا ذکر فرمایا ان میں سے ایک یہ بھی ہے:

”ارسلت الى الخلق كافة وختم بي النبيون“
 ترجمہ: ”میں تمام مخلوق کے لئے نبی بننا کر بھیجا گیا اور مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔“

(مکملۃ ص ۱۵۱ باب فضائل سید المرسلین، مسلم ج ۱۹۹ اکتاب المساجد)

آنحضرت ﷺ آخری نبی ہیں آپؐ کی امت آخری امت ہے، آپؐ کا قبلہ آخری قبلہ (بیت اللہ شریف) ہے، آپؐ پر نازل شدہ کتاب آخری آسمانی کتاب ہے۔ یہ سب آپؐ کی ذات کے ساتھ منصب ختم نبوت کے اختصاص کے تقاضے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پورے کر دیئے، چنانچہ قرآن مجید کو ذکر للعالمین اور بیت اللہ شریف کو حدی للعالمین کا اعزاز بھی آپؐ کی ختم نبوت کے صدقے میں ملا۔ آپؐ کی امت آخری امت قرار پائی جیسا کہ ارشاد نبوی ہے: ”انا آخر الانبياء وانتم آخر الامم۔“ (ابن ماجہ ص ۲۹۷)

حضرت علامہ جلال الدین سیوطیؒ نے اپنی شہرہ آفاقت کتاب ”خصائص الکبریٰ“ میں آنحضرت ﷺ کا خاتم النبین ہونا، آپؐ ہی کی خصوصیت قرار دیا ہے۔ (دیکھئے ج: ۲، ص ۱۹۳، ۲۸۳)

اسی طرح امام العصر علامہ سید محمد انور شاہ کشیریؒ فرماتے ہیں:

”وَخَاتَمَ بُوْدَنَ آخِرُهُرَتْ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) از
میان اعیا از بعض خصائص و کمالات مخصوصہ کمال ذاتی
خود است۔“ (خاتم النبیین فارسی ص: ۲۰)

ترجمہ: ”اور اعیا میں آنحضرت ﷺ کا خاتم ہونا،
آپ کے مخصوص فضائل و کمالات میں سے خود آپ کا اپنا
ذاتی کمال ہے۔“ (خاتم النبیین اردو ص: ۱۸۷)

سوال: ۲:..... قال اللہ تعالیٰ: ”ما کان محمد ابا احمد

من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین“ اس آیت
کی توضیح و تشریع ایسے طور سے کریں کہ مسئلہ ختم نبوت تکھر کر
سامنے آجائے اور اس موضوع پر کچھی جانے والی کتابوں میں
سے پانچ کتابوں کے نام تحریر کریں؟

جواب: آیت خاتم النبیین کی تفسیر:

”ما کان محمد ابا احمد من رجالکم ولکن رسول الله
و خاتم النبیین و کان اللہ بكل شئی علیما۔“ (سورہ الحزاب: ۲۰)
ترجمہ: ”محمد باپ نہیں کسی کا تمہارے مردوں میں سے لیکن
رسول ہے اللہ کا اور مہربن نبیوں پر اور ہے اللہ سب چیزوں کو جاننے
والا۔“

شان نزول:

اس آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے کہ آن قتاب نبوت ﷺ کے طلوع ہونے سے پہلے

تمام عرب جن رسومات میں بتاتے ہیں، ان میں سے ایک رسم یہ بھی تھی کہ متینی یعنی لے پاک بیٹے کو تمام احکام و احوال میں حقیقی اور نسبی بیٹا سمجھتے تھے، اس کو بیٹا کہہ کر پکارتے تھے اور مرنے کے بعد شریک و راثت ہونے میں اور رشتے ناطے اور حلت و حرمت کے تمام احکام میں حقیقی بیٹا قرار دیتے تھے۔ جس طرح نسبی بیٹے کے مرجانے یا طلاق دینے کے بعد باپ کے لئے بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام ہے، اسی طرح وہ لے پاک کی بیوی سے بھی اس کے مرنے اور طلاق دینے کے بعد نکاح کو حرام سمجھتے تھے۔

یہ رسم بہت سے مفاسد پر مشتمل تھی: اختلاط انسب، غیر وارث شرعی کو اپنی طرف سے وارث بنانا، ایک شرعی حلال کو اپنی طرف سے حرام قرار دینا وغیرہ وغیرہ۔

اسلام جو کہ دنیا میں اسی لئے آیا ہے کہ کفر و ضلالت کی بے ہودہ رسوم سے عالم کو پاک کر دے، اس کا فرض تھا کہ وہ اس رسم کے استیصال (جز سے اکھاڑنے) کی فکر کرتا، چنانچہ اس نے اس کے لئے دو طریق اختیار کئے، ایک قوی اور دوسرا عملی۔ ایک طرف تو یہ اعلان فرمادیا:

”وَمَا جعلَ ادعِيَاءَ كُمْ أَبْنَاءَ كُمْ ذَلِكُمْ قُولُكُمْ
بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوكُمْ
لَابَاءَ هُمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ۔“ (سورة احزاب: ۵، ۶)

ترجمہ: ”اور نہیں کیا تمہارے لے پاکوں کو تمہارے بیٹے، یہ تمہاری بات ہے اپنے منہ کی اور اللہ کہتا ہے ٹھیک بات اور وہی سمجھاتا ہے راہ، پکارو لے پاکوں کو ان کے باپ کی طرف نسبت کر کے، یہی پورا انصاف ہے اللہ کے بیہاں۔“

اصل مدعای تو یہ تھا کہ شرکت نسب اور شرکت و راثت اور احکام حلت و حرمت وغیرہ میں اس کو بیٹا نہ سمجھا جائے، لیکن اس خیال کو بالکل باطل کرنے کے لئے یہ حکم دیا کہ متینی یعنی لے پاک بنانے کی رسم ہی توڑوی جائے، چنانچہ اس آیت میں ارشاد ہو گیا کہ لے پاک کو

اس کے باپ کے نام سے پکارو۔ نزول وحی سے پہلے آنحضرت ﷺ نے حضرت زید بن حارثہ کو (جو کہ آپؐ کے غلام تھے) آزاد فرمائ کر حتمی (لے پا لک بیٹا) بنالیا تھا اور تمام لوگ یہاں تک کہ صحابہ کرامؐ بھی عرب کی قدیم رسم کے مطابق ان کو "زید بن محمدؐ" کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ نے اس طریق کو چھوڑ کر ان کو "زید بن حارثہ" کہنا شروع کیا۔ صحابہ کرامؐ اس آیت سے ہم نے اس طریق کو چھوڑ کر ان کو "زید بن حارثہ" کہنا شروع کیا۔ صحابہ کرامؐ اس آیت کے نازل ہوتے ہی اس رسم قدیم کو خیر باد کہہ چکے تھے، لیکن چونکہ کسی راجح شدہ رسم کے خلاف کرنے میں اعزہ و اقارب اور اپنی قوم و قبیلہ کے ہزاروں طعن و تشنج کا نشانہ بننا پڑتا ہے، جس کا تحمل ہر شخص کو دشوار ہے۔ اس لئے خداوند عالم نے چاہا کہ اس عقیدہ کو اپنے رسولؐ کے ہاتھوں عملاً توڑا جائے، چنانچہ جب حضرت زیدؑ نے اپنی بی بی نسبؓ گوبایہی ناچاقی کی وجہ سے طلاق دے دی تو خداوند عالم نے اپنے رسول ﷺ کا نکاح ان سے کر دیا۔ زوج نہ کھا۔ تا کہ اس رسم و عقیدہ کا کلیّہ استیصال ہو جائے۔ چنانچہ ارشاد ہوا:

"فَلِمَا قُضِيَ زِيدٌ مِنْهَا وَطَرَا زِوْجُهُ كَمَا لَا يَكُونُ

عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرْجٌ فِي ازْوَاجِ ادْعِيَاءِ هُمْ "(احزاب: ۳۷)

ترجمہ: "پس جبکہ زیدؓ نسبؓ سے طلاق دے کر فارغ ہو گئے تو

ہم نے ان کا نکاح آپؐ سے کر دیا، تا کہ مسلمانوں پر اپنے لے پا لک کی بیویوں کے بارے میں کوئی مشکل واقع نہ ہو۔"

ادھر آپؐ کا نکاح حضرت زیدؓ سے ہوا اور جیسا کہ پہلے ہی خیال تھا، تمام کفار عرب میں شور مچا کر لو، اس نبی کو دیکھو کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر بیٹھے۔ ان لوگوں کے طعنوں اور اعتراضات کے جواب میں آسان سے یہ آیت نازل ہوئی، یعنی:

"مَا كَانَ مُحَمَّدًا أَبَا احْدَمْنَ رَجُالَكُمْ وَلَكُنْ رَسُولُ اللهِ

وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ - "(سورہ احزاب: ۳۰)

ترجمہ: ”محمد باب نبی کسی کا تمہارے مردوں میں سے لیکن رسول ہے اللہ کا اور مہرس ب نبیوں پر۔“

اس آیت میں یہ بتلا دیا گیا کہ آنحضرت ﷺ کسی مرد کے نبی باب نبیوں تو حضرت زیدؑ کے نبی باب بھی نہ ہوئے۔ لہذا آپؑ کا ان کی سابقہ بی بی سے نکاح کر لینا بلاشبہ جائز اور مستحسن ہے، اور اس بارے میں آپؑ کو مطعون کرنا سراسر نادانی اور حماقت ہے۔ ان کے دعوے کے رد کے لئے اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ آپؑ حضرت زیدؑ کے باب نبیوں، لیکن خداوند عالم نے ان کے مطاعن کو مبالغہ کے ساتھ رد کرنے اور بے اصل ثابت کرنے کے لئے اس مضمون کو اس طرح بیان فرمایا کہ یہی نبیوں کا آپؑ زیدؑ کے باب نبیوں بلکہ آپؑ تو کسی مرد کے بھی باب نبیوں، پس ایک ایسی ذات پر جس کا کوئی بیٹا ہی موجود نہیں یہ الزام لگانا کہ اس نے اپنے بیٹے کی بی بی سے نکاح کر لیا کس قدر ظلم اور کھروی ہے۔ آپؑ کے تمام فرزند بچپن ہی میں وفات پا گئے تھے، ان کو مرد کہے جانے کی نوبت ہی نہیں آئی آیت میں ”رجالکم“ کی قید اسی لئے بڑھائی گئی ہے۔ بالجملہ اس آیت کے نزول کی غرض آنحضرت ﷺ سے کفار و منافقین کے اعتراضات کا جواب دیتا اور آپؑ کی برآت اور عظمت شان بیان فرماتا ہے اور یہی آیت کاشان نزول ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے: ”ولکن رسول الله و خاتم النبیین۔“ (لیکن رسول ہے اللہ کا اور مہرس ب نبیوں پر)

خاتم النبیین کی قرآنی تفسیر:

اب سب سے پہلے قرآن مجید کی رو سے اس کا ترجمہ و تفسیر کیا جانا چاہئے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ ”ختم“ کے مادہ کا قرآن مجید میں سات مقامات پر استعمال ہوا ہے:
۱:”ختم الله على قلوبهم“ (سورہ بقرہ: ۷) (مہر کردی اللہ نے ان کے دلوں پر)
۲:”ختم على قلوبكم“ (سورہ انعام: ۳۶) (مہر کردی تمہارے دلوں پر)

- ۳: "ختم علی سمعہ و قلبہ" (سورہ جاشرہ: ۲۳) (مہر کردی ان کے کان پر اور دل پر)
- ۴: "الیوم نختم علی افواہہم" (سورہ یسین: ۶۵) (آج ہم مہر لگادیں گے ان کے منہ پر)
- ۵: "فان یشاء اللہ یختتم علی قلبک" (سورہ شوریٰ: ۲۳) (سو اگر اللہ چاہے مہر کر دے تیرے دل پر)
- ۶: "رُحْيَقٌ مَخْتَوْمٌ" (سورہ مطہر: ۲۵) (مہر لگی ہوئی خالص شراب)
- ۷: "خَتَّامَهُ مَسْكٌ" (سورہ مطہر: ۲۶) (جس کی مہر جنمی ہے مشک پر)
- ان ساتوں مقامات کے اول و آخر، سیاق و سیاق کو دیکھ لیں "ختم" کے مادہ کا لفظ جہاں کہیں استعمال ہوا ہے۔ ان تمام مقامات پر قد ر مشترک یہ ہے کہ کسی چیز کو ایسے طور پر بند کرنا، اس کی ایسی بندش کرنا کہ باہر سے کوئی چیز اس میں داخل نہ ہو سکے، اور اندر سے کوئی چیز اس سے باہر نہ نکالی جاسکے، وہاں پر "ختم" کا لفظ استعمال ہوا ہے، مثلاً پہلی آیت کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے دلوں پر مہر کر دی، کیا معنی؟ کہ کفران کے دلوں سے باہر نہیں نکل سکتا اور باہر سے ایمان ان کے دلوں کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا: "ختم اللہ علی قلوبہم" اب زیر بحث آیت خاتم النبیین کا اس قرآنی تفسیر کے اعتبار سے ترجمہ کریں تو اس کا معنی ہو گا کہ رحمت دو عالم ﷺ کی آمد پر حق تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے سلسلہ پر ایسے طور پر بندش کر دی، بند کر دیا، مہر لگادی کہ اب کسی نبی کو نہ اس سلسلہ سے نکالا جاسکتا ہے اور نہ کسی نئے شخص کو سلسلہ نبوت میں داخل کیا جاسکتا ہے۔ فہو المقصود۔ لیکن قادر یا نی اس ترجمہ کو نہیں مانتے۔

خاتم النبیین کی نبوی تفسیر:

"عَنْ ثُوبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

أَنَّهُ سَيَكُونُ فِي أَمْتَى كَذَابِنَ ثَلَاثَةٍ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَ

انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔“

(ابوداؤد ۲۷۴۲ حکایت الفتن والفقوله، ترمذی ص ۳۵۵ ج ۲)

ترجمہ: ”حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ میری امت میں تمیں جھوٹے پیدا ہوں گے، ہر ایک بھی کہے گا کہ میں نبی ہوں حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی کسی قسم کا نبی نہیں۔“

اس حدیث شریف میں آنحضرت ﷺ نے لفظ ”خاتم النبیین“ کی تغیر ”لانبی بعدی“ کے ساتھ خود فرمادی ہے۔

ای لئے حافظ ابن کثیرؓ اپنی تفسیر میں اس آیت کے تحت چند احادیث نقل کرنے کے بعد آٹھ سطر پر مشتمل ایک نہایت ایمان افروز ارشاد فرماتے ہیں۔ چند جملے آپؐ بھی پڑھ لجھجے:

”وَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ وَرَسُولُهُ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّنْنَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ عَنْهُ أَنَّ لَا نَبِيَ بَعْدَهُ
لِيَعْلَمُوا أَنَّ كُلَّ مَنْ ادْعَى هَذَا الْمَقَامَ بَعْدَهُ فَهُوَ كَذَابٌ أَفَاكٌ
دِجَالٌ ضَالٌّ مَضْلُّ، وَلَوْ تَحْرُقُ وَشَعْدُ وَالْيَابِنُوَاعُ السُّحْرِ
وَالظَّلَامِ۔“ (تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۲۹۲)

ترجمہ: ”اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث متواتر کے ذریعہ خبر دی کہ آپؐ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تاکہ لوگوں کو معلوم رہے کہ آپؐ کے بعد جس نے بھی اس مقام (یعنی نبوت) کا دعویٰ کیا وہ بہت جھوٹا، بہت بڑا افترا پرداز بڑا ہی مکار اور فرمی، خود گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہوگا، اگرچہ وہ خوارق عادات اور شعبدہ بازی دکھائے اور مختلف

ختم کے جادو اور طلسماتی کر شموں کا مظاہرہ کرے۔“

خاتم النبینین کی تفسیر صحابہ کرامہ سے:

حضرات صحابہ کرامہ دو تبا بعین کا مسئلہ ختم نبوت سے متعلق کیا موقف تھا۔ خاتم النبینین کا ان کے نزدیک کیا ترجمہ تھا؟ اس کے لئے حضرت مفتی محمد شفیع صاحبؒ کی ”کتاب ختم نبوت کامل“ کے تیسرے حصہ کا مطالعہ فرمائیں۔ یہاں پر صرف دو تبا بعین کرامہ کی آراء مبارکہ درج کی جاتی ہیں۔ امام ابو جعفر ابن جریر طبریؒ اپنی عظیم الشان تفسیر میں حضرت قادہؓ سے خاتم النبینین کی تفسیر میں روایت فرماتے ہیں:

”عن قادة ولكن رسول الله و خاتم النبین ای آخرهم۔“

(ابن حجریس ۲۲۱۶ ج ۱۷)

ترجمہ: ”حضرت قادہؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے آیت کی تفسیر میں فرمایا، اور لیکن آپؐ اللہ کے رسول اور خاتم النبینین یعنی آخرالنبینین ہیں۔“

حضرت قادہؓ کا یہ قول شیخ جلال الدین سیوطیؒ نے تفسیر دزمنثور میں عبد الرزاق اور عبد بن حمید اور ابن منذر اور ابن الجائم سے بھی نقل کیا ہے۔ (دریمنثورص ۲۰۲۳ ج ۵) اس قول نے بھی صاف و ہی بتلا دیا جو ہم اور قرآن عزیز اور احادیث سے نقل کرچکے ہیں کہ خاتم النبینین کے معنی آخرالنبینین ہیں، کیا اس میں کہیں تشریحی غیر تشریحی اور بروزی و ظلی وغیرہ کی کوئی تفصیل ہے؟ نیز حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کی قرأت ہی آیت مذکور میں: ”ولکن نبینا خاتم النبین“ ہے۔ جو خود اسی معنی کی طرف ہدایت کرتی ہے جو بیان کئے گئے، اور سیوطیؒ نے درمنثور میں بحوالہ عبد بن حمید حضرت حسنؓ سے نقل کیا ہے:

”عن الحسن فی قوله و خاتم النبین قال ختم الله

النبین بمحمد ﷺ و كان آخر من بعث.“ (دریمنثورص ۲۰۲۳ ج ۵)

ترجمہ: ”حضرت حسنؓ سے آیت خاتم النبین کے بارہ میں یہ تفسیر نقل کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو محب و خلائق پر ختم کر دیا اور آپؐ ان رسولوں میں سے جو اللہ کی طرف سے مبouth ہوئے آخری شہر ہے۔“

کیا اس جیسی صراحتوں کے بعد بھی کسی شک یا تاویل کی گنجائش ہے؟ اور پروزی ظلیٰ کی تاویل چل سکتی ہے؟

خاتم النبین اور اصحاب لغت:

خاتم النبین ”ت“ کی زبریازی سے ہو قرآن و حدیث کی تصریحات اور صحابہؓ و تابعینؓ کی تفاسیر اور ائمہ سلفؓ کی شہادتوں سے بھی قطع نظر کر لی جائے اور فیصلہ صرف لغت عرب پر رکھ دیا جائے تب بھی لغت عرب یہ فیصلہ دیتی ہے کہ آیت مذکورہ کی پہلی قرأت پر دو معنی ہو سکتے ہیں، آخر خاتم النبین اور نبیوں کے ختم کرنے والے، اور دوسری قرأت پر ایک معنی ہو سکتے ہیں یعنی آخر خاتم النبین۔ لیکن اگر حاصل معنی پر غور کیا جائے تو دونوں کا خلاصہ صرف ایک ہی نکلتا ہے اور بہ لحاظ مراد کہا جاسکتا ہے کہ دونوں قرأتوں پر آیت کے معنی لختا یہی ہیں کہ آپؐ سب انبیاء علیہم السلام کے آخر ہیں، آپؐ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، جیسا کہ تفسیر ”روح المعانی“ میں تبصرت موجود ہے:

”وَالْخَاتِمُ اسْمُ آلَةٍ لِمَا يَخْتَمُ بِهِ كَالظَّابِعِ لِمَا يَطْبَعُ بِهِ“

فمعنی خاتم النبین الذی ختم النبیوں بہ و مآلہ آخر النبیین۔“ (روح المعانی ص ۳۲ ج ۲۲)

ترجمہ: ”اور خاتم بالفتح اس آلہ کا نام ہے جس سے مهر لگائی جائے۔ پس خاتم النبین کے معنی یہ ہوں گے: ”وَهُنَّا جس پر انبیاء ختم کئے گئے“ اور اس معنی کا نتیجہ بھی یہی آخر خاتم النبین ہے۔“

اور علامہ احمد معروف بے ملاجیوں صاحبؒ نے اپنی تفسیر احمدی میں اسی الفہر کے معنی کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ہے:

”وَالْمَالُ عَلَىٰ كُلِّ توجيهٍ هُوَ الْمَعْنَىُ الْآخِرُ وَ لِذَلِكَ
فَسِرْ صَاحِبُ الْمَدَارِكَ قَرْلَةُ عَاصِمٍ بِالْآخِرِ وَ صَاحِبُ
الْبَيْضَاوِيِّ كُلِّ الْقُرَائِتَيْنِ بِالْآخِرِ۔“

ترجمہ: ”اور نتیجہ دونوں صورتوں (الفتح و بالکسر) میں وہ صرف معنی آخر ہی ہیں اور اسی لئے صاحب تفسیر مدارک نے قرأت عاصم یعنی بالفتح کی تفسیر آخر کے ساتھ کی ہے اور بیضاویؒ نے دونوں قرأتوں کی یہی تفسیر کی ہے۔“

روح المعانی اور تفسیر احمدی کی ان عبارتوں سے یہ بات بالکل روشن ہو گئی کہ لفظ خاتم کے دو معنی آیت میں بن سکتے ہیں، اور ان دونوں کا خلاصہ اور نتیجہ صرف ایک ہی ہے یعنی آخر النبین اور اسی بنا پر بیضاویؒ نے دونوں قرأتوں کے ترجمہ میں کوئی فرق نہیں کیا، بلکہ دونوں صورتوں میں آخر النبین تفسیر کی ہے۔ خداوند عالم ائمہ لغت کو جزاۓ خیر عطا فرمائے کر انہوں نے صرف اسی پربس نہیں کی کہ لفظ خاتم کے معنی کو جمع کر دیا، بلکہ تصریح کیا اس آیت شریفہ کے متعلق جس سے اس وقت ہماری بحث ہے صاف طور پر بتلادیا کہ تمام معانی میں سے جو لفظ خاتم میں لغایا گھٹیل ہیں، اس آیت میں صرف یہی معنی ہو سکتے ہیں کہ آپ سب انہیاً کے ختم کرنے والے اور آخری نبی ہیں۔

خدائے علیم و خیر ہی کو معلوم ہے کہ لغت عرب پر آج تک کتنی کتابیں چھوٹی بڑی اور معتبر و غیر معتبر لکھی گئیں، اور کہاں کہاں اور کس کس صورت میں موجود ہیں۔ ہمیں نہ ان سب کے جمع کرنے کی ضرورت ہے اور نہ یہ کسی بشر کی طاقت ہے، بلکہ صرف ان چند کتابوں سے جو عرب و عجم میں مسلم الثبوت اور قابل استدلال سمجھی جاتی ہیں ”مشتبه نمونہ از خروارے“ ہدہ ناظرین کر کے یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ لفظ خاتم بالفتح اور بالکسر کے معنی ائمہ لغت نے آیت

ذکورہ میں کون سے معنی تحریر کئے ہیں۔

(۱) مفردات القرآن: یہ کتاب امام راغب اصفہانی کی وہ عجیب تصنیف ہے کہ اپنی نظر نہیں رکھتی، خاص قرآن کے لغات کو نہایت عجیب انداز سے بیان فرمایا ہے۔ شیخ جلال الدین سیوطیؒ نے اتفاقاً میں فرمایا ہے کہ لغات قرآن میں اس سے بہتر کتاب آج تک تصنیف نہیں ہوئی، آیت مذکورہ کے متعلق اس کے الفاظ یہ ہیں:

”وحاتم النبيين لانه ختم النبوة اي تمها

“بمحییه” (مفردات راغبی ص: ۱۳۲)

ترجمہ: "آنحضرت ﷺ کو خاتم النبیین اس لئے کھا جاتا ہے

کر آپ نے بہوت کو ختم کر دیا، یعنی آپ نے تشریف لا کر بہوت کو

تمام فرمادیا۔

(۲) الحکم لابن السیدہ: لغت عرب کی وہ معتمد علیہ کتاب ہے، جس کو علامہ سیوطی نے ان معتبرات میں سے شمار کیا ہے کہ جن پر قرآن کے بارے میں اعتماد کیا جاسکے۔

اس میں الحکایہ:

”وختام کل شئی و خاتمه عاقبته و آخره از لسان

العرب-

ترجمہ: ”اور خاتم اور خاتمه ہر شے کے انجام اور آخر کو کہا جاتا

“
—

(۳) لسان العرب: لغت کی مقبول کتاب ہے۔ عرب دعائم میں مستند مانی جاتی ہے، اس کی عبارت یہ ہے:

”خاتمهم و خاتمهم : آخرهم عن اللحياني و محمد

عليه السلام خاتم الانبياء عليه و عليهم الصلوة و السلام۔ (سان العرب ص ۲۵۷ طبع پیر دہرا)

ترجمہ: ”خاتم القوم بالکسر اور خاتم القوم بالفتح کے معنی آخر القوم ہیں اور انہی معانی پر لحیانی سے نقل کیا جاتا ہے، محمد ﷺ خاتم الاعیا (یعنی آخر الاعیا) ہیں۔“

اس میں بھی بوضاحت بتایا گیا کہ بالکسر کی قراءت پڑھی جائے یا بالفتح کی صورت میں خاتم النبین اور خاتم الاعیا کے معنی آخر النبین اور آخر الاعیا ہوں گے۔ لسان العرب کی اس عبارت سے ایک قاعدہ بھی مستفاد (دال) ہوتا ہے کہ اگرچہ لفظ خاتم بالفتح اور بالکسر دونوں کے بھیثیت نفس لغت بہت سے معانی ہو سکتے ہیں، لیکن جب قوم یا جماعت کی طرف سے اس کی اضافت کی جاتی ہے تو اس کے معنی صرف آخر اور ختم کرنے والے کے ہوتے ہیں۔ غالباً اسی قاعدہ کی طرف اشارہ کرنے کے لئے لفظ خاتم تہاذ کرنہیں کیا، بلکہ قوم اور جماعت کی ضمیر کی طرف اضافت کے ساتھ بیان کیا ہے۔

لغت عرب کے تسع (تلائش کرنے) سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ لفظ خاتم بالکسر یا بالفتح جب کسی قوم یا جماعت کی طرف مضاف ہوتا ہے تو اس کے معنی آخر ہی کے ہوتے ہیں۔ آیت مذکورہ میں بھی خاتم کی اضافت جماعت ”نبین“ کی طرف ہے۔ اس لئے اس کے معنی آخر النبین اور نبیوں کے ختم کرنے والے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتے، اس قاعدہ کی تائید تاج العروس شرح قاموس سے بھی ہوتی ہے۔ وہ ہذا:

(۲) تاج العروس: شرح قاموس للعلامة الزبيدي میں لحیانی سے نقل کیا ہے:

”وَمِنْ اسْمَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْخَاتِمُ وَالْخَاتِمُ وَهُوَ الَّذِي

ختم النبوة بمحمدیہ“

ترجمہ: ”اور آخر حضرت ﷺ کے اسماء مبارک میں سے خاتم بالکسر اور خاتم بالفتح بھی ہے اور خاتم وہ شخص ہے جس نے اپنے تشریف لانے سے نبوت کو ختم کر دیا۔“

(۵) قاموس:

”والخاتم آخر القوم كالخاتم ومنه قوله تعالى:

”وَخَاتَمُ النَّبِيِّنَ إِذَا آخَرَهُمْ“

ترجمہ: ”اور خاتم بالکسر اور بالفتح، قوم میں سب سے آخر کو کہا جاتا ہے اور اسی معنی میں ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد خاتم النبین یعنی آخر النبین۔“

اس میں بھی لفظ ”قوم“ بڑھا کر قاعدة مذکورہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ نیز مسئلہ زیر بحث کا بھی نہایت وضاحت کے ساتھ فیصلہ کر دیا ہے۔

لغت عرب کے غیر محدود و فترت میں سے یہ چند اقوال ائمہ لغت بطور ”شیء نمونہ از خروارے“ پیش کئے گئے ہیں۔ جن سے انشاء اللہ تعالیٰ ناظرین کو یقین ہو گیا ہو گا کہ از روئے لغت عرب، آیت مذکورہ میں خاتم النبین کے معنی آخر النبین کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتے، اور لفظ خاتم کے معنی آیت میں آخر اور ختم کرنے والے کے علاوہ ہرگز مراد نہیں بن سکتے۔

خلاصہ: اس آیت مبارکہ میں آپؐ کے لئے خاتم النبین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، قرآن و سنت، صحابہ کرام، تابعین کی تفسیرات کی رو سے اس کا معنی آخری نبی کا ہے، اور اصحاب لغت کی تصنیفات نے ثابت کر دیا ہے کہ خاتم کا لفظ جب جمع کی طرف مضاف ہے تو اس کا معنی سوئے آخری کے اور کوئی ہوئی نہیں سکتے۔ چنانچہ مرتضیٰ قادریانی نے بھی خاتم کو جمع کی طرف مضاف کیا ہے، وہاں بھی اس کے معنی آخری کے ہی ہیں، ملاحظہ فرمائیے:

”میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکی یا لڑکا

”نبیں ہوا، اور میں ان کے لئے خاتم الاول والا دھھا۔“

(تیاق القلوب ص ۱۵ اخراں ص ۹۷۴)

ختم نبوت کے موضوع پر کتابوں کے نام:

- ۱: اس مقدس موضوع پر اکابرین امت نے بیسیوں کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے دس کتابوں کے نام یہ ہیں:
- ۱: "ختم نبوت کامل" (مؤلف: مفتی محمد شفیع صاحب)
 - ۲: "مسک الخاتم فی ختم نبوت سید الانام علیہ السلام مشمولہ احتساب قادریانیت جلد دوم (مؤلف: مولانا محمد ادريس کاندھلوی)
 - ۳: "عقیدۃ الامۃ فی معنی ختم نبوة" (مؤلف: علامہ خالد محمود)
 - ۴: "ختم نبوت قرآن و سنت کی روشنی میں" (مؤلف: مولانا سرفراز خان صدر)
 - ۵: "فلسفہ ختم نبوت" (مؤلف: مولانا حافظ الرحمن سیوطہ راوی)
 - ۶: "مسئلہ ختم نبوت علم و عقل کی روشنی میں" (مؤلف: مولانا محمد الحق سنديلوی)
 - ۷: "ختم نبوت" (مؤلف: پروفیسر یوسف سلیم چشمی)
 - ۸: "خاتم النبیین" (مؤلف: مولانا محمد انور شاہ کشمیری ترجمہ: مولانا محمد یوسف لدھیانوی)
 - ۹: "علمگیر نبوت" (مؤلف: مولانا نشیش الحق افغانی)
 - ۱۰: "عقیدۃ ختم نبوت" (مؤلف: مولانا محمد یوسف لدھیانوی)، مندرجہ تھے قادریانیت جلد اول)

سوال: ۳: مسئلہ ختم نبوت جن آیات مبارکہ اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہوتا ہے، ان میں سے تین تین آیات مبارکہ اور احادیث نقل کر کے ان کی تشریع قلم بند کریں؟

جواب:

ختم نبوت سے متعلق آیات:

سورہ احزاب کی آیت ۲۰ آیت خاتم النبین کی تشریع و توضیح پہلے گورنچی ہے اب دوسری آیات ملاحظہ ہوں:

۱: ”...هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَ دِينِ الْحَقِّ“

(توبہ: ۴۳، مصہد: ۹) ”لیظہرہ علی الدین کله۔“

ترجمہ: ”اور وہ ذات وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول ﷺ کو

ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ تمام ادیان پر بلند اور غالب کرے۔“

نوٹ: غلبہ اور بلند کرنے کی یہ صورت ہے کہ حضور ہی کی نبوت اور وحی پر مستقل طور پر ایمان لانے اور اس پر عمل کرنے کو فرض کیا ہے اور تمام اہمیاً علیہم السلام کی نبوتیں اور وحیوں پر ایمان لانے کو اس کے تابع کرو دیا ہے اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ آپؐ کی بعثت سب اہمیاً کرام سے آخر ہو اور آپؐ کی نبوت پر ایمان لانا اسکے نسب نبیوں پر ایمان لانے کو مشتمل ہو۔ بالفرض اگر آپؐ کے بعد کوئی نبی باعتبار نبوت مبعوث ہو تو اس کی نبوت پر اور اس کی وحی پر ایمان لانا فرض ہو گا جو دین کا اعلیٰ رکن ہو گا تو اس صورت میں تمام ادیان پر غلبہ مقصود نہیں ہو سکتا، بلکہ حضور علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لانا اور آپؐ کی وحی پر ایمان لانا مغلوب ہو گا کیونکہ آنحضرت ﷺ پر اور آپؐ کی وحی پر ایمان رکھتے ہوئے بھی اگر اس نبی اور اس کی وحی پر ایمان نہ لایا تو نجات نہ ہو گی کافروں میں شار ہو گا۔ کیونکہ صاحب الزمان رسول یہی ہو گا، حضور علیہ السلام صاحب الزمان رسول نہ ہیں گے۔ (معاذ اللہ)

۲: ”...وَ اذَا خَدَ اللَّهَ مِيثَاقَ النَّبِيِّنَ لِمَا اتَيْتُكُمْ مِّنْ

كتاب و حکمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم

لتو من به و لتنصرنہ۔“ (آل عمران: ۸۱)

ترجمہ: ”جب اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں سے عہد لیا کہ جب کبھی میں تم کو کتاب اور نبوت دوں، پھر تمہارے پاس ایک ”وہ رسول“ آجائے جو تمہاری کتابوں اور وحیوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا (یعنی اگر تم اس کا زمانہ پاؤ) تو تم سب ضرور ضرور اس رسول پر ایمان لانا اور ان کی مدد فرض سمجھنا۔“

اس سے بکمال وضاحت ظاہر ہے کہ اس رسول مصدق کی بعثت سب نبیوں کے آخر میں ہوگی وہ آنحضرت ﷺ ہیں۔ اس آیت کریمہ میں دو لفظ غور طلب ہیں، ایک تو ”یہاں انہیں“، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عہد تمام دیگر ایک یہاں علیہم السلام سے لیا گیا تھا، دوسرا ”شم جاءكم“، لفظ ”شم“ ترانی کے لئے آتا ہے یعنی اس کے بعد جو بات مذکور ہے وہ بعد میں ہوگی اور درمیان میں زمانی فاصلہ ہوگا۔ اس کا ۱۰ مطلب یہ ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سب سے آخر میں اور کچھ عرصہ کے وقف سے ہوگی۔ اس لئے آپؐ کی آمد سے پہلے کا زمانہ زمانہ فترت کہلاتا ہے:

”قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل۔“

(ما نہد: ۱۹)

۳:.....”و ما ارسلنک الا کافہ للناس بشیراً و نذیراً۔“

(سبا: ۲۸)

ترجمہ: ”ہم نے تم کو تمام دنیا کے انسانوں کے لئے بشیر اور نذیر بنایا کر بھیجا ہے۔“

۴:.....”قل يأيها الناس انى رسول الله اليكم جمیعاً۔“

ترجمہ: ”فرما دیجئے کہ اے لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ

کار رسول ہوں۔“

نحوٰ: یہ دونوں آیتیں صاف اعلان کر رہی ہیں کہ حضور علیہ السلام بغیر استثناء تمام انسانوں کی طرف رسول ہو کر تشریف لائے ہیں جیسا کہ خود آپ نے فرمایا ہے:

”انا رسول من ادرکت حیا و من یولد بعدی۔“

ترجمہ: ”میں اس کے لئے بھی اللہ کا رسول ہوں جس کو اس کی

زندگی میں پالوں اور اس کے لئے بھی جو میرے بعد پیدا ہو۔“

(کنز العمال ج ۱۱ ص ۳۰۲) حدیث ۳۱۸۸۵، خاصص کبریٰ ص ۸۸ (ج ۲)

پس ان آیتوں سے واضح ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، قیامت تک آپ ہی صاحب الزماں رسول ہیں۔ بالفرض اگر آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث ہو تو حضور علیہ السلام کافٹہ الناس کی طرف اللہ تعالیٰ کے صاحب الزماں رسول نہیں ہو سکتے بلکہ براہ راست مستقل طور پر اسی نبی پر اور اس کی وحی پر ایمان لانا اور اس کو اپنی طرف اللہ کا بھیجا ہوا اعتقاد کرنا فرض ہوگا، ورنہ نجات ممکن نہیں اور حضور علیہ السلام کی نبوت اور وحی پر ایمان لانا اس کے ضمن میں داخل ہوگا۔ (معاذ اللہ)

”۵: و ما ارسلناك الا رحمة للعلمین۔“

(سورہ انبیاء: ۷۰)

ترجمہ: ”میں نے تم کو تمام جہان والوں کے لئے رحمت بنا کر

بھیجا ہے۔“

نحوٰ: یعنی حضور علیہ السلام پر ایمان لانا تمام جہان والوں کو نجات کے لئے کافی ہے۔ پس اگر بالفرض آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث ہو تو آپؐ کی امت کو اس پر اور اس کی وحی پر ایمان فرض ہوگا، اور اگرؐ آنحضرت ﷺ پر ایمان کامل رکھتے ہوئے بھی اس کی نبوت اور اس کی وحی پر ایمان نہ لاؤ۔ تو نجات نہ ہوگی اور یہ رحمۃ للعالمین کے منافی ہے کہ اب آپؐ پر مستقلًا ایمان لانا کافی نہیں، آپؐ صاحب الزماں رسول نہیں رہے؟ (معاذ اللہ)

۶:”الیوم اکملت لكم دینکم واتمت علیکم

نعمتی ورضیت لكم الاسلام دینا۔“ (سورہ مائدہ: ۳)

ترجمہ: ”آج میں پورا کرچکا تمہارے لئے دین تمہارا اور پورا کیا تم پر میں نے احسان اپنا اور پسند کیا میں نے تمہارے واسطے اسلام کو دین۔“

نوٹ: یوں تو ہر نبی اپنے اپنے زمانہ کے مطابق دینی احکام لاتے رہے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل زمانہ کے حالات اور تقاضے تغیر پذیر تھے اس لئے تمام نبی اپنے بعد آنے والے نبی کی خوشخبری دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ مبعوث ہوئے آپ پر زوال وحی کے اختتام سے دین پایہ تکمیل کو پہنچ گیا تو آپ کی نبوت اور وحی پر ایمان لانا تمام نبیوں کی نبوتوں اور ان کی وحیوں پر ایمان لانے پر مشتمل ہے، اسی لئے اس کے بعد ”واتمت علیکم نعمتی“ فرمایا، علیکم یعنی نعمت نبوت کو میں نے تم پر تمام کر دیا، لہذا دین کے اکمال اور نعمت نبوت کے اتمام کے بعد نہ تو کوئی نیا نبی آسکتا ہے اور نہ سلسلہ وحی جاری رہ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ اے امیر المؤمنین: ”قرآن کی یہ آیت اگر ہم پر نازل ہوتی ہم اس دن کو عید مناتے“ (رواہ البخاری)، اور حضور علیہ السلام اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اکیاں دن زندہ رہے (معارف القرآن ص ۲۷۳ ج ۳)، اور اس کے نزول کے بعد کوئی حکم حلال و حرام نازل نہیں ہوا۔ آپ آخری نبی اور آپ پر نازل شدہ کتاب کامل و مکمل، آخری کتاب ہے۔

۷:”يَا هَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ

الْكِتَابَ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابَ الَّذِي أَنْزَلَ

مِنْ قَبْلِهِ۔“ (النَّٰۤا: ۱۳۶)

ترجمہ: ”اے ایمان والو! ایمان لااؤ اللہ پر اور اس کے رسول

محمد ﷺ پر اور اس کتاب پر جس کو اپنے رسول پر نازل کیا ہے اور ان کتابوں پر جوان سے پہلے نازل کی گئیں۔“

نوٹ: یہ آیت بڑی وضاحت سے ثابت کر رہی ہے کہ ہم کو صرف حضور علیہ السلام کی نبوت اور آپؐ کی وحی اور آپؐ سے پہلے انبیاء اور ان کی وحیوں پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ اگر بالفرض حضور علیہ السلام کے بعد کوئی بعہدہ نبوت مشرف کیا جاتا تو ضرور تھا کہ قرآن کریم اس کی نبوت اور وحی پر ایمان لانے کی بھی تاکید فرماتا، معلوم ہوا کہ آپؐ کے بعد کوئی نبی نہیں بنایا جائے گا۔

۸: ”وَالذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقَنُونَ۔ اولئكَ عَلَى هُدًى مِّنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔“ (سورہ بقرہ: ۳، ۵)

ترجمہ: ”جو ایمان لاتے ہیں، اس وحی پر جو آپؐ پر نازل کی گئی اور اس وحی پر جو آپؐ سے پہلے نازل کی گئی اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ خدا کی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔“

۹: ”لَكُنَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ۔“ (سورہ نسا: ۱۲۲)

ترجمہ: ”لیکن ان میں سے راغب فی العلم اور ایمان لانے والے لوگ ایمان لاتے ہیں اس وحی پر جو آپؐ پر نازل ہوئی اور جو آپؐ سے پہلے انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوئی۔“

نوٹ: یہ دونوں آیتیں ختم نبوت پر صاف طور سے اعلان کر رہی ہیں بلکہ قرآن شریف میں سینکڑوں جگہ اس قسم کی آیتیں ہیں جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپؐ پر نازل شدہ وحی کے ساتھ آپؐ سے پہلے کے نبیوں کی نبوت اور ان کی وحی پر ایمان

رسنے کے لئے حکم فرمایا گیا لیکن بعد کے نبیوں کا ذکر کہیں نہیں آتا۔ ان دو آنکوں میں صرف حضور علیہ السلام کی وحی اور حضور علیہ السلام سے پہلے انبیاء علیہم السلام کی وحی پر ایمان لانے کو کافی اور مدارنجات فرمایا گیا ہے۔

۱۰: ”اَنَا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِكْرَ وَ اَنَا لَهُ لَخْفَظُونَ۔“

(سورہ حجر: ۹)

ترجمہ: ”تحقیق ہم نے قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔“

نوٹ: خداوند عالم نے اس آیت میں وعدہ فرمایا ہے کہ ہم خود قرآن کریم کی حفاظت فرمائیں گے یعنی محرفین کی تحریف سے اس کو بچائے رکھیں گے قیامت تک کوئی شخص اس میں ایک حرف اور ایک نقطہ کی بھی کسی زیادتی نہیں کر سکتا، اور نیز اس کے احکام کو بھی قائم اور برقرار رکھیں گے اس کے بعد کوئی شریعت نہیں جو اس کو منسوخ کر دے، غرض قرآن کے الفاظ اور معانی دونوں کی حفاظت کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد کسی قسم کا نبی نہیں ہو سکتا۔

تنبیہ: یہ آیتیں بطور اختصار کے ختم نبوت کے ثبوت اور تائید میں پیش کردی گئیں ورنہ قرآن کریم میں سو آیتیں ختم نبوت پر واضح طور پر دلالت کرنے والی موجود ہیں۔ (مزید تفصیل کیلئے دیکھئے ”ختم نبوت کامل“ از حضرت مولانا مفتی محمد شفیع)

ختم نبوت سے متعلق احادیث مبارکہ:

نوٹ: یہاں پر ہم اتنا عرض کر دیں کہ آئندہ صفحات میں ہم زیادہ تر احادیث کے الفاظ نقل کرنے پر اکتفا کریں گے۔ شارحین حدیث کے تشریحی اقوال نقل کرنے سے اجتناب کیا ہے تاکہ کتاب کا جنم زیادہ نہ ہو جائے۔

حدیث:۱.....

”عن ابی هریرة رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ ﷺ قال
مثلى و مثل الانبیاء من قبلي کمثیل رجل بنی بینا فاحسنہ
و أجمله الا موضع لبنة من زاوية من زوايہ فجعل الناس
يطوفون به و يعجبون له و يقولون هلا وضعت هذه اللبنة
قال فأنا اللبنة و أنا خاتم النبیین۔“

(صحیح بخاری کتاب المناقب ص ۵۰۱ ج ۱، صحیح مسلم ص ۲۳۸ ج ۲ واللکاظله)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیا کی
مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے بہت ہی حسین و جمیل محل بنایا مگر اس
کے کسی کو نے میں ایک ایسٹ کی جگہ چھوڑ دی، لوگ اس کے گرد
گھونٹنے اور اس پر عش عش کرنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ یہ ایک ایسٹ
کیوں نہ لگادی گئی؟ آپ نے فرمایا: میں وہی (کوئے کی آخری)
ایسٹ ہوں اور میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں۔“

حدیث:۲.....

”عن ابی هریرة رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ ﷺ قال
فضلت على الانبیاء بست اعطيت جو امع الكلم و نصرت
بالرعب وأحلت لى الغنائم و جعلت لى الارض طهورا و
مسجدأ و أرسلت الى الخلق كافة و ختم بى النبیون۔“

(صحیح مسلم ص ۱۹۹ ج ۱، مکملۃ ص ۵۱۲)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

رسول ﷺ نے فرمایا کہ مجھے چھ چیزوں میں انبیاء کرام علیہم السلام پر فضیلت دی گئی ہے: (۱) مجھے جامع کلمات عطا کئے گئے (۲) رب کے ساتھ میری مدد کی گئی (۳) مال غنیمت میرے لئے حلال کر دیا گیا ہے (۴) روئے زمین کو میرے لئے مسجد اور پاک کرنے والی چیز بنادیا گیا ہے (۵) مجھے تمام مخلوق کی طرف مبوعث کیا گیا ہے (۶) اور مجھ پر نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔“

اس مضمون کی ایک حدیث صحیحین میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بھی مردی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ مجھے پانچ چیزوں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں، اس کے آخر میں ہے:

”وَكَانَ النَّبِيُّ يَعْثُثُ إِلَى قَوْمٍ خَاصَّةً وَيَبْعَثُ إِلَى
النَّاسِ عَامَةً۔“ (مکملۃ ص ۵۱۲)

ترجمہ: ”پہلے انبیاء کو خاص ان کی قوم کی طرف مبوعث کیا جاتا تھا اور مجھے تمام انسانوں کی طرف مبوعث کیا گیا۔“

حدیث: ۳:.....

”عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَلِيٍّ انتَ مِنِ الْمُنْذَلَةِ هَرُونُ مِنْ مُوسَى الْأَ
نَّهُ لَا نَبِيَ بَعْدِي۔“ (بخاری ص ۲۳۳ ج ۲)

”وَفِي رِوَايَةِ الْمُسْلِمِ أَنَّهُ لَا نَبُوَّةَ بَعْدِي۔“
(صحیح مسلم ص ۲۸۷ ج ۲)

ترجمہ: ”سعد بن ابی وقار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: تم مجھ سے وہی نسبت رکھتے ہو جو ہارون کو موسیٰ (علیہما السلام) سے تھی، مگر میرے

بعد کوئی نبی نہیں۔“ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ: ”میرے بعد
نبوت نہیں۔“

حضرت شاہ ولی اللہ مدحہ شاہ دہلویؒ اپنی تصنیف ”ازالت الحفاظا میں ”ما آڑ علیؒ“ کے
تحت لکھتے ہیں:

”فمن المتواتر: أنت مني بعذلة هارون من موسى۔“

(ازالت الحفاظا مترجم ص ۳۳۳ ج ۲)

ترجمہ: ”متواتر احادیث میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ
آنحضرت ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: تم مجھ سے وہی
نسبت رکھتے ہو جو ہارون کو موسیٰ (علیہما السلام) سے تھی۔“

حدیث: ۲:

”عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسمهم الانبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وانه لا نبى بعدى وسيكون خلفاء فيكثرون.“

(صحیح بخاری ص ۳۹۱ ج ۱، واللقطل، صحیح مسلم ص ۱۲۶ ج ۲، مسند احمد ص ۲۹۷ ج ۲)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہؓ رسول اکرم ﷺ سے بیان کرتے
ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی قیادت خود ان
کے انبیاء کیا کرتے تھے، جب کسی نبی کی وفات ہوتی تھی تو اس کی جگہ
دوسرانی آتا تھا لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، البتہ خلفاً ہوں گے اور
بہت ہوں گے۔“

نوت: بنی اسرائیل میں غیر تشریعی انبیاء آتے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی
شریعت کی تجدید کرتے تھے، مگر آنحضرت ﷺ کے بعد رائے انبیاء کی آمد بھی بند ہے۔

حدیث: ۵

”عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ انه سيكون في امتى كذابون ثلاثة كلهم يزعم انه نبى وانا خاتم النبئين لا نبى بعدى۔“

(ابوداود ص ۱۴۲ کتاب الفتن واللقطة، ترمذی ص ۲۵۷ ح ۲۵)

ترجمہ: ”حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں تمیں جھوٹے پیدا ہوں گے، ہر ایک بھی کہے گا کہ میں نبی ہوں حالانکہ میں خاتم النبئین ہوں، میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں۔“

حدیث: ۶

”عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى ولا نبى۔“ (ترمذی ص ۱۵۷ ابواب الرؤيا، محدث حمودی ص ۳۶۷ ح ۳)

ترجمہ: ”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا کہ رسالت و نبوت ختم ہو چکی ہے، پس میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ نبی۔“

حدیث: ۷

”عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ﷺ يقول نحن الآخرون السابعون يوم القيمة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا۔“

(صحیح بخاری ص ۱۴۰ ابواب الرؤيا، صحیح مسلم ص ۲۸۲ ح ۱)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہؓ کو رسول اللہؐ نے فرمایا: ہم سب کے

بعد آئے اور قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے، صرف اتنا ہوا
کہ ان کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی۔“

حدیث: ۸:

”عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله ﷺ لو كان نبي
بعدي لكان عمر بن الخطاب“

(ترمذی ص ۲۰۹ ح ۱۲ ابواب المناقب)

ترجمہ: ”حضرت عقبہ بن عامرؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے
ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطابؓ ہوتے۔“

حدیث: ۹:

”عن جابر بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي
ﷺ يقول أن لى أسماء، أنا محمد، و أنا أحمد، و أنا
الماحى الذى يمحوا الله بي الكفر، و أنا الحاشر الذى
يحاشر الناس على قدمى، و أنا العاقب، و العاقب الذى ليس
بعده نبى۔“ (تفہم علیہ، ملکوۃ ص ۵۱۵)

ترجمہ: ”حضرت جابر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے خود سنائے کہ میرے چند
نام ہیں: میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی (مٹانے والا) ہوں
کہ میرے ذلیلے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹائیں گے اور میں حاشر (جمع
کرنے والا) ہوں کہ لوگ میرے قدموں پر اٹھائے جائیں گے اور
میں عاقب (سب کے بعد آنے والا) ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی
نہیں۔“

اس حدیث میں آنحضرت ﷺ کے دو اسائے گرامی آپؐ کے خاتم النبیین ہونے پر
دلالت کرتے ہیں۔ اول ”الحاشر“، حافظ ابن حجر فتح الباری میں اس کی شرح کرتے ہوئے
لکھتے ہیں:

”اشارة الى انه ليس بعده نبى ولا شريعة فلما كان لا

آمة بعد امته لأنه لا نبى بعده، نسب الحشر اليه، لأنه يقع
عقبه“ (فتح الباری ص ۲۰۶ ج ۲)

ترجمہ: ”یہ اس طرف اشارہ ہے کہ آپؐ کے بعد کوئی نبی اور
کوئی شریعت نہیں..... سو چونکہ آپؐ کی امت کے بعد کوئی امت نہیں
اور چونکہ آپؐ کے بعد کوئی نبی نہیں، اس لئے حشر کو آپؐ کی طرف
منسوب کر دیا گیا، کیونکہ آپؐ کی تشریف آوری کے بعد حشر ہو گا۔“

دوسرا اسم گرامی: ”العاقب“ جس کی تفسیر خود حدیث میں موجود ہے یعنی کہ: ”الذى
ليس بعده نبى“ (آپؐ کے بعد کوئی نبی نہیں)

حدیث ۱۰:

متعدد احادیث میں یہ مضمون آیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے انگشت شہادت اور
درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا:

”بعثت أنا وال الساعة كهاتين“ (مسلم ص ۲۰۶ ج ۲)

(مجھے اور قیامت کو اندواہنیوں کی طرح بھیجا گیا ہے)

ان احادیث میں آنحضرت ﷺ کی بعثت کے درمیان اتصال کا ذکر کیا گیا ہے جس
کے معنی یہ ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی تشریف آوری قرب قیامت کی علامت ہے اور اب
قیامت تک آپؐ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ چنانچہ امام قرطی ”تذکرہ“ میں لکھتے ہیں:

”وأما قوله ببعثت أنا وال الساعة كهاتين فمعناه أنا النبي

الأخير فلا يلينينبي آخر، وإنما تليني القيامة كما تلى السباقة

الوسطى وليس بينهما أصبع أخرى وليس بيني وبين

القيامة نبی۔” (التذكرة فی أحوال الموتی و أمور الآخرة ص ۱۱۷)

ترجمہ: ”اور آنحضرت ﷺ کا رشادگری ہے کہ مجھے اور قیامت کو ان دونوں کی طرح بھیجا گیا ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں، میرے بعد بس قیامت ہے، جیسا کہ انگشت شہادت درمیانی انگلی کے متصل واقع ہے، دونوں کے درمیان اور کوئی انگلی نہیں..... اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں۔“

علامہ سندھی حاشیہ نسائی میں لکھتے ہیں:

”التشبیه فی المقارنة بینهما، أی لیس بینهما اصبع

آخری كما أنه لا نبی بینه ﷺ وبين الساعة۔“

(حاشیہ علامہ سندھی برنسائی ص ۲۳۲ ج ۱)

ترجمہ: ”تشبیہ دونوں کے درمیان اتصال میں ہے (یعنی) دونوں کے باہم ملے ہوئے ہونے میں ہے)، یعنی جس طرح ان دونوں کے درمیان کوئی اور انگلی نہیں، اسی طرح آنحضرت ﷺ کے درمیان اور قیامت کے درمیان اور کوئی نبی نہیں۔“

ختم نبوت پر اجماع امت:

جعۃ الاسلام امام غزالی ”الاقتصاد“ میں فرماتے ہیں:

”ان الأمة فهمت بالاجماع من هذا اللفظ و من
قرائن أحواله أنه أفهم عدم نبی بعده أبدا و أنه ليس فيه
تأویل ولا تخصيص فمنكر هذا لا يكون الا منكر
الاجماع۔“
(الاقتصاد فی الاعتقاد ص ۱۲۳)

ترجمہ: ”بے شک امت نے بالاجماع اس لفظ (ختام

النبيين) سے یہ سمجھا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کے بعد نہ کوئی
نبی ہوگا اور نہ رسول، اور اس پر اجماع ہے کہ اس لفظ میں کوئی تاویل و
تفصیل نہیں اور اس کا منکرا جماع کامنکر ہوگا۔“

حضرت ملا علی قاریؒ شرح فقہ اکبر میں فرماتے ہیں:

”و دعوى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم كفر

بالاجماع۔“ (شرح فقہ اکبر ص ۲۰۲)

علامہ ابن نجیم مصریؒ جن کو ابوحنیفہ ثانی کہا جاتا ہے، فرماتے ہیں:

”اذ لم يعرف ان محمداً صلی الله عليه وسلم اخر

الأنبياء فليس بمسلم لانه من الضروريات۔“

(الاشیاء والظاهر مطبوعہ کراچی ج ۲ ص ۹۱)

ختم نبوت پر تواتر:

حافظ ابن حثیرؓ آیت خاتم النبین کے تحت لکھتے ہیں:

”وبذلك وردت الأحاديث المتوترة عن رسول الله

صلی اللہ علیہ وسلم من حديث جماعة من الصحابة رضی اللہ عنہم۔“

(تفسیر ابن حثیر ص ۴۹۳ ج ۳)

ترجمہ: ”اور ختم نبوت پر آنحضرت ﷺ سے احادیث متواترہ

وارد ہوئی ہیں، جن کو صحابیؓ ایک بڑی جماعت نے بیان فرمایا۔“

اور علامہ سید محمود آلوی تفسیر روح المعانی میں زیر آیت خاتم النبین لکھتے ہیں:

”و كونه ﷺ خاتم النبین مما نطق به الكتاب و

صدقت به السنة وأجمعـت عليه الأمة فيـكـفـرـ مدـعـىـ خـلـافـهـ

و يـقـتـلـ انـ اـصـرـ۔“ (روح المعانی ص ۳۶۹ ج ۲۲)

ترجمہ: ”اور آنحضرت ﷺ کا خاتم النبیین ہونا ایسی حقیقت ہے جس پر قرآن ناطق ہے، احادیث نبویہ نے جس کو واشگاف طور پر بیان فرمایا ہے اور امت نے جس پر اجماع کیا ہے، پس جو شخص اس کے خلاف کامدی ہواں کو کافر قرار دیا جائے گا اور اگر وہ اس پر اصرار کرے تو اس کو قتل کیا جائے گا۔“

پس عقیدہ ختم نبوت جس طرح قرآن کریم کے نصوص قطعیہ سے ثابت ہے اسی طرح آنحضرت ﷺ کی احادیث متواترہ سے بھی ثابت ہے اور ہر دور میں امت کا اس پر اجماع و اتفاق چلا آیا ہے۔

سوال ۲:.....مرزاںی ختم نبوت کے معنی میں کیا تحریف کرتے ہیں؟ قادریانی موقف مختصر مگر جامع طور پر تحریر فرمائیں، ساتھ ہی اس کا مختصر اور جامع جواب بھی دیں۔

جواب:.....

خاتم النبیین اور قادریانی جماعت:

قرآن و سنت صحابہ کرام اور اصحاب لغت کی طرف سے لفظ خاتم النبیین کی وضاحت کے بعد اب قادریانی جماعت کے موقف کو دیکھئے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ: ”خاتم النبیین کا معنی نبیوں کی مہر“ یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نبوت عنایت فرماتے تھے، اب آنحضرت ﷺ کی اتباع سے نبوت ملے گی، جو شخص رحمت دو عالم ﷺ کی اتباع کرے گا آپ اس پر مہر لگادیں گے، تزوہ نبی بن جائے گا (حقیقتہ الوجی ص ۹۷ حاشیہ وص ۲۸، خزانہ ص ۱۰۰ و ۳۰ ج ۲۲)۔ ہمارے نزدیک قادریانی جماعت کا یہ موقف سراسر غلط، فاسد، باطل، بے دینی، تحریف دہل

وافرثاً، کذب و جعل سازی پرمنی ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد تفیق صاحبؒ نے اس موقعہ پر کیا خوب چیلنج کیا، آپ فرماتے ہیں:

”اگر مرزا صاحب اور ان کی امت کوئی صداقت رکھتے ہیں تو لغت عرب اور قواعد عربیت سے ثابت کریں کہ خاتم النبینؐ کے معنی یہ ہیں کہ: ”آپؐ کی مہر سے اعیاً بنتے ہیں“۔ لغت عرب کے طویل و عریض دفتر میں سے زائد نہیں صرف ایک نظریہ اس کی پیش کر دیں یا کسی ایک لغوی الہ عربیت کے قول میں یہ معنی دکھلا دیں، اور مجھے یقین ہے کہ ساری مرزاؑ جماعت میں اپنے نبی اور ابن نبی کے اس کی ایک نظریہ کلام عرب یا اقوال لغویں میں نہ دکھلا سکیں گے۔ خود مرزا صاحب نے جو (برکات الدعا ص ۱۷، ۱۵، ۱۴ روحانی خزانہ ص ۱۸، ۱۷) میں تفسیر قرآنؐ کے معیار میں سب سے پہلا نمبر قرآنؐ مجید سے اور دوسرا احادیثؓ نبی کریم ﷺ سے اور تیسرا اقوال صحابہ کرامؓ سے رکھا ہے۔ اگر یہ صرف ہاتھی کے دکھلانے کے دانت نہیں تو خدا را خاتم النبینؐ کی اس تفسیر کو قرآنؐ کی کسی ایک آیت میں دکھلائیں، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو احادیث نبویؐ کے اتنے وسیع و عریض دفتر میں ہی کسی ایک حدیث میں یہ تفسیر دکھلائیں، پھر ہم یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ صحیحین کی حدیث ہو یا صحاح ست کی، بلکہ کسی ضعیف سے ضعیف میں دکھلادو کہ نبی کریم ﷺ نے خاتم النبینؐ کے یہ معنی بتلائے ہوں کہ آپؐ کی مہر سے اعیاً بنتے ہیں، اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا (اور ہرگز نہ ہو سکے گا) تو کم از کم کسی صحابیؓ، کسی تابعیؓ کا قول ہی پیش کرو جس میں خاتم النبینؐ کے یہ معنی بیان کئے ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ:

چیلنج:

اے مرزا! جماعت اور اس کے مقتدر ارکان! اگر تمہارے دعویٰ میں کوئی صداقت کی بوا اور قلوب میں کوئی غیرت ہے تو اپنی ایجاد کردہ تفسیر کا کوئی شاہد پیش کرو، اور اگر ساری جماعت مل کر قرآن کے تیس پاروں میں سے کسی ایک آیت میں، احادیث کے غیر محصور دفتر میں سے کوئی ایک حدیث میں اگرچہ ضعیف ہی ہو، صحابہ کرام و تابعین کے بے شمار آثار میں سے کسی ایک قول میں یہ دھکا دے کہ خاتم النبیین کے معنی یہ ہیں کہ آپ کی مہر سے اعیاً بننے ہیں تو وہ نقد انعام وصول کر سکتے ہیں۔ صلائے عام ہے یا ران نکتہ داں کے لئے۔ لیکن میں بحول اللہ وقوتاً اعلاناً کہہ سکتا ہوں کہ اگر مرزا صاحب اور ان کی ساری امت مل کر ایڑی چوٹی کا زور لگا میں گے تب بھی ان میں سے کوئی ایک چیز پیش نہ کر سکیں گے: ”ولو کان بعضهم لبعض ظهيرا“، بلکہ اگر کوئی دیکھنے والی آنکھیں اور سننے والے کان رکھتا ہے تو قرآن عزیز کی نصوص اور احادیث نبوی گی تصریحات اور صحابہ کرام و تابعین کے صاف صاف آثار، سلف صالحین اور ائمہ تفسیر کے کھلے کھلے بیانات اور لغت عرب اور قواعد عربیت کا واضح فیصلہ سب کے سب اس تحریف کی تروید کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ آیت ”خاتم النبیین“ کے وہ معنی جو مرزا! فرقہ نے گھرے ہیں باطل ہیں۔“ (ختمنبوت کامل)

قادیانی ترجمہ کے وجہ ابطال:

ا:.....اول اس لئے کہ یہ معنی محاورات عرب کے بالکل خلاف ہیں، ورنہ لازم آئے گا

کہ خاتم القوم اور آخر القوم کے بھی یہی معنی ہوں کہ اس کی مہر سے قوم بنتی ہے اور خاتم المهاجرین کے یہی معنی ہوں گے اس کی مہر سے مهاجرین بنتے ہیں۔

۲:مرزا غلام احمد قادریانی نے خود اپنی کتاب ازالۃ اوہام ص ۲۱۲ روحانی خزانہ ص

۳۳۱ ج ۳ پر خاتم النبین کا معنی: ”اور ختم کرنے والا نبیوں کا“ کیا ہے۔

۳:مرزا غلام احمد قادریانی نے لفظ خاتم کو جمع کی طرف کئی جگہ مضاف کیا ہے،

یہاں صرف ایک مقام کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ مرزا نے اپنی کتاب تریاق القلوب ص

۷۸، روحانی خزانہ ص ۹ ج ۱۵ اپر اپنے متعلق تحریر کیا ہے:

”میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی جس کا نام جنت تھا اور

پہلے وہ لڑکی پیٹ میں سے نکلی تھی اور بعد اس کے میں نکلا تھا، اور

میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکی یا لڑکا نہیں ہوا

، اور میں ان کے لئے خاتم الالاد تھا۔“

اگر خاتم الالاد کا ترجمہ ہے کہ مرزا قادریانی اپنے ماں باپ کے ہاں آخری ”ولد“

تھا۔ مرزا کے بعد اس کے ماں باپ کے ہاں کوئی لڑکی یا لڑکا، صحیح یا بیمار، چھوٹا یا بڑا، کسی قسم کا

کوئی پیدا نہیں ہوا تو خاتم النبین کا بھی یہی ترجمہ ہو گا کہ رحمت دو عالم ﷺ کے بعد کسی قسم کا

کوئی ظلی، بروزی، مستقل، غیر مستقل کسی قسم کا کوئی نبی نہیں بنایا جائے گا۔

اور اگر خاتم النبین کا معنی ہے کہ حضور ﷺ کی مہر سے نبی نہیں گے تو خاتم الالاد کا

بھی یہی ترجمہ مرزا یوسف کو کرنا ہو گا کہ مرزا کی مہر سے مرزا کے والدین کے ہاں پہنچے پیدا

ہوں گے۔ اس صورت میں اب مرزا صاحب مہر لگاتے جائیں گے اور مرزا صاحب کی ماں

پہنچتی چلی جائے گی۔ ہم تو کریں مرزا اُنیز ترجمہ:

ابنِ ابی داؤد یا رکاذ لف دراز میں

۴:پھر قادریانی جماعت کا موقف یہ ہے کہ رحمت دو عالم ﷺ سے لے کر مرزا

قادیانی تک کوئی نبی نہیں بنا، خود مرزا نے لکھا ہے:

”غرض اس حصہ کیش روئی الٰہی اور امور غیریہ میں اس امت میں سے میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاً اور ابدال اور اقطاب اس امت میں سے گزر چکے ہیں، ان کو یہ حصہ کیش را نعمت کا نہیں دیا گیا، پس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لئے میں ہی مخصوص کیا گیا، اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں۔“

(حقیقتِ الوجی ص ۳۹۱ روحانی خزانہ ص ۳۰۶ ج ۲۲)

اس عبارت سے یہ ثابت ہوا کہ چودہ سو سال میں صرف مرزا کو ہی نبوت ملی، اور پھر مرزا کے بعد قادیانیوں میں خلافت (نام نہاد) ہے۔ نبوت نہیں، اس لحاظ سے بقول قادیانیوں کے حضور ﷺ کی مہر سے صرف مرزا ہی نبی بنا، تو گویا حضور ﷺ ”خاتم النبی“ ہوئے خاتم النبین نہ ہوئے۔ مرزا محمود نے لکھا ہے:

”ایک بروز محمدی جمیع کمالات مجددیہ کے ساتھ آخري زمانہ کے

لئے مقدر تھا، سو وہ ظاہر ہو گیا۔“ (ضمیر نمبر اہمیتِ النبوة ص ۲۶۸)

۵: خاتم النبین کا معنی اگر نبیوں کی مہر لیا جائے اور حضور ﷺ کی مہر سے نبی بننے مراد لئے جائیں، تو آپؐ آئندہ کے نبیوں کے لئے خاتم ہوئے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کے لئے آپؐ خاتم النبین نہ ہوئے، اس اعتبار سے یہ بات قرآنی منشاء کے صاف خلاف ہے۔

۶: مرزا غلام احمد قادیانی نے رحمتِ دو عالم ﷺ کی اتباع کی تو نبی بن گئے۔ (یہ ہے

خاتم النبین کا قادیانی معنی) یہ اس لحاظ سے بھی غلط ہے کہ خود مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے:

”اب میں بوجب آیت کریمہ: ”واما بن نعمة ریک

فحـدث“ اپنی نسبت بیان کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اس

تیرے درجہ میں داخل کر کے وہ نعمت بخشی ہے کہ جو میری کوشش

سے نہیں بلکہ شکم مادر میں ہی مجھے عطا کی گئی ہے۔“

(حقیقت الوجی ص ۷۶ روحاںی خزانہ ص ۷۷ ج ۲۲)

لیجئے! خاتم النبیین کا معنی نبیوں کی مہر، وہ لگئی اتباع کرنے سے، وہ صرف مرزا پر لگی، اس لئے آپ خاتم النبی ہوئے، اب اس حوالہ میں مرزا نے کہہ دیا کہ جناب اتباع سے نہیں بلکہ شکم مادر میں مجھے یہ نعمت ملی۔ تو گویا خاتم النبیین کی مہر سے آج تک کوئی نبی نہیں بنا تو خاتم النبیین کا معنی نبیوں کی مہر کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟

سوال: ۵: ظلی بروزی نبی کی من گھڑت قادریانی
اصطلاحات پر جامع نوٹ تحریر کرتے ہوئے اس کا مسکت
جواب تحریر کریں؟

جواب:

ظلی اور بروزی:

ظل، سایہ کو کہتے ہیں، جیسے کوئی کہے کہ مرزا قادریانی شیطان کی تصویر (ظل) تھا۔ بروز، کا معنی ہے کہ کسی شخصیت کی جگہ کوئی اور ظاہر ہو جائے جیسے کوئی کہے کہ مرزا قادریانی نے شیطان کی شکل اختیار کر لی، اس کی جگہ ظاہر ہو گیا۔ حلول، کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی روح دوسرا میں داخل ہو گئی، جیسے کوئی کہے کہ مرزا قادریانی میں شیطان کی روح سرایت (حلول) کر گئی۔ تنخ، کا معنی یہ ہے کہ ایک شخص مرجائے اور اس کی شخصیت دوسرے جنم میں دوسرے شخص کی ہو بہو شکل اختیار کر جائے، جیسے کوئی کہے کہ مرزا قادریانی اس زمانہ میں شیطان مجسم تھا۔

قادیانی جماعت کا عقیدہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادریانی ظلی نبی تھا، یعنی آنحضرت ﷺ کے اتباع کی وجہ سے وہ آنحضرت ﷺ کا ظل ہو گیا، اس اعتبار سے اس کا یہ مطلب ہے کہ آنحضرت ﷺ کے ساتھ اتحاد ہو گیا اور آپ کا وجود مرزا قادریانی کا وجود ہے، جیسا کہ اس نے لکھا ہے:

”صار وجودی وجودہ۔“

(خطبہ الہامیہ میں ۱۶ جنوری ۲۵۸ ص ۱۶۷)

”یعنی صحیح موعود (مرزا قادیانی) نبی کریم سے الگ کوئی چیز
نہیں، بلکہ وہی ہے جو بروزی رنگ میں دوبارہ دنیا میں آئے گا..... تو
اس صورت میں کیا اس بات میں کوئی شک رہ جاتا ہے کہ قادیانی میں
اللہ نے پھر محمد صلعم (مرزا) کو اتنا را۔“

(کلمۃ الفصل ص ۵۰۰ مصنفہ مرزا بشیر احمد پسر مرزا قادیانی)

مرزا کے محمد رسول اللہ (معاذ اللہ) ہونے کی وجہ یہ ہے کہ قادیانی عقیدے کے مطابق
حضرت خاتم النبین ﷺ کا دوبارہ دنیا میں آنا مقدر تھا، پہلی بار آپؐ مکہ مکرمہ میں محمدؐؑ کی شکل
میں آئے اور دوسری بار قادیان میں مرزا غلام احمد قادیانی کی بروزی شکل میں آئے، یعنی
مرزا کی بروزی شکل میں ﷺ کی روحانیت صحیح اپنے تمام کمالاتِ نبوت کے دوبارہ جلوہ گر
ہوئی ہے۔ چنانچہ ملاحظہ ہو:

”..... اور جان کہ ہمارے نبی کریم ﷺ جیسا کہ پانچویں
ہزار میں مبعوث ہوئے (یعنی چھٹی صدی تک میں) ایسا ہی صحیح موعود
(مرزا قادیانی) کی بروزی صورت اختیار کر کے چھٹے ہزار (یعنی
تیرھویں صدی ہجری) کے آخر میں مبعوث ہوئے۔“

(خطبہ الہامیہ روحانی خزانہ ص ۲۴۰ ج ۱۶)

”آنحضرت ﷺ کے دو بعثت ہیں یا پہ تبدیل الفاظ یوں کہہ
سکتے ہیں کہ ایک بروزی رنگ میں آنحضرت ﷺ کا دوبارہ آنا دنیا
میں وعدہ دیا گیا تھا، جو صحیح موعود اور مہدی معہود (مرزا قادیانی) کے
ظہور سے پورا ہوا۔“ (تحفہ گلزاریہ ۱۶۳ حاشیہ روحانی خزانہ ص ۲۳۹ ج ۱۷)
قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کے لئے ظلی اور بروزی کی اصطلاح استعمال

کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان الفاظ کی آڑ میں بھی وہ دراصل رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم

کی ذات اقدس کی توہین کے مرتكب ہوتے ہیں۔ چنانچہ مرزا غلام احمد قادریانی لکھتا ہے:

”خدا ایک اور محمد ﷺ اس کا نبی ہے، اور وہ خاتم الاعبیاً ہے اور

سب سے بڑھ کر ہے، اب بعد اس کے کوئی نبی نہیں مگر وہ جس پر

بروزی طور پر محنت کی چادر پہنائی گئی..... جیسا کہ تم جب آئینہ میں

اپنی شکل دیکھو تو تم دونبیں ہو سکتے، بلکہ ایک ہی ہوا گرچہ بظاہر دونظر

آتے ہیں، صرف ظل اور اصل کا فرق ہے۔“

(کشتنوح ص ۵ اخراج ص ۱۶ ج ۱۹)

قارئین محترم! مرزا غلام احمد قادریانی کا کفر یہاں ننگا ناج رہا ہے، اس کا کہنا کہ میں ظلی
بروزی محمد ہوں۔ کیا معنی؟ کہ جب آئینہ میں حضور ﷺ کی شکل دیکھنا چاہو تو وہ غلام احمد
ہے۔ دونوں ایک ہیں، قطع نظر اس خبث و بد طبیعتی کے مجھے یہاں صرف یہ عرض کرنا ہے کہ
ظلی و بروزی کہہ کر مرزا غلام احمد قادریانی کی جھوٹی نبوت کو قادریانی جو فریب کا چولا پہناتے
ہیں، وہ اصولی طور پر غلط ہے اس لئے کہ:

۱: ”نقطہ محمد یہ ایسا ہی ظل الوہیت ہونے کی وجہ سے مرتبہ
الہیہ سے اس کو ایسی مشابہت ہے جیسے آئینہ کے عکس کو اپنی اصل سے
ہوتی ہے، اور امہات صفات الہیہ یعنی حیات، علم، ارادہ، قدرت، سمع
، بصر، کلام مع اپنے جمیع فروع کے اتم اور اکمل طور پر اس
(آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم) میں انکاس پذیر ہیں۔“

(سرچشم آریں ص ۲۷۲، ۲۷۳ حاشیہ روحاںی خزانہ ص ۲۲۲ ج ۲)

۲: ”حضرت عمر کا وجود ظلی طور پر گویا آنجناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہی
تھا۔“ (ایام اصلح ص ۳۹ روحاںی خزانہ ص ۲۶۵ ج ۱۲)

۳: ”ظیفہ درحقیقت رسول کا ظل ہوتا ہے۔“

(شہادۃ القرآن ص ۷۵ روحانی خزانہ ص ۳۵۲ ج ۲)

اگر اب کسی قادیانی کی ہمت ہے کہ وہ کہہ دے کہ آنحضرت ﷺ خدا ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور خلفاء نبی اور رسول ہیں۔ نعوذ باللہ۔ مثلاً بقول مرزا قادیانی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ظلی خدا ہو کر صحیح اور حقیقی اور پچ اور واقعی خدا بن جائیں گے؟ یا محمود قادیانی کے باپ مرزا قادیانی کے اقرار سے خلفاء آنحضرت ﷺ کے ظل ہوتے ہیں اور صحابہ کرامؓ میں بھی حضرت عمرؓ آنحضرت ﷺ کے ظل ہیں، تو کیا خلفاء اور حضرت عمرؓ بھی ظلی نبی ہو کر واقعی اور پچ اور صحیح اور حقیقی نبی قرار پائیں گے؟ اس کا جواب یقیناً نفی میں ہو گا تو مرزا قادیانی بزعم خود اگر ظلی نبی (خاکم بدہن) ثابت بھی ہو جائے تو پھر بھی وہ سچا اور حقیقی اور واقعی اور صحیح نبی نہیں ہو گا، بلکہ محض نقلی نبی ہی ہو گا۔

۳: حدیث شریف میں ہے: ”السلطان (المسلم) ظل الله فی الارض“ کیا سلطان (بادشاہ) خدا بن جاتا ہے یا اس کا وجود خدا کا وجود بن جاتا ہے؟ غرض ظلی و بروزی خالص قادیانی ڈھکو سلمہ ہے۔

سوال ۶: وحی الهام اور کشف کا شرعی معنی اور حیثیت واضح کرتے ہوئے بتائیں کہ قادیانی ان اصطلاحات میں کیا تحریفات کرتے ہیں اور اس کا کیا جواب ہے؟

جواب:

وحی:

اصطلاح شریعت میں وحی اس کلامِ الہی کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے بذریعہ

فرشتہ نبی کو بھیجا ہو، اس کو وحی نبوت بھی کہتے ہیں جو انبیاء علیہم السلام کے ساتھ مخصوص ہے اور اگر بذریعہ القلب ہو تو اس کو وحی الہام کہتے ہیں (فرشتہ کا واسطہ ہونا ضروری نہیں ہے) جو اولیاً پر ہوتی ہے اور اگر بذریعہ خواب ہو تو اصطلاح شریعت میں اس کو رویائے صالحہ کہتے ہیں، جو عام مومنین اور صالحین کو ہوتا ہے کشف اور الہام اور رویائے صالحہ پر لعنتاً وحی کا اطلاق ہو سکتا ہے، قرآن مجید میں آیا ہے: ”او حینا اللی ام موسیٰ“ مگر غرف شرع میں جب لفظ وحی کا بولا جاتا ہے تو اس سے وحی نبوت ہی مراد ہوتی ہے۔ یہ ایسا ہے کہ چیزے قرآن کریم میں باعتبار لغت کے شیطانی و موسوں پر بھی وحی کا اطلاق آیا ہے:

"كما قال تعالى وان الشيطين ليوحون الي

اولیائہم۔

"وكذلك جعلنا لك كل نبي عدوا شيطين الانس

والجن يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غروراً۔

(انعام: ۱۱۲)

لیکن عرف میں شیطانی و سوسوں یروجی کا اطلاق نہیں ہوتا۔

الہام:

کسی خیر اور اچھی بات کا بلا نظر و فکر اور بلا کسی سبب ظاہری کے من جانب اللہ قلب میں القا ہونے کا نام الہام ہے۔ جو علم بطریق حواس حاصل ہو وہ ادراک حسی ہے اور جو علم بغیر حس اور عقل، من جانب اللہ بلا کسی سبب کے دل میں ڈالا جائے وہ الہام ہے۔ الہام محض موهبت ربانی ہے اور فرست ایمانی، جس کا حدیث میں ذکر آیا ہے وہ من وجہ کب ہے اور من وجہ وہب ہے۔ کشف اگرچہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے الہام سے عام لیکن کشف کا زیادہ تعلق امور حسیہ سے ہے اور الہام کا تعلق امور قلبیہ سے ہے۔

کشف:

عالم غیب کی کسی چیز سے پرده اٹھا کر دکھلا دینے کا نام کشف ہے، کشف سے پہلے جو چیز مستور تھی، اب وہ مکشوف یعنی ظاہر اور آشکارا ہو گئی۔ قاضی محمد علی تھانویؒ کتاب اصطلاحات الفنون ص ۲۵۳ اپر لکھتے ہیں:

”الکشف عند اہل السلوك ہوا المکافحة ومکافحة رفع حجاب

را گویند کہ میاں روحانی جسمانی است کہ ادراک آن بحوالہ ظاہری
نتوان کر دانخ۔“

اس کے بعد فرماتے ہیں کہ:

”حجابات کا مرتفع ہونا قلب کی صفائی اور نورانیت پر موقوف ہے، جس قدر قلب صاف اور منور ہوگا اسی قدر حجابات مرتفع ہوں گے، جانتا چاہئے کہ حجابات کا مرتفع ہونا قلب کی نورانیت پر موقوف تو ہے مگر لازم نہیں۔“

وہی اور الہام میں فرق:

وہی نبوت قطعی ہوتی ہے اور معصوم عن الخطأ ہوتی ہے اور نبی پر اس کی تبلیغ فرض ہوتی ہے اور امت پر اس کا اتباع لازم ہوتا ہے اور الہام ظنی ہوتا ہے اور معصوم عن الخطأ نہیں ہوتا، اولیاً معصوم نہیں، اسی وجہ سے اولیاً کا الہام دوسروں پر جھٹ نہیں اور نہ الہام سے کوئی حکم شرعی ثابت ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ استحباب بھی الہام سے ثابت نہیں ہو سکتا۔ نیز علم احکام شرعیہ بذریعہ وہی انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ مخصوص ہے اور غیر انبیاء پر جو الہام ہوتا ہے سو وہ از قسم بشارت یا از قسم تفہیم ہوتا ہے احکام پر مشتمل نہیں ہوتا جیسے حضرت مریم علیہا السلام کو جو وہی الہام ہوئی وہ از قسم بشارت تھی نہ کہ از قسم احکام، اور بعض مرتبہ وہی الہام کسی حکم شرعی کی تفہیمیہ اور افہام کے لئے ہوتی ہے، جو نسبت رویائے صالح کو الہام سے ہے وہی نسبت الہام

کوہی نبوت سے ہے، یعنی جس طرح رویائے صالح الہام سے درجہ میں کمتر ہے، اسی طرح الہام درجہ میں وحی نبوت سے فرود رہے اور جس طرح رویائے صالح میں ایک درجہ کا ابہام اور انھا ہوتا ہے اور الہام اس سے زیادہ واضح ہوتا ہے، اسی طرح الہام بھی باعتبار وحی کے غافی اور بگم ہوتا ہے اور وحی صاف اور واضح ہوتی ہے۔ تفصیل کیلئے دیکھئے ”الاعلام“ معنی الكشف والوحی والا الہام“، مندرجہ احصاب قادیانیت جلد دوم از حضرت کاندھلوی۔

انقطاع وحی نبوت:

حضور سرور کائنات ﷺ کے بعد وحی نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اس سلسلے میں اکابرین امت کی تصریحات ملاحظہ ہوں:

۱:.....حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آنحضرت ﷺ کی وفات کے وقت فرمایا:

”اليوم فقدنا الوحي و من عند الله عز و جل الكلام، رواه

ابوسمعیل الھروی فی دلائل التوحید۔“

ترجمہ: ”آج ہمارے پاس وحی نہیں ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی

طرف سے کوئی فرمان ہے۔“

(کنز العمال ص ۲۳۵ ج ۷ حدیث نمبر ۱۸۷۶۰)

۲:.....نیز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک طویل کلام کے ذیل میں فرمایا:

”قد انقطع الوحي و تم الدين او ينقض وانا حي۔ رواه

النسائي بهذا اللفظ معناه في الصحيحين۔“

(الریاض الفضر وص ۹۸ ج ادوار الخلاف للسبیطی ص ۹۷)

ترجمہ: ”اب وحی منقطع ہو چکی اور دین الہی تمام ہو چکا، کیا میری

زندگی ہی میں اس کا نقصان شروع ہو جائے گا؟“

۳:.....سچی بخاری ص ۳۶۰ ج ایں اسی مضمون کا کلام حضرت صدیق اکبر اور حضرت

فاروق اعظم و نبیوں حضرات سے منقول ہے۔

۳:.....حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آنحضرت ﷺ کی وفات ہوئی

تو ایک روز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ چلو حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا کی زیارت کر آئیں کیونکہ آنحضرت ﷺ بھی ان کی زیارت کے لئے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم تینوں وہاں گئے، حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا ہمیں دیکھ کر رونے لگیں، ان دونوں حضرات نے فرمایا کہ دیکھو ام ایمن! رسول ﷺ کے لئے وہی بہتر ہے جو اللہ کے نزدیک آپؐ کے واسطے مقدر ہے، انہوں نے کہا:

”قد علمت ما عند الله خير رسول الله ﷺ ولكن

ابكى على خبر السماء انقطع عنا۔“

(ابوعوانہ و کنز العمال ص ۲۲۵ ج ۷ حدیث نمبر ۱۸۷۳ مسلم ج ۲ ص ۲۹۱)

ترجمہ: ”یہ تو میں بھی جانتی ہوں کہ آپؐ کے لئے وہی بہتر ہے جو اللہ کے نزدیک ہے لیکن میں اس پر روتی ہوں کہ آسمانی خبریں ہم سے منقطع ہو گئیں۔“

اسی طرح مسلم شریف میں ہے:

”ولكن ابكى ان الوحي قد انقطع من السماء۔“

۵:.....علامہ قرطبی فرماتے ہیں:

”لأن بموت النبي ﷺ انقطع الوحي۔“

(مواہب الدین ص ۲۵۹)

ترجمہ: ”اس لئے کہ نبی اکرم ﷺ کی وفات کے بعد وہی منقطع ہو چکی ہے۔“

۶:.....ایسے مدعی کے بارے میں علامہ ابن حجر عسقلانی نے اپنے فتاویٰ میں تحریر فرمایا

”وَ مَنْ أَعْتَقَدَ وَ حِيَا بَعْدَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفُرًا بِالْجَمَاعَ

الْمُسْلِمِينَ۔“

ترجمہ: ”اور جو شخص آنحضرت ﷺ کے بعد کسی وحی کا معتقد ہو وہ
باجماعت مسلمین کافر ہے۔“ (بحوالہ ثتم نبوت ص ۳۲۲ از حضرت مفتی محمد شفیع)

قادیانی گروہ کشف والہام اور وحی میں تحریف نہیں کرتے بلکہ تلمیس کرتے ہیں کہ نہ
صرف کشف والہام بلکہ وحی نبوت کو مرزا غلام احمد قادیانی کے لئے جاری مانتے ہیں، چنانچہ
انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کی نام نہاد وحی کو ایک مستقل کتاب کی شکل میں شائع کیا ہے
اور اس کا نام انہوں نے ”تذکرہ“ رکھا ہے، حالانکہ تذکرہ قرآن مجید کا نام ہے، جیسا کہ
آیت مبارکہ ہے:

”كلا انها تذكرة فمن شاء ذكره في صحيف مكرمة مرفوعة

مطهرة۔“ (بمس ۱۲-۱۳)

ان آیات میں ”تذکرہ“ قرآن مجید کو قرار دیا گیا ہے۔ قادیانی اگر مرزا غلام احمد
قادیانی کی وحی کے مجموعہ کا نام قرآن رکھتے تو مسلمانوں میں اشتعال پھیلتا، انہوں نے
قرآن مجید کا غیر عرفی نام چراک مرزا کی وحی پر چسپاں کر دیا اور اسی تذکرہ کے پہلے صفحہ پر
عنوان قائم کیا: ”تذکرہ یعنی وحی مقدس و روایا و کشوف حضرت مسیح موعود“۔

قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کے لئے وحی نبوت کو جاری مانتے ہیں۔ اس تذکرہ کا جنم
۸۱۸ صفحات ہے، اس میں مرزا قادیانی کی نام نہاد وحی (خرافات) کو جمع کیا گیا ہے۔ غرض
قادیانی جماعت مرزا قادیانی کے لئے وحی نبوت کو جاری مانتی ہے، حالانکہ اوپر گزر چکا کر
آنحضرت ﷺ کے بعد وحی کا مدعا، مدعا نبوت ہے، اور یہ بجائے خود مستقل کفر ہے، اب
مرزا قادیانی کی ہزار ہا عبارتوں میں سے چند عبارتیں ملاحظہ ہوں، جس میں مرزا قادیانی
نے اپنے لئے وحی کا دعویٰ کیا ہے:

ا: ”پس جیسا کہ میں نے بار بار بیان کر دیا ہے کہ یہ کلام جو

میں سناتا ہوں، یہ قطعی اور یقینی طور پر خدا کا کلام ہے، جیسا کہ قرآن

اور توریت خدا کا کلام ہے اور میں خدا کا ظلی اور بروزی طور پر نبی ہوں، اور ہر ایک مسلمان کو دینی امور میں میری اطاعت واجب ہے، اور سچ مسح موعود ماننا واجب ہے۔“

(تحفة الندوة ص ١٩ ج ٦٢ خزانی روحانی)

۲:.....”خدا تعالیٰ کی وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوتی ہے، اس میں ایسے لفظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں نہ ایک دفعہ بلکہ صد ہا دفعہ، پھر کیونکہ یہ جواب صحیح ہو سکتا ہے کہ ایسے الفاظ موجود نہیں ہیں بلکہ اس وقت تو پہلے زمانے کی نسبت بہت تصریح اور توضیح سے یہ الفاظ موجود ہیں اور برائین احمدیہ میں بھی جس کو طبع ہوئے باعیسی برس ہوئے، یہ الفاظ کچھ تھوڑے نہیں ہیں۔ چنانچہ وہ مکالمات الہیہ جو برائین احمدیہ میں شائع ہو چکے ہیں ان میں سے ایک یہ وحی اللہ ہے: ”هو الذى ارسَلَ رَسُولَهِ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ
الْحَقِّ لِيُظَهِّرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔“ دیکھو برائین احمدیہ، اس میں صاف طور پر اس عاجز (مرزا) کو رسول کر کے کیا راگیا ہے۔“

(مجموعہ اشتہارات ص ۲۳۱ ج ۳، ایک غلطی کا ازالہ ص ۲ روحانی)

^{٢٦} خرائن ص ٢٠٦ ج ١٨، النبوة في الإسلام ص ٣٠٧، هقيقة النبوة ص ٢٦١

۳: ”غرض اس حصہ کثیر وحی الٰہی اور امور غیبیہ میں اس امت میں سے میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاً اور ابدال اور اقطاب اس امت میں سے گزر چکے ہیں ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا، پس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لئے میں ہی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں۔“

(حقیقتِ الوجی ص ۳۹۱ اردو حادثی خزانہ ان ج ۲۰۶ ص ۲۲)

۴:.....”اور میں جیسا کہ قرآن شریف کی آیات پر ایمان رکھتا ہوں، ایسا ہی بغیر فرق ایک ذرہ کے خدا کی اس کھلی وحی پر ایمان لاتا ہوں جو مجھے ہوئی جس کی سچائی اس کے متواتر نشانوں سے مجھ پر کھل گئی ہے اور بیت اللہ میں کھڑے ہو کر یہ قسم کھا سکتا ہوں کہ وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوتی ہے وہ ای خدا کا کلام ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد ﷺ پر اپنا کلام نازل کیا تھا۔“
 (ایک غلطی کا ازالہ ص ۸ اردو حادثی خزانہ ان ج ۱۸ ص ۲۱۰، ضمیر الدینۃ فی الاسلام ص ۲۱۰، حقیقت الدینہ ص ۲۶۲، مجموع اشتہارات ص ۲۳۵ ج ۲)

۵:.....”میں خدا تعالیٰ کی تجسس برس کی متواتر وحی کو کیونکر دکر سکتا ہوں، میں اس کی اس پاک وحی پر ایسا ہی ایمان لاتا ہوں جیسا کہ ان تمام خدا کی وحیوں پر ایمان لاتا ہوں جو مجھ سے پہلے ہو چکی ہیں۔“

(حقیقتِ الوجی ص ۵۰ اردو حادثی خزانہ ان ج ۲۲ ص ۱۵۲)

اب ملاحظہ فرمائیے کہ مرزا صاحب اپنے اوپر جبریل علیہ السلام کے نزول کے بھی مدغی ہیں:

۶:.....” جاءَنِي أَهْلُواخْتَارِ وَادَارِ أَصْبَعِهِ وَأَشَارَهُ إِنْ وَعْدُ

الله أَتِيَ، فَطَوَّبَنِي لِمَنْ وَجَدَوْ رَائِي۔“

یعنی میرے پاس آئیں آیا اور اس نے مجھے چن لیا، اور اپنی انگلی کو گروش دی اور یہ اشارہ کیا کہ خدا کا وعدہ آگیا، پس مبارک جو اس کو پاؤے اور دیکھے۔ (اس جگہ آئل خدا تعالیٰ نے جبرائیل کا نام رکھا ہے، اس لئے کہ بار بار رجوع کرتا ہے۔ حاشیہ منہ)۔

(حقیقتِ الوجی ص ۳۰۳ اردو حادثی خزانہ ان ج ۲۰۶ ص ۲۲)۔

۷:.....”أَوْرَخَدَا تعَالَى مِيرَے لَئِنْ اَكْثَرَتْ سَنَانَ دَكْلَارَہَا

ہے کہ اگر نوح کے زمانہ میں وہ نشان دکھائے جاتے تو وہ لوگ غرق نہ ہوتے۔“ (تعریفیۃ الوفی ص ۲۳ اردو حافی خواں ج ۲۲ ص ۵۷۵)

اسلامی عقیدہ کے مطابق حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا ایک خاص امتیاز یہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے معصوم ہوتے ہیں، ٹھیک انہی کے طرز پر مرزا صاحب کو بھی معصوم ہونے کا دعویٰ ہے:

۸: ”ما انما الا کالقرآن وسيظهر على يدی ما ظهر من الفرقان۔“ (تذکرہ ص ۶۷۳)

”اور میں توبس قرآن ہی کی طرح ہوں اور عنقریب میرے ہاتھ پر ظاہر ہو گا جو کچھ فرقان سے ظاہر ہوا۔“

قرآن کریم مسلمانوں کی نہایت مقدس مذہبی کتاب ہے جسے خود مرزا صاحب کے پیرو بھی محفوظ عن الخطا سمجھتے ہیں اور مرزا صاحب اپنے تقدس کو قرآن کے مثل ثابت کرتے ہیں۔

۹: ”نَحْنُ نَزَّلْنَاهُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔“ (تذکرہ ص ۴۰۰، اطیعہ ربہ)

”ہم نے اس کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے حافظ ہیں۔“

یہ قرآن کریم کی آیت ہے، جسے مرزا صاحب نے معمولی تصرف کے ساتھ اپنی ذات پر چھپا کیا ہے گویا جس طرح قرآن منزل من اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر خط و خلل سے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، ٹھیک وہی تقدس مرزا صاحب کو بھی حاصل ہے:

۱۰: ”وَمَا يَنْطَقُ عَنِ الْهُوَى إِنَّهُ لَوَحِيٌّ يُوحَى۔“ (تذکرہ ص ۳۹۳، ۳۷۸)

”اور وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا، یہ تو وحی ہے جو اس (مرزا) پر نازل کی جاتی ہے۔“

علماء شریعت کی طرح تمام صوفیاء بھی اس پر متفق ہیں کہ نبوت و رسالت خاتم النبیین

علیہ السلام پر ختم ہو گئی اور آپؐ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا اور حضور پر نو علیہ السلام کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ مرتد اور دائرۃ اسلام سے قطعاً خارج ہے، البتہ نبوت و رسالت کے کچھ کمالات اور اجزاء باقی ہیں کہ جو اولیاً امت کو عطا کئے جاتے ہیں مثلاً کشف اور الہام اور رویائے صادقة (سچا خواب) اور کرامتیں۔ اس قسم کے کمالات نبوت کے اجزاء ہیں وہ ہنوز باقی ہیں لیکن ان کمالات کی وجہ سے کسی شخص پر نبی کا اطلاق کسی طرح جائز نہیں، اور نہ ان کے کشف اور الہام پر ایمان لانا واجب ہے۔ ایمان فقط کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر ہے۔ نبی کا تو خواب بھی وحی ہے: ”رویاً الاعبیاً وحی“ (بخاری)، مگر وہی کا خواب اور الہام شرعاً مجبٌ نہیں۔ نبی کے خواب سے ایک معموم کاذب کرنا اور قتل کرنا بھی جائز ہے، مگر وہی کے الہام سے قتل کا جواز تو درکنار اس سے استحباب کا درجہ بھی ثابت نہیں ہوتا۔ غرض کسی بھی بڑے سے بڑے بزرگ کا کشف والہام شرعی مسئلہ کے اثبات کے لئے کوئی مستقل دلیل نہیں ہے۔ اس کو اس طرح سمجھو کر اگر کسی شخص میں کچھ کمالات اور خصلتیں باادشاہ اور وزیری کی سی پائی جائیں تو اس بناء پر وہ شخص باادشاہ اور وزیر نہیں بن سکتا، اور اگر کوئی اس بناء پر باادشاہت اور وزارت کا دعویٰ کرے اور اپنے کو وزیر اور باادشاہ کہنے لگے تو فوراً اگر فقاری کے احکام جاری ہو جائیں گے۔ اس طرح اگر کسی شخص میں نبوت کے برائے نام کچھ کمالات پائے جائیں تو اس سے اس شخص کا منصب نبوت پر فائز ہونا لازم نہیں آتا بلکہ اگر کوئی شخص اپنے نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ مرتد اور اسلام کا باغی سمجھا جائے گا۔

”عن ابی هریرة قال سمعت رسول الله ﷺ يقول لم يبق

من النبوة الا المبشرات۔“ (رواہ البخاری فی کتاب التعبیر ص ۲۳۵ ج ۲)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ

علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اے لوگو! نبوت کا کوئی جزو وساۓ ایجھے خوابوں کے

باقی نہیں (اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے)۔“

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ نبوت بالکلیہ ختم ہو چکی اور سلسہ وحی منقطع ہو گیا البتہ

اجزائے نبوت میں سے ایک جزو بشرات باقی ہے یعنی جو پے خواب مسلمان دیکھتے ہیں یہ بھی نبوت کے اجزاء میں سے ایک جزو ہے جس کی شرط بخاری ہی کی دوسری حدیث میں اس طرح آئی ہے کہ: ”سچا خواب نبوت کا چھیالیسوں جزو ہے۔“

ایک شبہ اور اس کا ازالہ:

عمرت کی جگہ ہے کہ ارشادات نبوی ﷺ کے ان بینات کے بعد بھی بجائے اس کے کہ مرزاں قلوب میں زلزلہ پڑ جاتا، اور وہ ایک منتبی کاذب کو چھوڑ کر سید الاعمیا ﷺ کی نبوت کو اپنے لئے کافی سمجھ لیتے، ان کی جمارت اور تحریف میں دلیری اور بڑھتی جاتی ہے۔ و كذلك یطبع اللہ علی قلب کل متکبر جبار۔

ادھر حدیث میں سلسلہ نبوت کے انقطاع پر یہ صاف ارشاد ہوتا ہے اور ادھر قادیانی دنیا میں خوشیاں منائی جاتی ہیں کہ اس سے بقا نبوت ثابت ہو گیا۔ ان هذا الشیء عحاب۔ کہا جاتا ہے کہ اس حدیث میں بتلایا گیا ہے کہ نبوت کا ایک جزو باقی ہے جس سے نفس نبوت کا بقاً ثابت ہوتا ہے، جیسے پانی کا ایک قطرہ بھی باقی ہو تو اس کو پانی کہا جاسکتا ہے، اسی طرح نبوت کے ایک جزو کا باقی ہونا خود نبوت کا باقی ہونا ہے۔ اہل دانش فیصلہ کریں کہ اس فدہ اور سائنس کے دور میں ایک مدعا نبوت کی طرف سے کہا جا رہا ہے جس کو جزو اور کل کا بدیہی انتیاز معلوم نہیں، وہ کسی شے کے ایک جزو موجود ہونے کو کل کا موجود ہونا سمجھتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کے ایک جزو مثلاً اللہ اکبر کو پوری نماز اور وضو کے ایک جزو مثلاً ہاتھ دھونے کو پورا وضو کہا جائے، اسی طرح ایک لفظ اللہ کو پوری اذان اور ایک منٹ کے روزہ کو اداۓ روزہ کہا جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر قادیانی نبوت کی یہی برکات ہیں کہ کسی شے کے ایک جزو کے وجود کو کل کا وجود قرار دیا جائے اور جزو پر کل کا اطلاق درست ہو جائے تو پھر ایک اینٹ کو پورا مکان کہنا بھی درست ہو گا، اور کھانے کے بیس اجزاء میں سے ایک جزو نمک ہے تو نمک کو کھانا کہنا بھی روا ہو گا، نمک کو پلاو اور پلاو کو نمک کہا جائے تو کوئی غلطی نہ ہو گی، اور پھر تو شاید ایک دھاگہ کو کپڑا کہنا بھی جائز ہو گا اور ایک انگلی کے ناخن کو انسان اور

ایک رسی کو چار پانی بھی کہا جائے اور ایک میخ کو کواڑ بھی۔ کیا خوب! نبوت ہوتا میکی ہو کہ تمام بدیہات ہی کو بدل ڈالے۔ پس اگر ایک اینٹ کو مکان اور نمک کو پلاو اور ایک دھاگہ کو کپڑا اور ایک رسی کو چار پانی اور ایک میخ کو کواڑ نہیں کہہ سکتے تو نبوت کے چھیالیسوں جزو کو بھی نبوت نہیں کہہ سکتے۔ رہی پانی کی مثال کہ اس کا ایک قطرہ بھی پانی ہی کہلاتا ہے اور پورا سمندر بھی پانی کہلاتا ہے سو یہ ایک جدید مرزاگی فلسفہ ہے کہ عالمدوں نے پانی کے ایک قطرہ کو پانی کا ایک جزو سمجھ رکھا ہے، حالانکہ پانی کا ایک قطرہ بھی ایسا ہی مکمل پانی ہے جیسے ایک دریا۔ جو شخص علم کی ابجد سے بھی واقف ہے وہ جانتا ہے کہ پانی کے ہر قطرہ میں اجزاء مائیہ پورے پورے موجود ہیں، فرق اتنا ہے کہ سمندر میں پانی کے اجزاً زیادہ ہیں اور قطرہ میں کم مقدار میں موجود ہیں، مگر اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ایک قطرہ میں پانی کے دونوں اجزاً جن کا جدید فلسفہ ہائیڈروجن اور آسیجن نام رکھتا ہے موجود ہیں، اس لئے پانی کے قطرات کو پانی کے اجزاً نہیں کہا جاسکتا بلکہ پانی کے اجزاً وہی ہائیڈروجن اور آسیجن ہیں، تو جس طرح تہبا ہائیڈروجن کو بھی پانی کہنا غلط ہے اور تہبا آسیجن کو بھی پانی کہنا غلط ہے، اسی طرح نبوت کے کسی جزو کو نبوت کہنا بھی غلطی ہے، یہ مخفی لپڑ اور ناقابل ذکر بات ہے کہ نبوت کا ایک جزو باقی ہونے سے نبوت کا بقاہابت کر ڈالا۔ (تلخیص از ختم نبوت کامل)

سوال:مرزاگی اجرائے نبوت پر جن آیات مبارکہ اور احادیث میں تحریف کرتے ہیں ان میں سے تین کو ذکر کر کے ان کا شافعی جواب لکھیں؟

جواب:مرزا یوں سے ختم نبوت و اجرائے نبوت پر بحث کرنا اصولی طور پر غلط ہے اس لئے کہ ہمارے اور قادیانیوں کے درمیان ختم نبوت و اجرائے نبوت کا مسئلہ مابہ الزراع ہی نہیں۔ مسلمان بھی نبوت کو ختم مانتے ہیں، قادیانی بھی۔ اہل اسلام کے نزدیک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں بن سکتا، مرزا یوں کے نزدیک مرزا

غلام احمد قادریانی کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں۔

اب فرق واضح ہو گیا کہ مسلمان رحمت دو عالم ﷺ پر نبوت کو بند مانتے ہیں، قادریانی، مرزا غلام احمد قادریانی پر، اس وضاحت کے بعد اب قادریانیوں سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ سارے قرآن و حدیث سے ایک آیت یا ایک حدیث پڑھیں، جس میں لکھا ہوا ہو کہ نبوت رحمت دو عالم ﷺ پر ختم نہیں بلکہ حضور ﷺ کے بعد چودہ سو سال میں ایک مرزا صاحب نبی بنے ہیں، اور مرزا قادریانی کے بعد قیامت تک اور کوئی نبی نہیں بنے گا، قیامت تک تمام زندہ مردہ قادریانی اکٹھے ہو کر ایک آیت اور ایک حدیث اس سلسلہ میں نہیں دکھاسکتے۔

مرزا کہتا ہے:

۱: ”نبی کا نام پانے کے لئے میں ہی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں۔“

(حقیقتہ الوجی ص ۳۹۶، ۳۰۷، ۲۲ ج ۲۰۷)

۲: ”چونکہ وہ بروز محمدی جو قدیم سے موجود تھا، وہ میں ہوں، اس لئے بروزی رنگ کی نبوت مجھے عطا کی گئی اور اس نبوت کے مقابل پر اب تمام دنیا بے دست دپا ہے، کیونکہ نبوت پر مہر ہے ایک بروز محمدی جمع کمالات محمدی کے ساتھ آخی زمانہ کے لئے مقرر تھا سوہ ظاہر ہو گیا، اب بجز اس کھڑکی کے اور کوئی کھڑکی نبوت کے چشم سے پانی لینے کے لئے باقی نہیں۔“ (ایک غلطی کا ازالہ اس احوالی خزانہ ص ۲۵ ج ۱۸)

۳: ”اس لئے ہم اس امت میں صرف ایک ہی نبی کے قائل ہیں پس ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس وقت تک اس امت میں کوئی اور شخص نبی نہیں گزرے۔“ (حقیقتہ الوجی ص ۳۸، ۳۹ از مرزا محمود قادریانی)

۴: ”ہلاک ہو گئے وہ جنہوں نے ایک برگزیدہ رسول کو قبول نہ کیا، مبارک وہ جس نے مجھے پہچانا، میں خدا کی سب راہوں میں سے

آخری راہ ہوں، اور میں اس کے سب نوروں میں سے آخری نور ہوں،
بدقامت ہے جو مجھے چھوڑتا ہے، کیونکہ میرے بغیر سب تاریکی ہے۔“
(کشی نوح ص ۵۶، روحاںی خزانہ ص ۲۱ ج ۱۹)

۵:”فَارادَ اللَّهُ ان يَتَمَ الْبَنَاءُ وَيَكْمَلَ الْبَنَاءُ بِاللَّبْنَةِ
الْأَخِيرَةِ فَانَا تَلَكُّ اللَّبْنَةَ۔“ (خطبہ الہامی ص ۱۲ اخزانہ ص ۲۷ ج ۸)
”پس خدا نے ارادہ فرمایا کہ اس پیشینگوئی کو پورا اور آخری اینٹ

کے ساتھ بنا کوکمال تک پہنچا دے۔ پس میں وہی اینٹ ہوں۔“

۶:”أَمْتُ مُحَمَّدَ مُبَلَّغًا مِّنْ سَعْيٍ إِلَيْهِ مِنْ أَنْفُسِهِ كَمْ مِنْ كَوْنَتْ

مِنْ بَعْدِهِنْ آتَكَتْ، چنانچہ نبی کریم ﷺ نے اپنی امت سے صرف ایک
نبی اللہ کے آنے کی خبر دی ہے جو صحیح موعود ہے اور اس کے سوا قطعاً کسی کا
نام نبی اللہ یا رسول اللہ نہیں رکھا جائے گا اور نہ کسی اور نبی کے آنے کی خبر
آپ ﷺ نے دی ہے، بلکہ لا نبی بعدی فرمایا کہ اور لوگوں کی نقی کردی اور
کھوں کر بیان فرمایا کہ صحیح موعود کے سوا میرے بعد قطعاً کوئی نبی یا رسول
نہیں آئے گا۔“ (رسالہ تثیید الاذہان قادیانی ماہ مارچ ۱۹۱۳ء)

ان اقتباسات کا حاصل یہ ہے کہ مرزا قادیانی اپنے آپ کو آخری نبی قرار دیتا ہے،
گویا مرزا قادیانی خاتم النبیین ہے۔ معاذ اللہ۔

قادیانی تحریفات:

آیت نمبر ۱:”يَسْنَى آدَمَ امَّا يَأْتِينَكُمْ“

قادیانی کہتے ہیں کہ:

”یسنی آدم اما یاتینکم رسُل منکم یقصوْن عَلَيْكُمْ آیاتی

فَمَنْ اتَقَنْ وَ اصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔“

(اعراف: ۳۵)

یہ آیت آنحضرت ﷺ پر نازل ہوئی۔ لہذا اس میں حضور ﷺ کے بعد آنے والے رسولوں کا ذکر ہے۔ آپؐ کے بعد بنی آدم کو خطاب ہے۔ لہذا جب تک بنی آدم دنیا میں موجود ہیں، اس وقت تک نبوت کا سلسلہ جاری ہے۔

جواب: ۱: اس آیت کریمہ سے قبل اسی روایت میں تین بار ”یا بنی آدم“ آیا ہے۔ اور اول ”یا بنی آدم“ کا تعلق ”اہبتووا بعضکم لبعض عدو“ سے ہے۔ ”اہبتووا“ کے مخاطب سیدنا آدم علیہ السلام و سیدہ حوالیہ السلام ہیں۔ لہذا اس آیت میں بھی آدم علیہ السلام کے وقت کی اولاد آدم کو مخاطب بنایا گیا ہے۔ پھر زیر بحث آیت نمبر ۳۵ ہے۔ آیت نمبر ۱۰ سے سیدنا آدم علیہ السلام کا ذکر شروع ہے۔ اس تسلسل کے تناظر میں دیکھا جائے تو حقیقت میں یہ خطاب اولین اولاد آدم علیہ السلام کو ہے۔ اس پر قرینہ اس کا سبق ہے۔ تسلسل اور سبق آیات کی صراحتاً دلالت موجود ہے کہ یہاں پر حکایت حال ماضیہ کے طور پر اس کو ذکر کیا گیا ہے۔

جواب: ۲: قرآن مجید کے اسلوب بیان سے یہ بات ظاہر ہے کہ آپؐ کی امت اجابت کو ”یا ایها الذین آمنوا“ سے مخاطب کیا جاتا ہے، اور آپؐ کی امت دعوت کو ”یا ایها الناس“ سے خطاب ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں کہیں بھی آپؐ کی امت کو ”یا بنی آدم“ سے خطاب نہیں کیا گیا، یہ بھی اس امر کی دلیل ہے کہ آیت بالا میں حکایت ہے حال ماضیہ کی۔

ضروری وضاحت:

ہاں البتہ ”یا بنی آدم“ کی عمومیت کے حکم میں آپؐ کی امت کے لئے وہی سابقہ احکام ہوتے ہیں، بشرطیکہ وہ منسون نہ ہو گئے ہوں، اگر وہ منسون ہو گئے یا کوئی ایسا حکم جو آپؐ کی امت کو اس عمومیت میں شمول سے مانع ہو تو پھر آپؐ کی امت کا اس عموم سے سابقہ نہ ہو گا۔

جواب: ۳: کبھی قادریانی کرم فرماؤں نے یہ بھی سوچا کہ بنی آدم میں تو ہندو،

عیسائی، یہودی، سکھ بھی شامل ہیں۔ کیا ان میں سے بنی پیدا ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر ان کو اس آیت کے عموم سے کیوں خارج کیا جاتا ہے ؟ ثابت ہوا کہ خطاب عام ہونے کے باوجود حالات و واقعات و قرآن کے باعث اس عموم سے کئی چیزیں خارج ہیں۔ پھر بنی آدم میں تو عورتیں، نیجرے بھی شامل ہیں، تو کیا اس عموم سے ان کو خارج نہ کیا جائے گا؟ اگر یہ کہا جائے کہ عورتیں وغیرہ تو پہلے نبی نہ تھیں اس لئے وہاب نہیں بن سکتیں تو پھر ہم عرض کریں گے کہ پہلے رسول مستقل آتے تھے، اب تم نے رسالت کو اطاعت سے وابستہ کر دیا ہے تو اس میں نیجرے و عورتیں بھی شامل ہیں۔ لہذا مرزا یوں کے نزدیک عورتیں و نیجرے بھی نبی ہونے چاہئیں۔

جواب: ۳: اگر ”یا بنی آدم اما یاتینکم رسول“ سے رسولوں کے آنے کا وعدہ ہے تو ”اما یاتینکم منی هدی“ میں وہی ”یاتینکم“ ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ نبی شریعت بھی آسکتی ہے، تو مرزا یوں کے عقیدہ کے خلاف ہوا، کیونکہ ان کے نزدیک تواب تشریعی نبی نہیں آسکتا۔

جواب: ۵:

۱: ”اما“ حرف شرط ہے، جس کا تحقق ضروری نہیں، ”یا یاتینکم“ مضارع ہے اور ہر مضارع کے لئے استمرار ضروری نہیں، جیسا کہ فرمایا: ”فاما ترین من البشر احدا“ (مریم: ۲۶)۔ کیا حضرت مریم قیامت تک زندہ رہیں گی اور کسی بشر کو دیکھتی رہیں گی؟ مضارع اگرچہ بعض اوقات استمرار کے لئے آتا ہے، مگر استمرار کے لئے قیامت تک رہنا ضروری نہیں، جو غل و وچار و فحہ پایا جائے اس کے لئے مضارع استمرار سے تعبیر کرنا جائز ہے۔ اس کی ایک مثال تھی آیت ”اما ترین من البشر“ ہے جو اپنے گزر چکی۔

۲: ”انا انزلنا التوراة فيها هدى و نور يحكم بها النبيون“ (مائده: ۴) ظاہر ہے کہ تورات کے موافق حکم کرنے والے گزر چکے، آپؐ کی بعثت کے بعد کسی کو حتیٰ کہ صاحب تورات کو بھی حق حاصل نہیں اس کی تبلیغ کا۔

۳: ”وَأَوْحَى إِلَى هَذَا الْقُرْآنَ لِأَنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ“ (انعام: ۱۹) چنانچہ حضور ﷺ ایک زمانہ تک ڈراتے رہے مگر اب بلا اسٹاپ کی انداز و تبیر مدد و دعہ ہے۔
 ۴: ”وَسَخْرَنَا مَعَ دَاؤِدَ الْجَبَالِ يَسْبِحُونَ وَالظَّيْر“ (الانبیاء: ۷۹) تبیغ داؤ دکی زندگی تک ہی رہی پھر مدد و دعویٰ مگر ہر جگہ صیغہ مضارع کا ہے۔

جواب: ۶:

(۱) اما ياتينکم منی هدی۔ (بقرہ: ۳۸)۔ (۲) واما ينسینک الشیطان فلا تقعده بعد الذکری مع القوم الظالمین (انعام: ۶۸)۔ (۳) فاما شفقتهم فی الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذکرون (انفال: ۵۷)۔
 (۴) واما نرینک بعض الذى نعدهم او نتوفینک فالینا مرجعهم (یونس: ۴۶)۔ (۵) اما یبلغن عنديک الكبير احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهر هما (بنی اسرائیل: ۲۳)۔ (۶) فاما ترین من البشر احدا فقولی انى نذرت للرحمٰن صوما (مریم: ۲۶)۔ (۷) اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین (مومنون: ۹۳)۔ (۸) و اما یتزعنك من الشیطان نزع فاستعد بالله (اعراف: ۲۰۰)۔ (۹) فاما نذهبن بك فانا منهم منتقمون (زخرف: ۴۱)۔

ان تمام آیات میں نون ثقلیہ مضارع ہونے کے باوجود قادیانیوں کو بھی تسلیم ہے کہ ان آیات میں استرار نہیں، بلکہ حکایت حال پاضی کا بیان ہے۔

جواب: ۷: درمنشورج ۳ ص ۸۲ میں زیر بحث آیت ہذا کھا ہے:

”یا بُنی آدَمَ اما ياتینکم رسُلَ مِنْکُمْ الْآیَةُ اعْرَجَ ابْنَ جَرِيرَ عن ابْنِ يَسَارِ السَّلْمِيِّ فَقَالَ اَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى جَعَلَ آدَمَ وَ ذُرِيْتَهُ فِي كُفَّهٍ فَقَالَ يَا بُنی آدَمَ اما ياتینکم رسُلَ مِنْکُمْ يَقُصُونَ

عليکم آیاتی، ثم نظر الی الرسل فقال يا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحًا۔

”ابی یسار سلمی سے روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی جملہ اولاد کو (ابنی قدرت و رحمت کی) مٹھی میں لیا اور فرمایا: ”یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم الخ“ پھر نظر (رحمت) رسولوں پر ڈالی تو ان کو فرمایا کہ: ”یا ایها الرسل الخ“ غرض یہ کہ عالم ارواح کے واقعہ کی حکایت ہے۔“

جواب: ۸: بالفرض والقدر یا اگر اس آیت کو اجرائے نبوت کا متدل مان بھی لیا جائے تب بھی مرزا غلام احمد قادریانی قیامت کی صبح تک نبی قران نہیں دیا جاسکتا، کیونکہ وہ بقول خود آدم کی اولاد ہی نہیں، اور یہ آیت تو صرف نبی آدم سے متعلق ہے، مرزا نے خود اپنا تعارف بایں الفاظ کرایا ہے، ملاحظہ فرمائیے:

کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاو ہوں
ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار
(برائین الحمد یہ حصہ چشم روحا نی خواہن مص ۱۲۷ ج ۲)

آیت ۲: من يطع الله والرسول:

”ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله
عليهم من الشبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن
اولئك رفيقا۔“
(نساء: ۶۹)

قادیانی کہتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں وہ نبی ہوں گے، صدقیق ہوں گے، شہید ہوں گے، صالح ہوں گے، اس آیت میں چار درجات کے ملنے کا ذکر ہے، اگر انسان صدقیق، شہید، صالح بن سکتا ہے تو نبی کیوں نہیں بن سکتا؟ تمین درجوں کو جاری ماننا ایک کوبند مانا تحریف نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر صرف معیت مراد ہو تو کیا حضرت صدقیق اکبرؓ

حضرت فاروق اعظم صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، خود صدقیق اور شہیدنہ تھے؟

جواب :۱: آیت مبارکہ میں درجات ملنے کا ذکر نہیں بلکہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد ﷺ کی اطاعت کرے وہ آخرت میں ابیا، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ ہوگا، جیسا کہ آیت کے آخری الفاظ ”حسن او لئک رفیقا“ ظاہر کرتے ہیں۔

جواب :۲: یہاں معیت ہے عینیت نہیں ہے۔ معیت فی الدنیا ہر مونک کو حاصل نہیں اس لئے اس سے مراد معیت فی الآخرۃ ہی ہے۔ چنانچہ مرزا یوں کے مسلسلہ دسویں صدی کے مجدد امام جلال الدینؒ نے اپنی تفسیر جلالیہ شریف میں اس آیت کا شان نزول لکھا ہے:

”قال بعض الصحابة للنبي ﷺ كيف نزك في الجنة“

وانت في الدرجات العلي، ونحن أسفل منك فنزل ومن يطبع الله والرسول وحسن أو لئک رفیقا، رفقاء في الجنة بان يستمتع فيها برؤيتهم وزيارتهم والحضور معهم وان كان مقرهم في درجات عالية بالنسبة الى غيرهم۔“ (جلالیں ص ۸۰)

”بعض صحابہ کرامؓ نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا کہ آپ جنت کے بلند بالامقامات پر ہوں گے اور ہم جنت کے نچلے درجات پر ہوں گے، تو آپ کی زیارت کیسے ہوگی؟ پس یہ آیت نازل ہوئی ”من يطبع الله والرسول الخ“ (آگے فرماتے ہیں) یہاں رفاقت سے مراد جنت کی رفاقت ہے کہ صحابہ کرامؓ اعلیٰ علیہم السلام کی زیارت و حاضری سے فیضیاب ہوں گے، اگرچنان (ابیا) کاٹھکانہ دوسروں کی نسبت بلند مقام پر ہوگا۔“ اسی طرح تفسیر کبیر ص ۷۰-۷۱ میں ہے:

”من يطبع الله والرسول ذكرها في سبب النزول وجوها۔“

الا ول روی جمع من المفسرين ان ثوبان مولی رسول الله ﷺ

کان شدید الحب لرسول الله ﷺ قلیل الصبر عنہ فاتاہ یوما و قد
تغیر وجهه و نحل جسمه و عرف الحزن فی وجهه فسالہ رسول
الله ﷺ عن حالہ فقال يارسول الله ما بی و جع غیرانی اذالم
ارک اشتققت اليک واستو حشت وحشة شديدة حتى القاک
فذكرت الاخرة فخفت ان لا راک هناك لاني ان ادخلت الجنة
فانت تكون في درجات النبيین وانا في درجة العبيد فلا راک
وان انالم ادخل الجنة فحيثني لا راک ابدا فنزلت هذه الاية۔“

ترجمہ: ”من يطع الله الخ“ (اس آیت) کے شانزہول
کے کئی اسباب مفسرین نے ذکر کئے ہیں۔ ان میں پہلا یہ ہے کہ حضرت
ثوبانؓ جو آخرت ﷺ کے آزاد کردہ غلام تھے، وہ آپ کے بہت زیادہ
شیدائی تھے (جدائی پر) صبر نہ کر سکتے تھے، ایک دن ٹکڑیں صورت بنائے
آخرت ﷺ کے پاس آئے، ان کے چہرہ پر حزن و ملال کے اثرات
تھے، آپؐ نے وجہ دریافت فرمائی، تو انہوں نے عرض کیا کہ مجھے کوئی
تکلیف نہیں، بس اتنا ہے کہ آپؐ کونہ دیکھوں تو اشتیاق ملاقات میں بے
قراری بڑھ جاتی ہے یہاں تک کہ آپؐ کی زیارت ہو تو مجھے آخرت کا
خیال آ کریے خوف لاحق ہے کہ وہاں میں آپؐ کونہ دیکھوں گا چونکہ مجھے
جنت میں داخلہ ملابھی تو آپؐ تو ابیا کے درجات میں بلند ترین مقام پر
فاائز ہوں گے، اور ہم آپؐ کے غلاموں کے درجے میں، اور اگر جنت میں
سرے سے میرا داخلہ نہ ہو تو پھر ہمیشہ کے لئے ملاقات سے گئے، اس
پر یہ آیت نازل ہوئی۔“

معلوم ہوا کہ اس معیت سے مراد جنت کی رفاقت ہے۔ ابن کثیر، تنور المقباس،
روح البیان میں بھی تقریباً یہی مضمون ہے:

حدیث: ”قال رسول الله ﷺ الناجر الصدوق الامین

مع النبیین والصدیقین والشہداء۔“

(منتخب کنز العمال ج ۴ ص ۷ حدیث ۹۲۱۷)

ابن کثیر ص ۵۲۳ ج ۱ طبع مصر

ترجمہ: ”آپ نے فرمایا کہ سچا تاجر امانت دار (قیامت کے دن)

نبیوں صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہو گا۔“

اگر معیت سے درجہ ملنا ثابت ہے تو مرزا ای بٹائیں کہ اس زمانہ میں کتنے امین و

صادق تاجر نبی ہوئے ہیں؟

”عن عائشة قالت سمعت رسول الله ﷺ يقول مامن

نبي يمرض الا خيرين الدنيا والآخرة وكان في شكواه الذي

قبض اخذته بحة شديدة فسمعته يقول مع الذين انعمت عليهم

من النبیین فعلمته انه خیر۔“

(مکملۃ ص ۵۲۷ ج ۱، ۲ ابن کثیر ص ۵۲۲ ج ۱)

ترجمہ: ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آپ

سے سنا آپ فرماتے تھے کہ ہر نبی، مرض (وفات) میں اسے اختیار دیا

جاتا ہے کہ وہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا عالم آخرت میں، جس مرض میں

آپ کی وفات ہوئی آپ گوشیدی کھانی ہوئی آپ اس مرض میں فرماتے

تھے: ”مع الذين انعمت عليهم من النبیین“ اس سے میں سمجھ گئی کہ

آپ گوہی دنیا و آخرت میں سے ایک کا اختیار دیا جا رہا ہے۔“

معلوم ہوا کہ اس آیت میں نبی بننے کا ذکر نہیں کیونکہ نبی تو پہلے بن چکے تھے آپ کی

تمنا آخرت کی معیت کے متعلق تھی۔

درجات کے ملنے کا تذکرہ:

قرآن کریم میں جہاں دنیا میں ایمان والوں کو درجات ملنے کا ذکر ہے وہاں نبوت

کا کوئی ذکر نہیں ہے، اگرچہ باقی تمام درجات کا لمنانہ کوہ ہے، مثلاً:

۱: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون

(الجديد: ۱۹) والشهداء عند ربهم۔“

ترجمہ: ”اور جو لوگ یقین لائے اللہ پر اور اس کے سب رسولوں پر وہی ہیں سچے ایمان والے اور لوگوں کا احوال بتلانے والے اپنے رب کے پاس۔“

۲: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في

(عکبوت: ۹) الصالحين۔“

ترجمہ: ”اور جو لوگ یقین لائے اور بھلے کام کئے ہم ان کو داخل کریں گے نیک لوگوں میں۔“

۳: سورة حجرات کے آخر میں: ”مجاهدین فی سبیل اللہ“ کو فرمایا ”اوئلئک

هم الصادقون۔“

ان آیات میں صدیق، صالح وغیرہ درجات ملنے کا ذکر ہے، مگر نبوت کا ذکر نہیں۔

غرض جہاں درجات حاصل کرنے کا ذکر ہے وہاں نبوت کا ذکر نہیں۔ جہاں نبوت کا ذکر ہے وہاں درجات ملنے کا ذکر نہیں بلکہ صرف معیت مراد ہے۔

جواب: ۳: کیا تیرہ سو سال میں کسی نے حضور ﷺ کی پیروی کی ہے یا نہ؟ اگر

اطاعت اور پیروی کی ہے تو نبی کیوں نہ بنے؟ اور اگر کسی نے بھی اطاعت و پیروی نہیں کی تو

آپ کی امت خیرامت نہ ہوئی بلکہ شرامت ہوگی، نعوذ باللہ، جس میں کسی نے بھی اپنے نبی

کی کامل پیروی نہ کی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں صحابہ کرامؐ کے متعلق خود شہادت

دے دی ہے کہ: ”یطیعون اللہ و رسولہ“ (سورۃ توبہ: ۱۷) یعنی رسول ﷺ کے

صحابہ کرامؐ اور اس کے رسول کی کامل اطاعت کرتے ہیں۔ بتاؤ وہ نبی کیوں نہ ہوئے؟

اس لئے کہ اگر اطاعت کاملہ کا نتیجہ نبوت ہے تو اکابر صحابہ کرامؐ کو یہ منصب ضرور حاصل ہوتا

جنہیں ”رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ“ کا خطاب ملا اور یہی رضاۓ الہی سب سے بڑی

نعمت ہے۔ چنانچہ فرمایا: ”رضوان من الله اکبر۔“ (توبہ: ۲۷)

بُو ب: ۳: اگر یفرض حال پانچ منٹ کے لئے تسلیم کر لیں کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت میں نبوت ملتی ہے تو اس آیت میں تشریعی اور غیر تشریعی کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ تم غیر تشریعی کی تخصیص کیوں کرتے ہو؟ اگر اس آیت میں نبوت ملنے کا ذکر ہے تو آیت میں النبین ہے المرسلین نہیں، اور نبی غیر تشریعی اور رسول تشریعی کو کہا جاتا ہے، جیسا کہ نبی و رسول کے فرق سے واضح ہے، تو اس لحاظ سے پھر تشریعی نبی آنے چاہیں، یہ تو تمہارے عقیدہ کے بھی خلاف ہوا، مرزا کہتا ہے:

”اب میں بوجب آیت کریمہ: ”وَ اما بنعمت ربک فحدث“

اپنی نسبت بیان کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اس تیرے درجہ میں داخل کر کے وہ نعمت بخشی ہے کہ جو میری کوشش سے نہیں بلکہ شکم مادر میں ہی مجھے عطا کی گئی۔“ (حقیقت الوعی ص ۲۶ روحانی خواہیں ص ۷۰ ج ۲۲)

اس حوالہ سے تو ثابت ہوا کہ مرزا کو آنحضرت ﷺ کی ایتائے سے نہیں بلکہ وہی طور پر نبوت ملی۔ تو پھر اس آیت سے مرزا یوں کا استدلال باطل ہوا۔

جواب: ۵: اگر اطاعت کرنے سے نبوت ملتی ہے تو نبوت کسی چیز ہوئی حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ“ نبوت وہی چیز ہے جو اسے کسی مانے وہ کافر ہے۔

نبوت وہی چیز ہے:

ا: علامہ شعرائی الیوقیت والجوہر میں تحریر فرماتے ہیں:

”فَإِنْ قَلَتْ فَهُلْ النَّبُوَةُ مَكْتَسِبَةٌ أَوْ مَوْهُوَةٌ فَالْجَوابُ

لیست النبوة مکتبہ حتی یتوصل الیها بالنسک و الریاضات

کما ظہیہ جماعتہ من الحمقاء و قد افني المالکیۃ وغیرہم

بکفر من قال آن النبوة مکتبہ۔“ (الیوقیت والجوہر ص ۱۶۵، ج ۱۶)

ترجمہ: ”کہ کیا نبوت بھی ہے یا وہی؟ تو اس کا جواب ہے کہ

نبوت کسی نہیں ہے کہ درویشی اختیار کرنے یا محنت و کاوش سے اس تک پہنچا جائے جیسا کہ بعض احقوں (مثلاً قادریانی فرقہ از مترجم) کا خیال ہے، مالکیہ وغیرہ نے کبھی کہنے والوں پر کفر کا فتویٰ دیا ہے۔“

۲:.....قاضی عیاض شفما میں لکھتے ہیں:

”من ادعی نبوة احمد مع نبینا ﷺ او بعده او من ادعی النبوة لنفسه او جواز اكتسابها، و البلوغ بصفاء القلب الى مرتبتها الحُلُج و كذلك من ادعى منهم انه يوحى اليه و ان لم يدع النبوة فهو لاء كلهم كفار مكذبون للنبي ﷺ لانه اخبر ﷺ انه خاتم النبیین لانی بعده۔“ (شفاء ص ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸)

ترجمہ: ”ہمارے نبی ﷺ کی موجودگی یا آپ ﷺ کے بعد جو کوئی کسی نبوت کا قائل ہو یا اس نے خود اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، یا پھر دل کی صفائی کی بنا پر اپنے کسب کے ذریعہ نبوت کے حصول کے جواز کا قائل ہوا، یا پھر اپنے پردوہ کے اترنے کو کہا، اگرچہ نبوت کا دعویٰ نہ کیا، تو یہ سب قسم کے لوگ نبی ﷺ کے دعویٰ ”انا خاتم النبیین“ کی تکذیب کرنے والے ہوئے اور کافر فڑھرے۔“

ان دونوں روشن حوالوں سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ نبوت کے کبھی ہونے کا عقیدہ رکھنا اپنے اندر تکذیب خدا اور رسول کا غصر رکھتا ہے، اور ایسے عقیدہ کا رکھنے والا مالکیہ و دیگر علماء کے نزدیک قابل گردان زدنی اور کافر ہے۔

جواب: ۱:.....اگر نبوت ملنے کے لئے اطاعت و تابعداری شرط ہے تو غلام احمد قادریانی پھر بھی نبی نہیں ہے، کیونکہ اس نے نبی کریم ﷺ کی کامل تابعداری نہیں کی جیسے: (۱) مرزا نے حج نہیں کیا، (۲) مرزا نے ہجرت نہیں کی، (۳) مرزا نے جہاد بالسیف نہیں کیا بلکہ اس کو حرام کہا، (۴) مرزا نے کبھی پرچھنہیں باندھے، (۵) ہندوستان کے قبہ

خانوں میں زنا ہوتا رہا مگر مرزا غلام احمد نے کسی زانی یا زانی کو سکار نہیں کرایا، (۶) ہندوستان میں چوریاں ہوا کرتی تھیں مگر مرزا جی نے کسی چور کے ہاتھ نہیں کٹا۔

جواب: ۷: نیز مع کامعنى ساتھ کے ہیں، جیسے: ”ان الله معنا، ان الله مع
المتقين، ان الله مع الذين اتقوا، محمد رسول الله والذين معه، ان الله مع الصابرين“
نیز اگر نبی کی معیت سے نبی ہو سکتا ہے تو خدا کی معیت سے خدا بھی ہو سکتا ہے؟ العیاذ باللہ۔

جواب: ۸: یہ دلیل قرآن کریم کی آیت سے ماخوذ ہے، اس لئے مرزا
اپنے استدلال کی تائید میں کسی مفسر یا مجدد کا قول پیش کریں، بغیر اس تائید کے ان کا
استدلال مردود اور من گھڑت ہے، اس لئے کہ مرزا نے لکھا ہے:
”جو شخص ان (مدد دین) کا مکر ہے وہ فاسقوں میں سے ہے۔“
(شهادۃ القرآن ص ۳۸۷، خزانہ مص ۲۳۳، ج ۶)

جواب: ۹: اگر مرزا یوں کے بقول اطاعت سے نبوت وغیرہ درجات حاصل
ہوتے ہیں، تو ہمارا یہ سوال ہو گا کہ یہ درجے حقیقی ہیں یا ظلی وبروزی؟ اگر نبوت کا ظلی بروزی
درجہ حاصل ہوتا ہے جیسا کہ مرزا یوں کا عقیدہ ہے تو صدقیق، شہید اور صالح بھی ظلی
وبروزی ہونے چاہئیں، حالانکہ ان کے بارے میں کوئی ظلی وبروزی ہونے کا قائل نہیں،
اور اگر صدقیق وغیرہ میں حقیقی درجہ ہے تو پھر نبوت بھی حقیقی ہی مانتا چاہئے۔ حالانکہ تشریعی اور
مستقل نبوت کا مانا خود مرزا یوں کو بھی تسلیم نہیں ہے۔ اس لئے یہ دلیل مرزا یوں کے دعویٰ
کے مطابق نہ ہوگی۔

آیت: ۱۰: وَآخْرِينَ مِنْهُمْ لِمَا يَلْحَقُوْبَهُمْ:
قادیانی کہتے ہیں کہ طائفہ قادیانیہ چونکہ ختم نبوت کا مکر ہے، اس لئے قرآن مجید کی
تحريف کرتے ہوئے آیت: ”هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأَمْمِينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتَلَوَّ عَلَيْهِمْ آيَاتَهُ
وَيُزَكِّيْهِمْ وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَفْتِي ضلالٍ مِّنْهُمْ وَآخْرِينَ
مِّنْهُمْ لِمَا يَلْحَقُوْبَهُمْ“ (بمعنی: ۳، ۲) کوئی ختم نبوت کی نفعی کے لئے پیش کر دیا کرتے ہیں۔

طريق استدلال یہ بیان کرتے ہیں کہ جیسے امین میں ایک رسول عربی ملک اللہ مبعوث ہوئے تھے اس طرح بعد کے لوگوں میں بھی ایک نبی قادیانی میں پیدا ہوگا۔ معاذ اللہ۔

جواب: ۱:.....بیضاوی شریف میں ہے:

”وآخرین منهم عطف على الاميين او المنصوب فى
يعلمهم وهم الذين حاووا بعد الصحابة الى يوم الدين فان دعوته
وتعلیمه يعم الجميع۔“

”آخرین کاعطف امین یا یعلمهم کی ضمیر پڑے، اور اس لفظ کے زیادہ کرنے سے آنحضرت ﷺ کی بعثت عامہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ کی تعلیم و دعوت صحابہؓ اور ان کے بعد قیامت کی صحیح تکمیل کے لئے عام ہے۔“

۲- خود آنحضرت ﷺ بھی فرماتے ہیں: ”أنا نبى من ادرك حيَا و من يولد
بعدى“ صرف موجودین کے لئے نہیں بلکہ ساری انسانیت اور ہمیشہ کے لئے ہادی ﷺ
برحق ہوں۔

جواب: ۳:.....القرآن یفسر بعضہ بعضًا کے تحت دیکھیں تو یہ آیت کریمہ دعائے خلیل کا جواب ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تغیریت کی تکمیل پر وعا فرمائی تھی:

”رَبَّنَا وَابْعَثْتُ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَتِكَ
وَيَعْلَمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيَزْكِيْهِمْ۔“ (بقرہ: ۱۲۹)

زیر بحث آیت میں اس دعا کی اجابت کا ذکر ہے کہ دعائے خلیل کے نتیجہ میں وہ رسول معظم ان امیوں میں مبعوث ہوئے لیکن صرف انہیں کے لئے نہیں بلکہ جمیع انسانیت کے لئے جو موجود ہیں ان کے لئے بھی جو ابھی موجود نہیں لیکن آئیں گے قیامت تک، بھی کے لئے آپ ﷺ ہادی برحق ہیں، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ
اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا“ (اعراف: ۱۵۸) یا آپ ﷺ کافر مانا: ”أَرْسَلْتُ إِلَيْكُمْ
الْحَقَّ كَافِرُهُمْ“

لہذا امر زادیانی دجال قادیانی اور اس کے چیلوں کا اس کو حضور ﷺ کی دو بعثتیں قرار دینا یا نئے رسول کے مبعوث ہونے کی دلیل بنانا سر اسرار دجالیت ہے، پس آیت کریمہ کی رو سے مبعوث واحد ہے اور مبعوث ”الیہم“ موجود و غائب سب کے لئے بعثت عامہ ہے۔

جواب: ۳:..... رسول پر عطف کرنا صحیح نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو قید معطوف علیہ میں مقدم ہوتی ہے اس کی رعایت معطوف میں بھی ضروری ہے۔ چونکہ رسول معطوف علیہ ہے فی الامیین مقدم ہے۔ اس لئے فی الامیین کی رعایت و آخرین منہم میں بھی کرنی پڑے گی۔ پھر اس وقت یہ معنی ہوں گے کہ امیین میں اور رسول بھی آئیں گے، کیونکہ امیین سے مراد عرب ہیں، جیسا کہ صاحب بیضاوی نے لکھا ہے: ”فی الامیین ای فی العرب لان اکثرهم لا يكتبون ولا يقرؤن“ اور لفظ ”منہم“ کا بھی یہی تقاضا ہے جب کہ مرزا عرب نہیں تو مرزا یوں کے لئے سوائے جل و کذب میں اضافہ کے استدلال باطل سے کوئی فائدہ نہ ہوا۔

جواب: ۵:..... قرآن مجید کی اس آیت میں بعث کا لفظ ماضی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اگر رسول پر عطف کریں تو پھر بعث مضارع کے معنوں میں لینا پڑے گا۔ ایک ہی وقت میں ماضی اور مضارع دونوں کا ارادہ کرنا ممتنع ہے۔

جواب: ۶:..... اب آئیے دیکھئے کہ مفسرین حضرات جو (قادیانی دجال سے قبل کے زمانہ کے ہیں) اس آیت کی تفسیر میں کیا ارشاد فرماتے ہیں:

”قال المفسرون هم الا عاجم يعنون بهم غير العرب اي طائفه كانت قاله ابن عباس وجماعة وقال مقاتل يعني التابعين من هذه الامة الذين لم يلحقوا باوالله لهم وفي الجمله يعني جميع الا قول فيه كل من دخل في الاسلام بعد النبي ﷺ الى يوم القيمة فالمراد بالاميين العرب وبالآخرين سواهم من الامم۔“
(تفسیر کیرم ص ۲ ج ۳۰ مطبع مصر)

(یعنی آپ ﷺ عرب و تمکن کے لئے معلم و مرتبی ہیں) مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مرادِ عجیبی ہیں۔ عرب کے مساواہ کوئی طبقہ ہو یہ حضرت ابن عباس کا قول ہے اور مقائل کہتے ہیں کہ تابعین مراد ہیں۔ سب اقوال کا حاصل یہ ہے کہ امین سے عرب مراد ہیں، اور آخرین سے سوائے عرب کے سب تو میں جو حضور ﷺ کے بعد قیامت تک اسلام میں داخل ہوں گے وہ سب مراد ہیں۔“

”وَهُمُ الَّذِينَ جَاءُوا بَعْدَ الصَّحَابَةِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔“
(تفسیر ابو سعود ج ۲ ص ۸۴۷)

”آخرین سے مراد وہ لوگ ہیں جو صحابہؓ کے بعد قیامت تک آئیں گے۔ (ان سب کے لئے حضور ﷺ نبی ہی نبی ہیں۔)“

”هُمُ الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔“
(کشاف ص ۵۳۰ ج ۲)

جواب: بخاری شریف ص ۲۷۲ ج ۲، مسلم شریف ص ۳۱۲ ج ۲، ترمذی

شریف ص ۲۳۲ ج ۲، مکملۃ الشریف ص ۶۵۷ پر ہے:

”عن أبي هريرة قال: كنا جلوسا عند النبي فأنزلت سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال قلت من هم يا رسول الله فلم يراجعه حتى سال ثلا وفينا سلمان الفارسي وضع رسول الله عليه ﷺ يده على سلمان ثم قال لو كان اليمان عند الشريان لثالثه رجال او رجل من هؤلاء.“

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں، ہم نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ ﷺ پر سورہ جمع نازل ہوئی۔ و آخرین منہم لما يلحقوا بهم تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ! وہ کون ہیں؟ آپ ﷺ نے خاموشی فرمائی، حتیٰ کہ تیسری بار رسول عرض کرنے پر آپ ﷺ نے ہم

میں بیٹھے ہوئے سلمان فارسی پر ہاتھ رکھ دیا اور فرمایا اگر ایمان شریا پر ہوتا تو
یہ لوگ (اہل فارس) اس کو پالیتے، رجال یا جل کے لفظ میں راوی کو شک
ہے مگر اگلی روایت میں رجال کو معین کر دیا۔“

یعنی عجم یا فارس کی ایک جماعت کثیرہ جو ایمان کو تقویت دے گی اور امور ایمانیہ میں
اعلیٰ مرتبہ پر ہوگی۔ عجم و فارس میں بڑے بڑے محدثین، علماء، مشائخ، فہرمان، مفسرین، مقتدا،
محدثین و صوفیا، اسلام کے لئے باعث تقویت بنے۔ آخرین محدث لماسیح وہ مراد
ہیں۔ ابو ہریرہؓ سے لے کر ابو حنفہؓ تک سبھی اسی رسول ہاشمؐ کے دراقدس کے دریزہ گر
ہیں۔ حاضر و غائب، امین و آخرین سب ہی کے لئے آپؐ کا دراقدس وابہ، آئے
جس کا جی چاہے۔ اس حدیث نے معین کر دیا کہ آپؐ کی نبوت عامہ و تامہ و کافہ ہے۔
موجود و غائب عرب و عجم سب ہی کے لئے آپؐ معلم و مزرک ہیں۔ اب فرمائیے کہ
آپؐ کی بعثت عامہ کا ذکر مبارک ہے یا کسی اور نبی کے آنے کی بشارت؟ ایسا
خیال کرنا باطل و بے دلیل و عویٰ ہے۔

آیت ۲: و بالآخرة هم يوقنون:

قادیانی اجرائے نبوت کی دلیل میں یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ: ”وبالآخرة هم
يوقنون۔“ (بقرہ: ۳) (یعنی وہ بچھلی و تی پر ایمان لاتے ہیں)

جواب: ا..... اس جگہ آخرت سے مراد قیامت ہے، جیسا کہ دوسری جگہ صراحتاً
فرمایا گیا: ”وَإِن الدارُ الْآخِرَةُ لَهُ الْحَيَاةُ“ (عنکبوت: ۶۴) آخری زندگی ہی اصل
نندگی ہے: ”خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ“ (حج: ۱۱) دنیا و آخرت میں خائب و خاسر؛ و لا جر
آخرة اکبر لو کانوا یعلمون“ (آلہ: ۲۱) الماصل قرآن مجید میں لفظ آخرۃ پچاس سے
اکثر مرتبہ استعمال ہوا ہے اور ہر جگہ مراد جزا اور سزا کا دن ہے۔ حضرت ابن عباسؓ سے تفسیر
ابن حجریص ۱۰۶ جلد اول ص ۲۷ پر ہے: ”عَنْ أَبْنَ عَبَّاسٍ (وَبِالْآخِرَةِ) إِذ
بِالْبَعْثَةِ وَالْقِيَامَةِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْحِسَابِ وَالْمِيزَانِ۔“ غرض جہاں کہیں قرآن مجید میں

آخرت کا لفظ آیا ہے اس سے قیامت کا دن مراد ہے نہ کچھلی وحی۔

جواب: ۲: مرزاقا دیانی کہتا ہے:

”طالب نجات وہ ہے جو خاتم النبین پیغمبر آخرا زماں پر جو کچھ اتارا گیا ہے ایمان لائے.....“ و بالآخرہ ہم یوقنوں ”اور طالب نجات وہ ہے جو کچھلی آنے والی گھڑی یعنی قیامت پر یقین رکھے اور حیزا اور سزا مانتا ہو۔“

(احکام نمبر ۲۵، ۲۳ حج ۱۹۰۸ء / ۱۰، ۸ اکتوبر ۱۹۰۷ء) دیکھو فخر بن العرفان ص ۸۷ حج ا، از مرزاقا دیانی)

اسی طرح دیکھو احکام نمبر ۲ حج ۱۹۰۶ء، ۱۷ جنوری ۱۹۰۶ء ص ۵ کالم نمبر ۲، ۳۔ اس میں مرزاقا دیانی نے ”و بالآخرہ ہم یوقنوں“ کا ترجمہ ”اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، کیا ہے اور پھر لکھتا ہے ”قیامت پر یقین رکھتا ہوں۔“

تفسیر از حکیم نور الدین خلیفہ قادریانی:

”اور آخرت کی گھڑی پر یقین کرتے ہیں۔“

(ضیمہ بدرج نمبر ۱۵، ص ۳ سوراخ ۲/ فروری ۱۹۰۹ء)

لہذا مرزاقیوں کا ”و بالآخرہ ہم یوقنوں“ کا معنی آخری وحی کرنا جہاں تحریف و زندقة ہے، وہاں قادریانی اکابر کی تصریحات کے بھی خلاف ہے۔

جواب: ۳: قادریانی علم و معرفت سے معری ہوتے ہیں، کیونکہ خود مرزاقا دیانی بھی محض جاہل تھا۔ اسے بھی تذکیر و تائیث واحد و جمع کی کوئی تمیز نہ تھی، ایسے ہی یہاں بھی ہے کہ الآخرۃ تموث ہے، جبکہ لفظ وحی مذکور ہے، اس کی صفت موثر کیسے ہوگی؟ دیکھئے قرآن مجید میں ہے: ”ان الدار الآخرة لھی الحیوان“ دیکھئے دار الآخرۃ موثر واقع ہوا ہے۔ اس لئے یہی کی موثر ضمیر آئی ہے اور لفظ وحی کے لئے مذکور کا صیغہ استعمال ہونا چاہئے، تو پھر کوئی سربھراہی الآخرۃ کو آخری وحی قرار دے سکتا ہے؟

آیت ۵: وجعلنا فی ذریته النبوة

قادیانی کہتے ہیں کہ ”وجعلنا فی ذریته النبوة والكتاب“ (عکبوت: ۲۷)

یعنی ہم نے اس ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، اس سے معلوم ہوا کہ جب تک ابراہیم کی اولاد ہے اس وقت تک نبوت جاری ہے۔

جواب: ۱: اگر اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبوت جاری ہے تو کتاب کا نزول بھی جاری معلوم ہوتا ہے، حالانکہ یہ بات قادیانیوں کے نزدیک باطل ہے جو دلیل کتاب کے جاری ہونے سے مانع ہے وہی اجرائے نبوت سے مانع ہے۔

جواب: ۲: و جعلنا کا فاعل باری تعالیٰ ہیں، تو گویا نبوت وہی ہوئی، حالانکہ قادیانی وہی کی بجائے اب کسی یقینی اطاعت والی کو جاری مانتے ہیں تو گویا کنی لحاظ سے یہ قادیانی اعتراض خود قادیانی عقائد و مسئللات کے خلاف ہے۔

احادیث پر قادیانی اعتراضات کے جوابات:

(۱) لو عاش ابراہیم:

قادیانی کہتے ہیں کہ: ”لو عاش (ابراہیم) لکان صدیقاً نبیا“، اس سے قادیانی استدلال کرتے ہیں کہ اگر حضور ﷺ کے بیٹے حضرت ابراہیم زندہ رہتے تو نبی بنتے۔ بوجہ وفات کے حضرت ابراہیم نبی نہیں بن سکے ورنہ نبی بننے کا مکان تو تھا۔

جواب: ۱: یہ روایت جس کو قادیانی اپنے استدلال میں پیش کرتے ہیں سن ابن ماجہ، باب ماجاء فی الصلوٰۃ علی ابن رسول اللہ ﷺ و ذکرو فاتی، میں ہے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں:

”عن ابن عباس لم يمأّن ابراهيم بن رسول الله ﷺ
صلى الله عليه وسلم وقال ان له مرضعاً في الجنة ولو عاش لكان
صديقاً نبياً ولو عاش لعافت اخوه القبط وما استرق قبطي.“

(ابن ماجہ ص ۱۰۸)

ترجمہ: ”حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ جب آپ ﷺ

کے صاحزادے ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ ﷺ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور فرمایا اس کے لئے دودھ پلانے والی جنت میں (مقرر کردی گئی) ہے اور اگر ابراہیم زندہ رہتے تو یقیناً نبی ہوتے اور اگر وہ زندہ رہتے تو اس کے قبطی ماموں آزاد کر دیتا اور کوئی قبطی قیدی نہ ہوتا۔“

:۱.....اس روایت کی صحت پر شاہ عبدالغنی محدثؒ نے انجام الحجۃ علی ابن ماجہ، میں

کلام کیا ہے:

”وقد تكلم بعض الناس في صحة هذا الحديث كما

ذكر السيد جمال الدين المحدث في روضة الأحباب۔“

(انجاح ص ۱۰۸)

”اس حدیث کی صحت میں بعض (محدثین) نے کلام کیا ہے،

جیسا کہ روضة احباب میں سید جمال الدین محدث نے ذکر کیا ہے۔“

:۲.....موضوعات کبیر کے ص ۵۸ پر ہے:

”قال النووي في تهذيه هذا الحديث باطل وجسارة

على الكلام المغيبات ومحازفة وهجوم على عظيم“ -

ترجمہ: ”امام نوویؒ نے تہذیب الاسماً واللغات میں فرمایا ہے کہ یہ

حدیث باطل ہے، غیب کی باتوں پر جسارت ہے، بڑی بے تکلی بات ہے۔“

:۳.....مدارج المبسوط ص ۲۶۷ ج ۲ شیخ عبد الحق دہلویؒ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث

صحت کوئی پہنچتی، اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس کی سند میں ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان ہے جو ضعیف ہے۔

:۴.....ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان کے بارہ میں محدثین کی آراء یہ ہیں، ثقہ نہیں ہے،

حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام تیجی، حضرت امام داؤد۔

حضرت امام ترمذی مکرر الحدیث ہے:

حضرت امام نسائی متروک الحدیث ہے:

حضرت امام جوزجانیؑ: اس کا اعتبار نہیں:

ضعیف الحدیث ہے: حضرت امام ابو حاتمؓ

ضعیف ہے اس کی حدیث نہ لکھی جائے، اس نے حکم سے مکر حدشیں روایت کی ہیں۔ (تہذیب التہذیب ص ۹۲، ۹۵ ج ۱) (یاد رہے کہ زیر بحث روایت بھی ابو شیبہ نے حکم سے روایت کی ہے۔)

ایسا راوی جس کے متعلق آپ اکابر امت کی آراء ملاحظہ فرمائچے ہیں، اس کی ایسی ضعیف روایت کو لے کر قادیانی اپنا باطل عقیدہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کو معلوم ہونا چاہئے کہ عقیدہ کے اثبات کے لئے خبر واحد (اگرچہ صحیح بھی کیوں نہ ہو) معتبر نہیں ہوتی، چہ جائیکہ کہ عقائد میں ایک ضعیف روایت کا سہارا لیا جائے، یہ تو بالکل ”ڈوبنے کو تینکے کا سہارا“، والی بات ہوگی۔

جواب: ۳: اور پھر قادیانی دیانت کے دیوالیہ پن کا اندازہ فرمائیں کہ اسی متذکرہ روایت سے قبل حضرت ابن اویؓ کی ایک روایت ابن ماجہ نے نقل کی ہے جو صحیح ہے، اس لئے کہ امام بخاریؓ نے بھی اپنی صحیح بخاری میں اسے نقل فرمایا ہے جو قادیانی عقیدہ اجراء نبوت کو نئی و بن سے احیزدیتی ہے۔

اے کاش! قادیانی اس ضعیف روایت سے قبل والی صحیح روایت کو پڑھ لیتے جو یہ ہے:

”قال قلت لعبدالله ابن ابی اویؓ رأیت ابراہیم بن رسول

الله ﷺ قال مات وهو صغير ولو قضى ان يكون بعد محمد ﷺ

نبي لعاش ابیه ابراہیم ولكن لا نبی بعده، ابن ماجه باب ماجاء

فی الصلوة علی ابن رسول الله وذکر وفاته۔“ (ص ۱۰۸)

ترجمہ: ”اسا عیل راوی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ ابن

اویؓ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ ﷺ کے بیٹے ابراہیم کو آپ نے دیکھا

تھا؟ عبد اللہ ابن اویؓ نے فرمایا کہ وہ (ابراہیم) چھوٹی عمر میں انقال

فرما گئے اور اگر حضور ﷺ کے بعد کسی کو نبی بنانا ہوتا تو آپ ﷺ کے بیٹے
ابراہیم زندہ رہتے، لیکن آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔“

یہ وہ روایت ہے جسے اس باب میں ابن ماجہ سب سے پہلے لائے ہیں، یہ صحیح ہے
اس لئے کہ حضرت امام بخاریؓ نے بھی اپنی صحیح کے باب ”من سمعی باسماء الانبیاء“ میں
اسے کامل نقل فرمایا۔ (دیکھئے بخاری رج ۲ ص ۹۱۲)

اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ صحیح روایت جسے ابن ماجہ متذکرہ باب میں سب پہلے
لائے اور جس کو امام بخاریؓ نے بھی اپنی صحیح بخاری میں روایت کیا ہے اور مرزا قادیانیؑ نے
اپنی کتاب شہادت القرآن ص ۳۱ روحانی خزانہ ص ۳۳۷ ج ۶ پر ”بخاری شریف کو اس
الکتب بعد کتاب اللہ“ تسلیم کیا ہے۔ اگر مرزا یوں میں دیانت نام کی کوئی چیز ہوتی تو اس صحیح
بخاری کی روایت کے مقابلہ میں ایک ضعیف اور منکر الحدیث کی روایت کو نہ لیتے۔ مگر مرزاؑ
اور دیانت یہ دو متصاد چیزیں ہیں۔

لیجنے ایک اور روایت انہیں حضرت عبد اللہ بن اویؓ سے مسند احمد ج ۲ ص ۳۵۳ کی
ملاحظہ فرمائیے:

”حدثنا ابن ابی خالد قال سمعت ابن ابی اویؓ يقول لو

کان بعد النبی ﷺ نبی مامات ابنه ابراہیم“

”ابن ابی خالد فرماتے ہیں کہ میں نے ابن ابی اویؓ سے سنا

فرماتے تھے کہ حضرت رحمت دو عالم ﷺ کے بعد کوئی نبی ہوتا تو آپ کے
بیٹے ابراہیم فوت نہ ہوتے۔“

حضرت انسؓ سے سدیؓ نے دریافت کیا کہ حضرت ابراہیم کی عمر بوقت وفات کیا
تھی؟ آپ نے فرمایا: ”قد ملاعے المهد ولو بقی لکان نبیاً ولكن لم يكن ليبقى لأن
نبیکم آخر الانبیاء“ وہ پنگھوڑے کو بھر دیتے تھے (یعنی پچپن میں ان کا انتقال ہوا لیکن وہ
اتنے بڑے تھے کہ پنگھوڑا بھرا ہوا نظر آتا تھا) اگر وہ باقی رہتے تو نبی ہوتے لیکن اس لئے

باقی نہ رہے کہ تمہارے نبی آخری نبی ہیں۔

(تلمیح الصارخ الکبیر لابن عساکر ص ۲۹۲ ج ۱۰ فتح الباری ج ۱۰ ص ۷۷ باب کمی باسماء الاعبیاً)

اب ان صحیح روایات جو بخاری، مسند احمد اور ابن ماجہ میں موجود ہیں ان کے ہوتے ہوئے ایک ضعیف روایت کو جس کا جھوٹا اور مردود ہوتا یوں بھی ظاہر ہے کہ یہ قرآن کے نصوص صریحہ اور صدھا احادیث نبویہ کے خلاف ہے، اسے صرف وہی لوگ اپنے عقیدے کے لئے پیش کر سکتے ہیں جن کے متعلق حکم خداوندی ہے:

”ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم“

(بقرہ:۷) ”غشاوة۔“

جواب: ۳:..... اس میں حرف لوقابل توجہ ہے، اس لئے کہ جیسے: ”لو كان فيهما الله الا الله لفسدتا“ لعربی میں حال کے لئے بھی آ جاتا ہے، اس روایت میں بھی تعلیق بالحال ہے۔ اس سے اثبات عقیدہ کے لئے استدلال کرنا قادری علم کلام کا، ہی کارنامہ ہو سکتا ہے۔

(۲) ولا تقولوا لا نبی بعده:

قادیانی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں: ”قولوا خاتم الانبیاء ولا تقولوا الانبیء بعدہ۔“ (تکملہ مجمع المکار ج ۵ ص ۵۰۲ در منشور ص ۲۰۲ ج ۵) اس سے ثابت ہوا کہ ان کے نزدیک نبوت جاری تھی۔

جواب: ا:..... حضرت عائشہ صدیقہؓ کی طرف اس قول کی نسبت صریحاً بے زیادتی ہے۔ دنیا کی کسی کتاب میں اس کی سند متصل نہ کوئی نہیں۔ ایک منقطع السند قول سے نصوص قطعیہ اور احادیث متواترہ کے خلاف استدلال کرنا سر اپاڈھل و فریب ہے۔

جواب: ۲:..... رحمت دو عالمین ﷺ فرماتے ہیں: ”انا خاتم النبین لا نبی بعدی“ اور حضرت عائشہ صدیقہؓ کا قول: ”ولا تقولوا لا نبی بعدہ“ یہ صریحاً اس فرمان نبوی ﷺ کے مخالف ہے، قول صحابہؓ قول نبی ﷺ میں تعارض ہو جائے تو حدیث و فرمان نبوی کو ترجیح

ہوگی، پھر لانبی بعدی حدیث شریف متعدد صحیح سندوں سے مذکور ہے اور قول عائشہ ایک منقطع السند قول ہے، صحیح حدیث کے مقابلہ میں یہ کیسے قابل جلت ہو سکتا ہے؟

جواب: ۳: خود حضرت عائشہ صدیقہؓ سے کنز العمال ص ۲۷۱ ج ۱۵ حادیث: ۳۲۳۲۳ میں روایت ہے: "لَمْ يَقِنْ مِنَ النَّبُوَةِ بَعْدِهِ شَيْءٌ إِلَّا مُبَشِّرَاتٍ" "اس واضح فرمان کے بعد اس قول کو حضرت عائشہ صدیقہؓ کی طرف منسوب کرنے کا کوئی جواز باقی رہ جاتا ہے؟

جواب: ۲: قادریانی دجل ملاحظہ ہو کر وہ اس قول کو جو مجمع الہمار میں بغیر سند کے نقل کیا گیا ہے استدلال کرتے وقت بھی ادھوراً قول نقل کرتے ہیں، اس میں ہے: "هذا ناظر الى نزول عيسیٰ عليه السلام۔" (تمام مجمع الہمار ص ۵۰ ج ۵)

اگر ان کا یا مغیرہؓ کا جو قول: "إِذَا قُلْتُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَا حَسْبُكَ" "وَغَيْرَهُ جِيلَيْهِ الْفَاظُ آئے ہیں۔ ان سب کا مقصد یہی ہے کہ ان کے ذہن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا مسئلہ تھا، یہ نہ کہو کہ آپؐ کے بعد نبی کوئی نہیں (آئے گا) اس لئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو گا، یہ کہو کہ آپؐ خاتم النبیین ہیں یعنی آپؐ کے بعد کوئی شخص نبی بنایا نہیں جائے گا۔ اس لئے کہ عیسیٰ علیہ السلام آپؐ سے پہلے نبی بنائے جا چکے ہیں۔

جواب: ۵: اس قول "لَا تَقُولُوا لَا نَبِيٌ بَعْدِهِ" میں "بعدہ" خبر کے مقام پر آیا ہے، اس لئے اس کا پہلا معنی یہ ہو گا: "لَا نَبِيٌ مَبْعُوثٌ بَعْدِهِ" حضو ﷺ کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ مرقات حاشیہ مشکوٰۃ شریف پر یہی ترجمہ مراد لیا گیا ہے جو صحیح ہے۔

دوسرा معنی: "لَا نَبِيٌ خارج بَعْدِهِ" حضو ﷺ کے بعد کسی نبی کا ظہور نہیں ہو گا۔ یہ غلط ہے، اس لئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ حضرت مغیرہؓ نے ان معنوں سے: "لَا تَقُولُوا لَا نَبِيٌ بَعْدِهِ" کی ممانعت فرمائی ہے، جو سو فیصد ہمارے عقیدہ کے مطابق ہے۔

تیرا معنی: "لَا نَبِيٌ حَيٌ بَعْدِهِ" حضو ﷺ کے بعد کوئی نبی زندہ نہیں، ان معنوں کو سامنے رکھ کر حضرت عائشہؓ نے: "لَا تَقُولُوا لَا نَبِيٌ بَعْدِهِ" فرمایا۔ اس لئے کہ خود

ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی روایات مقول ہیں۔
قادیانی سوال:

اگر اس قول عائشہ صدیقہؓ کی سند نہیں تو کیا ہو تعلیقات بخاری کی بھی سند نہیں۔

جواب: یہ بھی قادیانی دجل ہے ورنہ فتح الباری کے مصنف علامہ ابن حجرؓ نے الگ ایک مستقل کتاب تالیف کی ہے، جس کا نام تعلیق تعلیق ہے۔ اس میں تعلیقات صحیح بخاری کو موصول کیا ہے۔

۳: مسجدی آخر المساجد:

قادیانی کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: "مسجدی آخر المساجد" ظاہر ہے کہ حضور ﷺ کی مسجد کے بعد نیامیں ہر روز مسجدیں بن رہی ہیں، تو نبی بھی بن سکتے ہیں۔

جواب: یہ اشکال بھی قادیانی دجل کا شاہکار ہے، اس لئے جہاں "مسجدی آخر المساجد" کے الفاظ احادیث میں آئے ہیں، وہاں روایات میں آخر مساجد الاعیا کے الفاظ بھی آتے ہیں، تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت مبارک یہ تھی کہ وہ اللہ رب العزت کا گھر (مسجد) بناتے تھے۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام کی مساجد میں سے آخری مسجد، مسجد نبوی ہے۔ یہ ختم نبوت کی دلیل ہوئی نہ کہ اجرائے نبوت کی۔ ترغیب والترہیب ج ۲۷ ص ۳۷۷ احادیث: ۱۷۷ ج ۱۲ حدیث: ۳۲۹۹۹ باب فضل الہر مین میں حضرت عائشہ صدیقہؓ سے مقول ہے: "عن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ انا خاتم الانبياء و مسجدی خاتم المساجد الانبیاء۔"

۴: انک خاتم المهاجرین:

قادیانی کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے اپنے چچا حضرت عباسؓ سے فرمایا: "اطمئن يا عم (عباسؓ) فانک خاتم المهاجرین فى الهجرة كما انا خاتم النبیین فى النبوة۔" (کنز العمال ص ۲۹۹ ج ۱۲ حدیث: ۳۳۳۸)

اگر حضرت عباسؓ کے بعد ہجرت

جاری ہے تو حضور ﷺ کے بعد نبوت بھی جاری ہے۔

جواب: قادیانی اس روایت میں بھی دل سے کام لیتے ہیں، اصل واقعہ یہ

ہے کہ حضرت عباسؓ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کے سفر پر روانہ ہو گئے تھے، مکہ مکرمہ سے چند کوس باہر تشریف لے گئے تو راستے میں مدینہ طیبہ سے آنحضرت ﷺ وہی ہزار قدسیوں کا شکر لے کر مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لئے تشریف لے آئے، راستے میں ملاقات ہوئی تو حضرت عباسؓ کو افسوس ہوا کہ میں ہجرت کی سعادت سے محروم رہا۔ حضور ﷺ نے حضرت عباسؓ کو تسلی و حصول ثواب کی بشارت دیتے ہوئے یہ فرمایا۔ اس لئے واقعاً مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے والے آخری مہاجر حضرت عباسؓ تھے، اس لئے کہ ہجرت دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف کی جاتی ہے، مکہ مکرمہ رحمت دو عالم ﷺ کے ہاتھوں ایسے فتح ہوا جو قیامت کی صبح تک دارالاسلام رہے گا، تو مکہ مکرمہ سے آخری مہاجر واقعی حضرت عباسؓ ہوئے۔ آپؐ کا فرمانا: ”اے چچا تم خاتم المہاجرین ہو“ تمہارے بعد جو بھی مکہ مکرمہ چھوڑ کر آئے گا اسے مہاجر کا لقب نہیں ملے گا۔ اس لئے امام بخاریؓ فرماتے ہیں کہ: ”lahjra بعد الفتح۔“ (بخاری ص ۳۳۲ ج ۱) حضرت حافظ ابن حجر عسقلانیؓ اصحاب

۱۷۲ ج ۲ طبع بیروت میں فرماتے ہیں:

”ماجر قبل الفتح بقليل و شهد الفتح“ -

”حضرت عباسؓ نے فتح مکہ سے قدرے پیشتر ہجرت کی اور

آپؐ فتح مکہ میں حاضر تھے۔“

۵: ابو بکر خیر الناس:

قادیانی کہتے ہیں کہ: ”ابوبکر خیر الناس الا ان یکون نبی“ ابو بکر تمام لوگوں سے افضل ہیں، مگر یہ کہ کوئی نبی ہو، اس سے معلوم ہوا کہ نبوت جاری ہے۔

جواب: یہ روایت (کنز العمال ج ۱ ص ۵۳۳ حدیث: ۳۲۵۲) کی ہے، اس کے آگے ہی لکھا ہے: ”هذا الحديث احمد ما انکر“ یہ روایت ان میں سے ایک ہے، جس پر انکار

کیا گیا ہے، ایسی مذکور روایت سے عقیدہ کے لئے استدال کرنا قادیانی جعل کا شاہکار ہے۔

جواب: ۲: کنز العمال ج ۱۱ ص ۵۳۶ حدیث ۳۲۵۶۲ حضرت انس بن مالک

سے مردی ہے:

”ما صحب النبیین والمرسلین اجمعین ولا صاحب

یسن، افضل من ابی بکر“

ترجمہ: ”رحمت دو عالم ﷺ سمیت تمام انبیاء و رسول کے صحابہ سے
ابو بکر صدیقؓ افضل ہیں۔“

حاکم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے کنز العمال میں ج ۱۱ ص ۵۶۰ حدیث ۳۲۶۲۵ پر
روایت کے الفاظ ہیں:

”ابوبکر و عمر خیر الاولین و خیر الاخرين و خير اهل

السموات و خير اهل الارضين الا النبیین والمرسلین“

ترجمہ: ”زمینوں و آسمانوں کے تمام اولین و آخرین میں سوائے

انبیاء و مرسلین کے باقی سب سے ابو بکرؓ و عمرؓ افضل ہیں۔“

ان روایات کو سامنے رکھیں تو مطلب واضح ہے کہ انبیاء کے علاوہ ابو بکرؓ باقی سب سے

افضل ہیں۔ لیکن اب ان تمام روایات کے سامنے آتے ہی قادیانی جعل پارہ پارہ ہو گیا۔

سوال: ۸: لا ہوری اور قادیانی مرزا بیویوں میں کیا فرق

ہے؟ جب لا ہوری مرزا غلام احمد کو نبی ہی نہیں مانتے تو ان کی وجہ تکفیر

کیا ہے؟ دونوں فرقوں کے درمیان اختلافات کا جائزہ پیش کریں؟

جواب: مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں کے دو گروپ ہیں، ایک

لا ہوری دوسرا قادیانی۔ مرزا غلام احمد قادیانی اور نور الدین کے زمانہ تک یہ ایک تھے۔ مارچ

۱۹۱۳ء میں نور الدین کے آنجمانی ہونے پر لا ہوری گروپ کے چیف گرو محمد علی ایم اے اور

اس کے حواریوں کا شیال تھا کہ نور الدین کی جگہ محمد علی کو قادیانی جماعت کی زمام اقتدار سونپ

دی جائے گی۔ مگر مرزا قادیانی کے خاندان کے افراد اور مریدوں نے نو عمر مرزا محمود کو مرزا قادیانی کی نامنہاد خلافت کی گدی پر بٹھا دیا۔ محمد علی لاہوری اپنے حواریوں سمیت اپنا سامنہ لے کر لاہور آگئے۔ تب سے مرزا قادیانی کی جماعت کے دو گروپ بن گئے۔ لاہوری و قادیانی، دنیا جانتی ہے کہ یہ لڑائی صرف اور صرف اقتدار کی لڑائی تھی۔ عقائد کا اختلاف نہ تھا۔ اس لئے کہ لاہوری گروپ مرزا قادیانی اور نور الدین کے زمانہ تک عقائد میں نہ صرف قادیانی گروپ کا ہموا تھا بلکہ اب بھی یہ لاہوری گروپ مرزا قادیانی کو اس کے تمام دعاوی میں سچا سمجھتا ہے۔ امام، مامور من اللہ، مجدد، مہدی، مسیح ظلیٰ و بروزی نبی وغیرہ مرزا کے تمام کفریہ دعاوی کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ مرزا قادیانی کے عقائد کی ترویج اور توسعہ اس کی کتب کی اشاعت کرتے ہیں۔ قادیانیوں نے لاہوریوں کے متعلق یہ پروپیگنڈہ کیا کہ یہ اقتدار نہ ملنے کے باعث عیحدہ ہوئے ہیں۔ تو لاہوریوں نے اپنے دفاع کے لئے اقتدار کی لڑائی کو عقائد کے اختلاف کا چولا پہنادیا۔ لاہوریوں نے کہا کہ ہمیں قادیانیوں سے تین سائل میں اختلاف ہے:

”۱:.....قادیانی گروپ مرزا کے نہ مانے والوں کو کافر کہتے ہیں،

ہم ان کو کافر نہیں کہتے۔

۲:.....قادیانی گروپ مرزا قادیانی کو قرآنی آیت: ”مبشراً

برسول یاتی من بعدی اسمه احمد“ کا مصدق قرار دیتے ہیں، ہم اس آیت کا مرزا کو مصدق نہیں سمجھتے۔

۳:.....قادیانی گروپ مرزا کو حقیقی نبی قرار دیتا ہے، ہم اسے حقیقی

نبی قرار نہیں دیتے۔“

اس پر ان کے درمیان مناظرے ہوئے۔ ”مباحثہ راوی پنڈی“ نامی کتاب میں دونوں کے تحریری مناظروں کی روئیداد شائع شدہ ہے۔ فریقین نے مرزا قادیانی کی کتب کے حوالہ جات دیئے ہیں۔ یہ خود مرزا قادیانی کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے کہ مرزا قادیانی کے دعاوی

ایسے شیطان کی آنت کی طرح الجھے ہوئے ہیں کہ مرزا کے ماننے والے خود فیصلہ نہیں کر پائے کہ مرزا قادری کے کیا دعاوی تھے؟ لیکن یہ اقتدار کی رسہ کشی، اور نفس پرستی ہے۔ جب دو گروپ بن گئے۔ ایک گروپ کا چیف مرزا محمود، دوسرے گروپ کا چیف محمد علی لاہوری قرار پائے تو مرزا محمود نوجوان تھا۔ اقتدار اور پیسہ پاس تھا، اس نے وہ بے اعتدالیاں کیں کہ مرزا قادری کے بعض پکے مرید کافنوں کو ہاتھ لگانے لگے۔ مرزا محمود کی جنسی بے راہ روی اور رنگینیاں اور سُنگینیاں اس داستان نے قادریاں سے لاہور تک کا سفر کیا۔ تو لاہوری گروپ نے تاریخ محمودیت، ربوہ کا پوپ، ربوہ کا نہ جی آمر، کمالات محمود یہ ایسی دسیوں کتابیں لکھ کر مرزا محمود کی بدکرداریوں کوالم نشرح کیا۔ مرزا محمود نے جواب آں غزل کے طور پر لاہوریوں کو وہ بے نقط سنائیں کہ الامان والحفیظ۔ ذیل میں حوالے ملاحظہ ہوں:

”فاروق“ جناب خلیفہ قادریاں کے ایک خاص مرید کا اخبار ہے۔

جناب خلیفہ صاحب کی مرتبہ اس کی خدمات کے پیش نظر اس کی توسعی اشاعت کی تحریک فرمائکے ہیں۔ سوتینہ تحریریں شائع کرنے اور گالیاں دینے کے لحاظ سے اس اخبار کو قادریاں پرلس میں بہت اونچا درجہ حاصل ہے۔ جماعت لاہور اور اس کے اکابر کو گالیاں دینا اس اخبار کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ اس کی ۲۸ فروری ۱۹۳۵ء کی اشاعت میں ہمارے خلاف چند مضمایں شائع ہوئے ہیں ان میں بے شمار گالیاں دی گئی ہیں۔ جن میں سے چند بطور نمونہ درج ذیل کی جاتی ہیں:

(اخبار پیغام صلح لاہور مورخہ ۱۱ مارچ ۱۹۳۵ء)

- (۱) لاہوری اصحاب افسیل، (۲) اہل پیغام کی یہودیانہ قلابازیاں،
- (۳) ظلمت کے فرزند اور زہریلے سانپ، (۴) لاہوری اصحاب الاعداد، (۵) خباثت اور شرارت اور رزالت کا مظاہرہ، (۶) دشمنان سلسلہ کی بھڑکی ہوئی آگ میں یہ پیغامی لاہوری فریق عباد الدینیا و قدیمانہ بن گئے، (۷) نہایت ہی کمینہ سے کمینہ اور رذیل سے رذیل

فطرت والا اور احمق سے احتقان، (۸) اصحاب اخدو دیا می، (۹) دو غلے اور نیئے درودیں نیئے بروں عقاہم، (۱۰) بدگام پیغامیو، (۱۱) حرکات دنیہ اور افعال شنیعہ، (۱۲) حسن کشان اور غدارانہ اور نمک حرامانہ حرکات، (۱۳) دور نے سانپ کی کھوپڑی کچلنے، (۱۴) تم نے اپنے فریب کارانہ پوسٹر میں..... تک ایگخت اور اشتغال کا زور لگالیا، (۱۵) فوراً کپڑے پھاڑ کر بالکل عریانی پر کریا ندھلی، (۱۶) اسی سمجھلی انھی تھی، (۱۷) رذیل اور احمقانہ فعل، (۱۸) کبوتر نما جانور، (۱۹) احمدیہ بلڈنگ (لاہوری جماعت کے مرکز) کے؟ کرم، (۲۰) اے سترے بہترے بڑھے کھوٹ، (۲۱) اے بدگام تہذیب دمتانت کے اجارہ دار پیا میو (فریق لاہور)، (۲۲) برخوردار پیا میو، (۲۳) جیسا منہ ولی چپڑ، (۲۴) کوئی آلو، ترکاری یا لہسن پیاز بیچنے بنے والا نہیں، (۲۵) جھوٹ بول کر اور دھوکے دے کر اور فریب کارانہ بھیگی بی بی بن کر، (۲۶) لہسن پیاز اور گو بھی ترکاری کا بھاؤ معلوم ہو جاتا، (۲۷) آخرت کی لعنت کا سیاہ داغ مانتے پر لگے، (۲۸) اگر شرم ہو تو وہیں..... چلو بھرپانی لے کر ڈبکی لگالو، (۲۹) یہ کسی قد، دجالیت اور خباثت اور کینگی، (۳۰) علی بابا اور چالیس چور بھی اپنی مٹھی بھر جماعت لے کر بلوں میں سے نکل آئے ہیں، (۳۱) بھلا کوئی ان پیامی ایروں غیروں سے اتنا تو پوچھئے، (۳۲) سادہ لوح پیامی نادان دشمن، (۳۳) پیامیو عقل کے ناخن لو، (۳۴) نامعقول ترین اور مجہول ترین تجویز، (۳۵) سادہ لوح اور احمق، (۳۶) اے سادہ لوح یا ابلہ فریب امیر پیغام، (۳۷) پیغام بلڈنگ کے اڑہائی ٹوڑو، (۳۸) احمق اور عقل و شرافت سے عاری اور خالی، (۳۹) اہل پیغام (لاہوری فریق) نے جس عیاری اور مکاری اور فریب کاری سے اپنے دجل بھرے پوسٹروں میں، (۴۰) چالپوئی اور پابوئی کا مظاہرہ، (۴۱) اہل پیغام کے دو

تازہ گندے پوشر -

(منقول از اخبار "قاروق" قادریان پیاپی نمبر مورخ ۲۸ فروری ۱۹۳۵ء)

لاہوری مرزاں بھی قادریانوں کو گالیاں دینے میں کم نہ تھے۔ ملاحظہ ہو:

"مولوی محمد علی صاحب (لاہوری) کا خطبہ جمعہ ۱۹ اکتوبر ۱۹۳۵ء"

ہمارے سامنے ہے۔ یہ خطبہ بھی حسب معمول جماعت احمدیہ اور حضرت امیر المؤمنین ایدہ اللہ تعالیٰ کے خلاف الزامات اور گالیوں سے پر ہے۔

جناب مولوی صاحب کی گالیوں کی شکایت کہاں تک کی جائے ان کا جوش غیظ و غضب ٹھنڈا ہونے میں ہی نہیں آتا۔ ہم ان کی گالیاں سنتے سنتے تھک گئے ہیں مگر وہ گالیاں دیتے دیتے نہیں تھکے۔ ہر خطبہ گزشتہ خطبہ سے زیادہ تلنگ اور طعن آمیز ہوتا ہے، بدگوئی اور بدزبانی اب جناب مولوی صاحب کی عادت ثانیہ بن چکی ہے، کوئی بات طعن و تشنج اور گالی گلوچ کی آمیزش کے سوا کرہی نہیں سکتے۔"

(ضمون مندرجہ اخبار "الفصل" قادریان ج ۲۳، نمبر ۲۳، جس ۲ مورخ ۲۲ نومبر ۱۹۳۵ء)

لیکن گالی گلوچ کی بوچھاڑ تو دونوں جماعتوں کی عادت ہے، کبھی ایک سبقت لے جاتی ہے کبھی دوسرا۔ اس فن کی بنیاد خود مرزا قادریانی صاحب کی کتابوں میں رکھی گئی ہے۔ پس اتباع لازم ہے۔ مرزا محمود نے محمد علی کی گالیوں کی شکایت کی، اب محمد علی کی مرزا محمود کے متعلق شکایت بھی ملاحظہ ہو:

"خود جناب میاں محمود احمد صاحب نے مسجد میں جمعہ کے روز خطبہ کے اندر ہمیں دوزخ کی چلتی پھرتی آگ، دنیا کی بدترین قوم اور سندھ اس پر پڑے ہوئے چھکلے کہا۔ یہ الفاظ اس قدر تکلیف وہ ہیں کہ ان کوں کرہی سندھ اس کی بمحسوں ہونے لگتی ہے۔"

(مولوی محمد علی صاحب قادریانی امیر جماعت لاہور کا خطبہ جمعہ مندرجہ

اخبار "پیغام صلح" لاہور جلد ۲۲ نمبر ۳۲، جس ۷ مورخ ۳ جون ۱۹۳۲ء)

مسلمانوں نے (لاہوری و قادریانی) دونوں کی اس باہمی پیغام صلح کو ایک سکر کے

دورخ قرار دیا۔ ایک گرو کے دو چیلوں کی اخلاق باخکلی کو مرزا قادریانی کی روحانی تربیت کا نتیجہ قرار دیا۔ امیر شریعت مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاریؒ سے کسی نے پوچھا کہ لاہوریوں و قادریانیوں میں کیا فرق ہے؟ آپؒ نے فی الجدیہہ فرمایا: برہر دلعت، خزیر، خزیر ہوتا ہے، چاہے گورے رنگ کا ہو یا کالے رنگ کا۔ کفر کفر ہے، چاہے لاہوری ہو یا قادریانی۔ لاہوریوں کا مرکز لاہور میں ہے۔ قادریانیوں کا مرکز پاکستان بننے کے بعد چنان گنگر (ربوہ) اور اب ان کا مرکز بہشتی مقبرہ سمیت لندن کو سدھار گیا ہے۔ تمام علماء اسلام نے دونوں گروپوں کے کفر کا فتویٰ دیا، قومی اسمبلی اور پریم کورٹ تک سب نے دونوں کو کافر و غیر مسلم گردانا۔

لاہوری گروپ کیوں کافر؟

آنحضرت ﷺ کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ بالاجماع کافر ہے۔ اس کو جو لوگ اپنا امام، مجدد، مامور من اللہ مہدی، مسیح، ظلی نبی، تسلیم کریں وہ بھی کافر ہیں حتیٰ کہ مدعا نبوت کو جو لوگ مسلمان سمجھیں بلکہ جو اسے کافرنہ سمجھیں وہ بھی کافر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے اپنے فتاویٰ میں عدالتون نے اپنے فیصلوں میں اور اسمبلی نے اپنے قانون میں قادریانیوں کی طرح لاہوری گروپ کو بھی کافر قرار دیا ہے۔ مرزا کے کفر یہ دعاویٰ جن کو لاہوری گروپ بھی صحیح تسلیم کرتے ہیں ملاحظہ ہوں:

لاہوری گروپ مرزا قادریانی کو اس کے تمام دعاویٰ میں سچا مانتا ہے، مرزا قادریانی کا دعویٰ ہے کہ:

۱: ”سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادریان میں اپنا رسول

بھیجا۔“ (دفیع البلاص، اخراج ائمہ، ص ۲۳۱، ج ۱۸)

۲: ”ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں۔“

(بدرہ، مارچ ۱۹۰۸ء، مخطوطات ص ۷۴، ج ۱۰)

۳: ”میری دعوت کی مشکلات میں سے ایک رسالت اور

وَجْهِ الْهَنْدِ اُرْتَصَعْ مَوْعِدُهُوْنَے کا دعویٰ تھا۔“

(براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۵۵ جا شیہ خزانہ میں ۲۸ جن ۶۷)

۳: ”نبی کا نام پانے کے لئے میں مخصوص ہی کیا گیا۔“

(حقیقتہ الوجی ص ۳۹۱ رواحی خزانہ میں ۳۰ جن ۶۷)

۴: ”اس امت میں آنحضرت ﷺ کی پیروی کی برکت

سے ہزارہا اولیاً ہوئے ہیں اور ایک وہ (مرزا) بھی ہوا، جو امتی بھی ہے
اور نبی بھی۔“ (حقیقتہ الوجی ص ۲۸ حاشیہ خزانہ میں ۳۰ جن ۶۷)

۵: ”ہمارے نبی ہونے کے وہی نشانات ہیں جو تورات میں

مذکور ہیں، میں کوئی نیا بھی نہیں ہوں۔ پہلے بھی کئی نبی گزرے ہیں جنہیں تم
لوگ پچے مانتے ہو۔“ (اکتم ۱۰ اپریل ۱۹۰۸ء ملفوظات ص ۲۷ جن ۱۰)

ان حالہ جات میں مرزا قادیانی کا صراحت کے ساتھ نبوت کا دعویٰ موجود ہے، اور
بعلیٰ انبیاء (سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آنحضرت ﷺ تک) کی طرح نبی ہونے کے
مدعاً ہیں۔ اب نبی کے لئے معجزہ چاہئے کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ نہ دیا
ہو، مرزا قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے لئے معجزہ چاہئے، چنانچہ وہ اپنے
معجزات کے متعلق خود لکھتا ہے:

۶: ”اگر میں (مرزا) صاحبِ معجزہ نہیں تو جھوٹا ہوں۔“

(تحفۃ الندوۃ ص ۹ رواحی خزانہ میں ۷۹ جن ۶۷)

۷: ”مگر میں تو اس سے بڑھ کر اپنا ثبوت رکھتا ہوں کہ ہزارہا

معجزات اب تک ظاہر ہو چکے ہیں۔“

(تحفۃ الندوۃ ص ۲ رواحی خزانہ میں ۱۰۰ جن ۶۷)

۸: ”اور خدا تعالیٰ میرے لئے اس کثرت سے نشان دکھلارہا

ہے کہ اگر نوح کے زمانہ میں وہ نشان دکھلائے جاتے تو وہ لوگ غرق نہ

ہوتے۔“ (تمہرہ حقیقتہ الوجی ص ۷۷ خزانہ میں ۵۵ جن ۶۷)

ویکھئے نبی کے لئے وہی نبوت بھی ہونی چاہئے مرزا صاحب اس کے متعلق لکھتا ہے:

۱۰: ”اور خدا کا کلام اس قدر مجھ پر ہوا ہے کہ اگر وہ تمام لکھا

جائے تو میں جزو سے کم نہیں ہو گا۔“ (ہدیۃ الرحیم ص ۳۹۱ خزانہ مص ۷۰ ج ۲۲)

ان حالات سے یہ امر پایہ ثبوت کو پہنچ گیا کہ مرزا قادریانی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔

اور یہ امر طے شدہ ہے کہ:

”دعویٰ النبوة بعد نبینا ﷺ کفر بالاجماع۔“

(شرح فقہاً کبیر ملا علی قاری ص ۲۰۷ مصری)

آنحضرت ﷺ کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ بالاجماع کافر ہے۔ مرزا
کے ان کفریہ دعاویٰ کو لاہوری گروپ بھی صحیح مانتے ہیں۔ اس لئے قادریانیوں کی طرح
لاہوری بھی کافر ہیں۔ (مزید تفصیل ”احساب قادریانیت“ ج اول میں مولانا لال حسین
اخترؒ کی ترک مرزا نیت اور ”تحفہ قادریانیت“ ج ۲ میں معرب کہ لاہور و قادریان از حضرت
لدھیانوی شہید ملا حظہ کریں)۔

سوال: ۹: عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لئے دور

صدیقؒ سے دور حاضر تک جو خدمات سرانجام دی گئیں ہیں ان کا
تذکرہ مختصر مگر جامع انداز میں تحریر کریں؟

جواب: آپؐ کی ختم نبوت میں امت مسلمہ کی وحدت کا راز مضمون ہے۔ اس

لئے اس مسئلہ میں چودہ سو سال سے کبھی بھی امت دورائے کاشکار نہیں ہوئی، بلکہ جس وقت
کسی شخص نے اس مسئلہ کے خلاف رائے دی امت نے اسے سلطان کی طرح اپنے جسم
سے عیینہ کر دیا۔ ختم نبوت کا تحفظ یا با الفاظ دیگر منکر یعنی ختم نبوت کا استیصال دین کا ہی ایک
 حصہ ہے۔ دین کی نعمت کا اتمام آنحضرت ﷺ کی ذات اقدس پر ہوا۔ اس لئے دین کے
 اس شعبہ کو بھی اللہ رب العزت نے خود آنحضرت ﷺ سے وابستہ فرمادیا اور سب سے پہلے
 خود آنحضرت ﷺ نے اپنے زمانہ میں پیدا ہونے والے جھوٹے مدعیان نبوت کا استیصال

کر کے امت مسلمہ کو اپنے عمل مبارک سے کام کرنے کا عملی نمونہ پیش فرمادیا۔

تحفظ ختم نبوت آنحضرت ﷺ کی سنت مبارکہ:

چنانچہ اسود عنسی کے استیصال کے لئے رحمت عالم ﷺ نے حضرت فیروز دلیمیؒ کو اور طبیحہ اسدی کے مقابلہ میں جہاد کی غرض سے حضرت ضرار بن ازو رگروانہ فرمایا۔ یہ امت کے لئے خود آنحضرت ﷺ کا عملی سبق ہے، امت کے لئے خیر و برکت اور فلاح دارین اس سے وابستہ ہے کہ ختم نبوت کے عقیدہ کا جان جو کھوں میں ڈال کر تحفظ کرے اور منکرین ختم نبوت کو ان کے انعام تک پہنچائے۔ امت نے آنحضرت ﷺ کے اس مبارک عمل کو اپنے لئے ایسے طور پر مشغول رہا ہے کہ خیر القرون کے زمانہ سے لے کر اس وقت تک ایک لمحہ کے لئے بھی امت اس سے غافل نہیں ہوئی۔ طبیحہ اسدی نے اپنے ایک قاصدِ عم زاد "حیال" کو حضور ﷺ کے پاس بھیج کر اپنی نبوت منوانے کی دعوت دی۔ طبیحہ اسدی کے قاصد کی بات سن کر رحمت عالم ﷺ کو بہت فکر دامن گیر ہوئی چنانچہ آپ ﷺ نے تحفظ ختم نبوت کی پہلی جنگ کے پہلے سال اس کے لئے اپنے صحابی حضرت ضرار بن ازو رکا انتخاب فرمایا اور ان قبائل و عمال کے پاس جہاد کی تحریک کے لئے روانہ فرمایا جو طبیحہ کے قریب میں واقع تھے، حضرت ضرارؓ نے علی بن اسد سان بن ابو سنان اور قبیلہ قضا اور قبیلہ بنورتا وغیرہ کے پاس پہنچ کر ان کو آنحضرت ﷺ کا پیغام سنایا اور طبیحہ اسدی کے خلاف فوج کشی اور جہاد کی ترغیب دی۔ انہوں نے لبیک کہا اور حضرت ضرارؓ کی قیادت میں ایک لشکر تیار ہو کر واردات کے مقام پر پڑا اور کیا دشمن کو پتہ چلا، انہوں نے حملہ کیا جنگ شروع ہوئی، لشکر اسلام اور فوج محمدی نے ان کو ناکوں پھنسے چبوا دیئے مظفر و منصور والپیں ہوئے۔ ابھی حضرت ضرارؓ مدینہ منورہ کے راستے میں تھے کہ آنحضرت ﷺ کا وصال مبارک ہو گیا۔ (تخصیص ابر تسلیم م ۷، اج ۱)

عہدِ صدقیہ میں تحفظ ختم نبوت کی پہلی جنگ:

حضرت سیدنا صدیق اکبرؓ کے عہدِ خلافت میں ختم نبوت کے تحفظ کی پہلی جنگ

یمامہ کے میدان میں مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی۔ اس جنگ میں سب سے پہلے حضرت عکرمہ پھر حضرت شرحبیل بن حسنة اور آخر میں حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کے شکر کی کمان فرمائی۔ اس پہلے معرکہ ختم نبوت میں ۱۲ سو صحابہ کرام شہید ہوئے۔ جن میں سات سو قرآن مجید کے حافظ و قاری تھے اور بہت سے صحابہ بدر بنین تھے۔ سیدنا صدیق اکبر نے حضرت خالد بن ولید کو لکھا کہ مسیلمہ کذاب کی پارٹی کے تمام بالغ افراد کو بجمرا رد اوقل کر دیا جائے۔ عورتیں اور کم سن لڑ کے قیدی بنائے جائیں اور ایک روایت (المبدایة والنہایۃ حج ۳۱۰ اور طبری تاریخ الامم والملوک کی جلد ۲ ص ۲۸۲) کے مطابق مرتدین کے احراق کا بھی حضرت صدیق اکبر نے حکم فرمایا لیکن آپؐ کا فرمان پہنچنے سے قبل حضرت خالد بن ولید معاہدہ کر چکے تھے، معاہدہ اس طرح ہوا کہ حضرت خالد بن ولید نے مسیلمہ کے ایک ساتھی مجاہد کو گرفتار کر لیا تھا۔ جنگ کے اختتام پر اسے قید سے رہا کر کے فرمایا کہ اپنی قوم کو قلعہ کھولنے پر تیار کرو۔ مجاہد نے جا کر عورتوں اور بچوں کو پگڑیاں بندھو کر مسلح کر کے قاعد کی فصیل پر کھڑا کر دیا اور حضرت خالدؓ کو یہ تاثر دیا کہ بہت سا شکر قلعہ میں جنگ کے لئے موجود ہے۔ حضرت خالدؓ اور مسلمان فوج ہتھیار اتار چکے تھے۔ نئی جنگ کے بجائے انہوں نے چوتھائی مال و اسباب پر مسیلمہ کی فوج سے صلح کر لی۔ جب قلعہ کھول دیا گیا تو وہاں عورتوں اور بچوں کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ حضرت خالدؓ نے مجاہد سے کہا کہ تم نے دھوکہ دیا۔ اس نے کہا کہ اپنی قوم کو بچانے کی خاطر ایسا کیا۔ باوجود یہ کہ معاہدہ دھوکہ سے ہوا لیکن حضرت خالدؓ نے اس معاہدہ کو برقرار رکھا۔ مسیلمہ کذاب کو حضرت حشمتؓ نے قتل کیا تھا اور بدایہ کی روایت کے مطابق طیحہ کے بعض ماننے والوں کی خاطر بزانہ میں قیام کے دوران ایک ماہ تک ان کی تلاش میں پھرتے رہے تاکہ آپؐ ان سے مسلمانوں کے قتل کا پدھر لیں، جن کو انہوں نے اپنے ارتداد کے زمانہ میں اپنے درمیان رہتے ہوئے قتل کر دیا تھا، ان میں سے بعض (طیحہ مرتدین) کو حضرت خالدؓ نے آگ میں جلا دیا اور بعض کو پھرلوں سے کھل دیا، اور بعض کو پہاڑوں کی چوٹیوں سے نیچے گردایا، یہ سب کچھ آپؐ نے اس لئے کیا تاکہ مرتدین عرب

کے حالات سننے والا ان سے عبرت حاصل کریں۔ (البداية ج ۲ ص ۱۱۶۶ اردو ترجمہ مطبوعہ نقش
اکیڈمی، کراچی)

اسلام کی چودہ سو سال کی تاریخ گواہ ہے کہ باقی تمام فتویں سے مباحثہ، مجادلہ،
مناظرہ و مبالغہ وغیرہ ہوئے۔ لیکن جھوٹے نبیوں سے تو گفتگو کی بھی شریعت نے اجازت
نہیں دی اور فضول عادی میں کلمات کفر شمار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

”وَكَذَلِكُو قَالَ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ أَوْ قَالَ بِالْفَارَسِيَةِ مِنْ

پیغامبرم یریدبہ پیغام می برم یکفر ولو انه حین قال هذه
المقالة طلب غيره منه المعجزة قبل يکفر الطالب
والمتأخرون من المشائخ قالوا ان كان غرض الطالب تعجيزه
(فضول: ۱۳۰۰) وافتضاحه لا يکفر۔“

ترجمہ: ”اور ایسے ہی اگر کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں یا فارسی زبان میں کہے من پیغامبرم اور مراد یہ ہو کہ میں پیغام لے جاتا ہوں تو کافر ہو جائے گا اور جب اس نے یہ بات کہی اور کسی شخص نے اس سے مججزہ طلب کیا تو بعض کے نزدیک یہ طالب مججزہ بھی کافر ہو جائے گا، لیکن متاخرین نے فرمایا ہے کہ اگر طالب مججزہ کی نیت طلب مججزہ سے محض اس کی روائی اور اظہار عجز ہو تو کافرنہ ہو گا۔“

اور خلاصۃ الفتاویٰ جلد ۲ صفحہ ۳۸۶ کتاب الفاظ الکفر فصل ثانی میں امام عبدالرشید

بخاری فرماتے ہیں کہ:

”وَلَوْادْعَى رَجُلُ النَّبُوَةِ وَ طَلَبَ رَجُلُ الْمَعْجِزَةِ قَالَ

بعضُهُمْ يَكْفُرُ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ كَانَ غَرْضُهُ اظْهَارُ عَجزِهِ
وَافتضاحه لا يکفر۔“

ترجمہ: ”او راگر کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور دوسرے نے
اس سے مججزہ طلب کیا تو بعض فقہاء کے نزدیک یہ طالب مججزہ بھی

مطلقتاً کافر ہو جائے گا اور بعض نے تفصیل فرمائی ہے کہ اگر اس نے اپنے ہمار عجز و رسوائی کے لئے مجرمہ طلب کیا تھا تو یہ کافرنہ ہو گا۔“

چنانچہ امت کی چودہ سو سال کی تاریخ گواہ ہے کہ جب کبھی کسی اسلامی حکومت میں کسی شخص نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو امت نے اس سے دلائل و مجرمات مانگنے کی بجائے اس کے وجود سے ہی اللہ تعالیٰ کی دھرتی کو پاک کر دیا۔ ہمارے برصغیر پاک و ہند میں انگریز نے مرزا غلام احمد قادریانی کی بطور ”خود کاشتہ پودا“ آبیاری کی۔ مسلمان قوم مظلوم، مخلوم، غلام تھی، لاچار امت کو قادریانی گروہ سے مناظرہ کی راہ اختیار کرنی پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے دلائل و برائین، مقدمات و مناظروں، منبر و محراب، عدالتوں و انسانی، مکتبہ المکرہ و افریقہ تک جہاں بھی کسی فورم پر قادریانی کیس گیا امت مسلمہ کو کامیابی نصیب ہوئی۔ یہ راستہ مجبوراً اختیار کرنا پڑا، ورنہ شرعاً جھوٹے مدعی نبوت اور پیروکاروں کا وہی علاج ہے جو صدقیق اکابر نے اپنے عہد زرین میں مسلیمہ کذاب کا یمامہ کے میدان میں کیا تھا، اور یقین فرمائیے کہ جب کبھی اس خطہ میں اسلام کی حکومت قائم ہوگی، سنت صدقیق دھرائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو توفیق نصیب فرمائے۔

نوٹ:..... آج تک جو جھوٹے دعیان نبوت ہوئے ان کی تفصیل ”ائمه تلمیس“ (دو جلد) میں مولانا محمد رفیق دلاوری نے قلمبند کی ہے۔ اس کی تلفیض ۲۲ جھوٹے نبی کے نام سے شمار احمد خان فتحی نے کی ہے، ان کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔

سوال: ۱۰:..... مرزا قادریانی کے دعویٰ نبوت کے بعد اکابر علماء دیوبند فی جو گرفتار خدمات اس مجاز کے مختلف میدانوں میں سرانجام دی ہیں۔ ان کا مختصر تذکرہ کریں؟

جواب:..... برصغیر میں جب انگریز نے اپنے استبدادی پنج مضبوطی سے گاڑ لئے تو اس نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لئے ”لڑاؤ اور حکومت کرو“ کی پالیسی اختیار کی

دیگر ضمیر و دین فروشوں اور فتویٰ بازوں کے علاوہ اسے ایک ایسے مدی نبوت کی سروارت پیش۔ آئی جو اس کے ظالمانہ و کافرانہ نظام حکومت کو ”سنداہاام“ مہیا کر سکے، اس کے لئے اس نے ہندوستان بھر کے ضمیر فروش طبقات سے اپنے مطلب کا آدمی تلاش کرنے کے لئے سروے شروع کیا۔ اللہ رب العزت کی قدرت کے قربان جائیے کہ قادریانی فتنہ کے جنم لینے سے قبل دارالعلوم دیوبند کے مورث اعلیٰ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجرؒ پر بطور کشف کے اللہ تعالیٰ نے مکشف فرمادیا تھا کہ ہندوستان میں ایک فتنہ برپا ہونے والا ہے، چنانچہ مکہ مکرمہ میں ایک دن ان کے ہاں مولانا پیر مہر علی شاہ گواڑوؒ تشریف لے گئے تو آپ نے حضرت پیر صاحبؒ سے فرمایا:

”در ہندوستان عنقریب یک فتنہ ظہور کند، شما ضرور در ملک خود
واپس بروید و اگر بالفرض شادر ہند خاموش نشستے باشیدتا ہم آں فتنہ
ترقی نہ کند و در ملک آرام ظاہر شو ڈپس مادر یقین خویش و قوع کشف
حاجی صاحب رابعۃ مرزا قادریانی تعبیری کنم۔“

ترجمہ: ”ہندوستان میں عنقریب ایک فتنہ نمودار ہو گا تم ضرور اپنے وطن میں واپس چلے جاؤ اگر بالفرض تم ہندوستان میں خاموش بھی بیٹھے رہے تو وہ فتنہ ترقی نہ کرے گا اور ملک میں سکون ہو گا میرے (پیر صاحبؒ) نزدیک حاجی صاحبؒ کی فتنہ سے مراد فتنہ قادریانیت تھی۔“

(ملفوظات طیبہ ص ۱۲۶، تاریخ مشائخ چشت ص ۱۱۳، ۱۷)

(۱۷، میں بڑے مسلمان ص ۹۸، مہر نیرس ص ۱۲۹)

اس سے اتنی بات پایہ ثبوت کو پہنچی ہے کہ مرزا قادریانی کے فتنہ انکار ختم نبوت سے قبل ہی حق تعالیٰ نے اپنے مقبول بندوں کو فتنہ قادریانیت کے خلاف کام کرنے کے لئے متوجہ فرمادیا۔ اس پر حق تعالیٰ شانہ کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے کم ہے کہ سب سے پہلے فتنہ قادریانیت

کی ترویدی و تکفیری مہم کے لئے حق تعالیٰ نے جس جماعت کا انتخاب کیا وہ علمائے دیوبندی کی جماعت تھی۔ مرزا غلام احمد قادریانی نے انگریز کے منصوبہ کے مطابق مبلغ، مناظر، مجدو، مہدو، مسح، ظلی و بروزی، تشریحی نبی اور پھر معاذ اللہ خدا ہونے کے دعوے کئے۔ اس کی سب سے پہلی کتاب جس وقت منظر عام برآئی اور مرزا بھی تعارف اور جماعت سازی کے ابتدائی مرحلے مکمل کرنے کے درپے تھا اس وقت سب سے پہلے جس مردِ خدا، عارف باللہ نے پڑھنے پڑھانے سے نہیں بلکہ حق تعالیٰ کی طرف سے باطن کی صفائی کی بنیاد پر مرزا کے کافروں مدد و دار اسلام سے برگشتہ ہونے کا نصرہ متناہی بلند کیا وہ خانوادہ دیوبند کے سرخیل حضرت میاں شاہ عبدالرحیم سہارپوریؒ تھے۔ میاں شاہ عبدالرحیم سہارپوریؒ کے پاس مرزا کی کتاب پر تبصرہ کرنے کے لئے قادیانی وفد حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے پوچھتے ہو تو سن لو یہ شخص تھوڑے دنوں میں ایسے دعوے کرے گا جو نہ رکھے جائیں گے، نہ اٹھائے جائیں گے۔ قادیانی وفد یہ سن کر جزب ہونے لگا کہ دیکھو علماء تو علماء، درویش کو بھی دوسرے لوگوں کا شہرت پانا گراں گزرتا ہے۔ میاں صاحبؒ نے فرمایا مجھ سے پوچھا ہے تو جو کبھی میں آیا بتا دیا، ہم تو اس وقت زندہ نہ ہوں گے، تم آگے دیکھ لینا۔

(ما خواز ارشادات قطب الارشاد حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری ص ۱۲۸)

قادیانیوں کے خلاف پہلا فتویٰ:

مرزا غلام احمد قادریانی نے اب پہنچنے نکالے۔ جماعت سازی کے لئے ۱۳۰۴ھ مطابق ۱۸۸۲ء میں لدھیانہ آیا تو مولانا محمد لدھیانویؒ، مولانا عبداللہ لدھیانویؒ اور مولانا محمد اسماعیل لدھیانویؒ نے فتویٰ دیا کہ مرزا غلام احمد قادریانی مجدد نہیں بلکہ زندیق اور ملعون ہے۔ (فتاویٰ قادریہ ص ۲)

اللہ رب العزت کا کرم تو دیکھئے! سب سے پہلے دیوبند مکتبہ فکر کے علمائے کرام کی جماعت کو مرزا غلام احمد قادریانی پر کفر کا فتویٰ دینے کی توفیق ہوئی۔ یہ مولانا محمد لدھیانویؒ معروف احرار رہنماء مولانا حبیب الرحمن لدھیانویؒ کے دادا تھے۔ ان حضرات کا فتویٰ مرزا

قادیانی کے کفر کوالم نشرح کرنے کے لئے کھڑے پانی میں پھر پھینکنے کے متراوف ہوا۔ اس کی لمبیں انھیں، حالات نے انگڑائی لی پھر:

لوگ ملتے گئے اور کارروائی بنتا گیا

یہاں زمانہ کی بات ہے جب مولانا محمد حسین بیالوی وغیرہ مرزا قادیانی کی کتب پر ثبت رائے کا اظہار کر رہے تھے۔ ۱۸۹۰ء میں انہوں نے بھی مرزا قادیانی کے خلاف فتویٰ دیا۔ مرزا قادیانی نے انگریز کے ایماپر رسائل و کتب شائع کیں۔ ہندوستان کے علمائے کرام حسب ضرورت اس کی تردید میں کوشش رہے۔ قارئین کو یہ جان کر خوشی ہو گئی کہ باضابطہ فتویٰ مرتب کر کے متعدد ہندوستان کے تمام سرکردہ جدید علمائے کرام سے فتویٰ لینے کی سعادت بھی اللہ تعالیٰ نے دیوبند کو نصیب فرمائی۔ دارالعلوم دیوبند کے مدرس مولانا محمد سہول نے ۱۳۳۱ھ کو فتویٰ مرتب کیا کہ:

۱:.....مرزا غلام احمد قادیانی مرتد، زندiq، ملحد اور کافر ہے۔

۲:.....یہ کہ اس کے ماننے والوں سے اسلامی معاملہ کرنا شرعاً ہرگز درست نہیں۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ مرزا یوں کو سلام نہ کریں، ان سے رشتہ ناتھ نہ کریں، ان کا ذبیحہ کھائیں، جس طرح یہود، ہنود، نصاریٰ سے اہل اسلام نہ بھا علیحدہ رہتے ہیں اسی طرح مرزا یوں سے بھی علیحدہ رہیں۔ جس طرح بول و برآز، سانپ اور پچھو سے پرہیز کیا جاتا ہے اس سے زیادہ مرزا یوں سے پرہیز کرنا شرعاً ضروری اور لازمی ہے۔

۳:.....مرزا یوں کے پیچھے نماز پڑھنا ایسے ہے جیسے یہود و نصاریٰ اور ہندو کے پیچھے نماز پڑھنا۔

۴:.....مرزا آئی مسلمانوں کی مساجد میں نہیں آسکتے۔ مرزا یوں کو مسلمانوں کی مساجد میں عبادت کی اجازت دینا ایسے ہے۔ جیسے ہندوؤں کو مسجد میں پوجا پاٹ کی اجازت دینا۔

۵:.....مرزا غلام احمد قادیانی، قادیان (مشرقی پنجاب، ہندوستان) کا رہائشی تھا،

اس لئے اس کے پیروکاروں کو ”قادیانی“ یا ”فرقہ علامیہ“ بلکہ جماعت شیطانیہ الیسیہ کہا جائے۔

اس فتویٰ پر دستخط کرنے والوں میں شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی، حضرت مولانا مفتی محمد حسن، حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری، حضرت مولانا سید مرتضیٰ حسن چاند پوری، مولانا عبدالسمیع، حضرت مفتی عزیز الرحمن دیوبندی، حضرت مولانا محمد ابراہیم بلياوی، حضرت مولانا اعزاز علی دیوبندی، حضرت مولانا جبیب الرحمن ایسے دیگر اکابر علمائے کرام کے دستخط تھے جن کا تعلق دیوبند، سہارنپور، دہلی، کلکتہ، دھاکہ، پشاور، رامپور، راولپنڈی، ہزارہ، مراد آباد، وزیر آباد، ملتان اور میانوالی وغیرہ سے تھا۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا واقعیٰ اور جاندار فتویٰ تھا۔ آج سوال کے بعد جب کہ قادیانیت کا کفر عیال و عریاں ہے باس ہے اس فتویٰ میں ذرہ برابر زیادتی کرنا ممکن نہیں۔ ان اکابر نے سوچ سمجھ کر اتنا جاندار فتویٰ مرتب کیا، اس میں تمام جزئیات کو شامل کر کے اتنا جامع بنادیا کہ ایک صدی گزرنے کے باوجود اس کی آب و تاب و جامعیت جوں کی توں باقی ہے۔

اس کے بعد ۱۳۳۲ھ میں دارالعلوم دیوبند سے ایک فتویٰ جاری ہوا جس میں قادیانیوں سے رشتہ ناتھ کو حرام قرار دیا گیا تھا۔ یہ فتویٰ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب کا مرتب کردہ ہے، اس پر دیوبند سے حضرت مولانا سید اصغر حسین، حضرت مولانا رسول خان، حضرت مولانا محمد اور لیں کاندھلوی، حضرت مولانا گل محمد خان، سہارنپور سے مظاہر العلوم کے مہتمم حضرت مولانا عنایت الہی، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری، حضرت مولانا عبدالرحمن کامل پوری، حضرت مولانا عبداللطیف، حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی، تھانہ بھون سے حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی، رائے پور سے حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم رائے پوری، حضرت مولانا شاہ عبدال قادر رائے پوری، دہلی سے حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلی، غرض کلکتہ، بیڑاں، لکھنؤ، آگرہ، مراد آباد، لاہور، امرتسر، لدھیانہ، پشاور، راولپنڈی، ملتان، ہوشیار پور، گورا سیپور، جہلم، سیالکوٹ، گوجرانوالہ، حیدر آباد دکن، بھوپال، رام پور، وغیرہ سے سینکڑوں علمائے کرام کے دستخط ہیں۔ اس فتویٰ کا نام ”فتوى“

مُعْتَنِير قادیانیٰ" ہے۔ یہ کتب خانہ اعزاز یہ دیوبند سے شائع ہوا۔

قادیانیوں کے خلاف مقدمات:

حضرات علمائے دیوبند کی مسائی جیلیکے صدقے پوری امت کے تمام مکاتب فکر قادیانیوں کے خلاف صفائح آ را ہو گئے تو پورے متحده ہندوستان میں قادیانیوں کا کفر امت محمدیہ پر آشکارا ہوا۔ یوں تو ہندوستان کی مختلف عدالتوں نے قادیانیوں کے خلاف فیصلے دیے۔ ماریش تک کی عدالتوں کے فیصلہ جات قادیانیوں کے خلاف موجود ہیں لیکن سب سے زیادہ جس مقدمہ نے شہرت حاصل کی اور جو ہر عام و خاص کی توجہ کا مرکز بن گیا وہ "مقدمہ بہاولپور" ہے۔ علمائے بہاولپور کی دعوت پر حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشیری، حضرت مولانا ابوالوفا شاہ جہانپوری، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع، حضرت مولانا سید مرتضی حسن چاند پوری ایسے اکابر علمائے دیوبند نے بہاولپور ایسے دور افتادہ شہر آ کر کیس کی وکالت کی۔ اس مقدمہ کی ۱۹۲۶ء سے ۱۹۳۵ء تک کارروائی چلتی رہی۔ اس مقدمہ میں بھج نے قادیانیت کے کفر پر عدالتی مہر لگا کر قادیانیت کے وجود میں ایسی کیلیٹ ہونگی جس سے قادیانیت بلباٹھی۔ سپریم کورٹ کے تمام فیصلوں کی بنیاد یہی فیصلہ ہے جس کی کامیابی میں فرزندانِ دیوبند سب سے نمایاں ہیں۔ فالحمد لله اولاً و آخرًا۔

قادیانیت کا جماعتی سطح پر احتساب:

فرد کا مقابلہ فرد اور جماعت کا مقابلہ جماعت ہی کر سکتی ہے۔ چنانچہ مارچ ۱۹۳۰ء کو لاہور میں انجمن خدام الدین کے سالانہ اجتماع میں جو حضرت شیخ المُفْرید مولانا احمد علی لاہوری کی دعوت پر منعقد ہوا اتحامک بھر سے پانچ سو علمائے کرام کے اجتماع میں امام العصر حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشیری نے حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاریؒ کو "اسیر شریعت" کا خطاب دیا اور قادیانیت کے محاذ کی ان پر ذمہ داری ڈالی۔ اس وقت قادیانیت

کے خلاف افراد اور اداروں کی محنت میں دارالعلوم دیوبند کا کردار قابل رشک تھا۔ ندوۃ العلماء لکھنؤ کے بانی حضرت مولانا سید محمد علی مونگیری تو گویا تکوینی طور پر مجاز ختم نبوت کے انچارج تھے۔ قادیانیوں کے خلاف ان کا اور مولانا مرتضیٰ حسن چاند پوری کا وجود ہندوستان کی دھرتی پر درہ عمر کی حیثیت رکھتا تھا۔ اب جماعتی سطح پر قادیانیوں کے احتساب کے لئے حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاریؒ کی ڈیوٹی لگی۔ آپ نے مجلس احرار اسلام ہند میں مستقل شعبہ تبلیغ قائم کر دیا۔ جمعیت علمائے ہند اور دارالعلوم دیوبند کی پوری قیادت کا ان پر اس سلسلہ میں بھرپور اعتماد تھا۔ حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانویؒ ایسے مقبولان بارگاہِ الہی نے سرفراز فرمایا۔

قادیان کا نفرنس:

اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مجلس احرار اسلام ہند نے ۲۰، ۲۱، ۲۲ اکتوبر ۱۹۳۲ء کو قادیان میں کا نفرنس کا انعقاد کیا۔ اس میں ان اکابرین ملت نے قادیانیت کا مقابلہ کیا۔ فاتح قادیان حضرت مولانا محمد حیاتؒ، حضرت مولانا عنایت علی چشمی، ماسٹر تاج الدین انصاریؒ، حضرت مولانا رحمت اللہ مہاجر گلیؒ وغیرہ ان سب حضرات نے قادیان میں رہ کر قادیانیت کو ناکوں پختے چھوائے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم کے فیصلوں کو دیکھنے کہ یہ سب حضرات خانوادہ دیوبند سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کا نفرنس میں علمائے کرام نے ملک کے چھپے میں قادیانی عقائد و عزائم کی قلمی کھولنے کی ایک لہر پیدا کر دی۔

قادیان سے ربوہ تک:

مختصر یہ کہ ان اکابر کی قیادت میں امیر شریعت مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاریؒ اور ”مجلس احرار اسلام“ کے سفر و شوون نے اپنی شعلہ بارخطابت کے ذریعے انگریز اور انگریزی کی ساختہ پر داختہ قادیانی نبوت کے خرمن خبیث کو پھونک ڈالا۔ تا آنکہ ۱۹۳۷ء میں انگریزی اقتدار رخت سفر باندھ کر رخصت ہوا تو بر صیر کی تقسیم ہوئی اور پاکستان منصہ شہود پر جلوہ گر ہوا۔ اس تقسیم کے نتیجہ میں قادیانی نبوت کا منی خشک ہو گیا اور قادیان کی منحوس بستی دارالکفر اور

دارالحرب ہندوستان کے حصہ میں آئی۔ قادیانی خلیفہ اپنی "ارض حرم" اور "مکہ الحج" (قادیان) سے برقعہ پہن کر فرار ہوا اور پاکستان میں ربوہ کے نام سے نیاوار الکفر تعمیر کرنے کے بعد شاہوار نبوت کی ترکیات یاں دکھانے اور پورے ملک کو مرتد کرنے کا اعلان کرنے لگا۔

قیام پاکستان کے بعد:

قادیانیوں کو یہ غلط فہمی تھی کہ پاکستان کے ارباب اقتدار پران کا تسلط ہے۔ ملک کے کلیدی مناصب ان کے قبضے میں ہیں پاکستان کا وزیر خارجہ ظفر اللہ خان خلیفہ قادیان (حال ربوہ) کا ادنیٰ مرید ہے، اس لئے پاکستان میں مرتضیٰ اعلام احمد قادیانی کی نبوت کا جعلی سکر رائج کرنے میں انہیں کوئی وقت پیش نہیں آئے گی۔ ان کی امید افزائی کا خاص پہلو یہ بھی تھا کہ "احرار اسلام" کا قافلہ تقسیم ملک کی وجہ سے بکھر چکا تھا۔ تنظیم اور تنظیمی وسائل کا فقدان تھا اور پھر "احرار اسلام" ناخدایان پاکستان کے دربار میں معتوب تھے۔ اس لئے قادیانیوں کو غرہ تھا کہ اب حرمین نبوت کی پاسبانی کے فرائض انجام دینے کی کسی کو ہمت نہیں ہوگی، لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ حفاظت دین اور "تحفظ ختم نبوت" کا کام انسان نہیں کرتے خدا کرتا ہے اور وہ اس کام کے لئے خود ہی رجال کا ربھی پیدا فرمادیتا ہے۔

مجلس تحفظ ختم نبوت:

امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری[ؒ] اور ان کے رفقاء قادیانیوں کے عزائم سے بے خبر نہیں تھے۔ چنانچہ جدید حالات میں قادیانیت کے خلاف کام کرنے کا لائچہ عمل مرتب کرنے کے لئے ملتان کی ایک چھوٹی سی مسجد "مسجد سراجاں" (۱۹۲۹ء) میں ایک مجلس مشاورت ہوئی۔ جس میں امیر شریعت[ؒ] کے علاوہ مجاہد ملت حضرت مولانا محمد علی جاندھری[ؒ] خطیب پاکستان مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی[ؒ] مولانا عبد الرحمن میانوی[ؒ] مولانا تاج محمود لانپوری[ؒ] اور مولانا محمد شریف جاندھری[ؒ] شریک ہوئے۔ غور و فکر کے بعد ایک غیر سیاسی تبلیغی تنظیم "مجلس تحفظ ختم نبوت"[ؒ] کی بنیاد رکھی گئی اور اس کا ابتدائی میزبانیہ ایک روپیہ یومیہ تجویز کیا گیا۔ چنانچہ صدر امبلغین کی حیثیت سے فاتح قادیان حضرت مولانا محمد حیات

صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو قادیان میں شعبہ تبلیغ احرار اسلام کے صدر تھے، ملتان طلب کیا گیا۔ ان دنوں مسجد سراجاں ملتان کا چھوٹا سا جمیرہ مجلس تحفظ ختم نبوت کا مرکزی دفتر تھا، وہی دارالاکامہ تھا، وہی مشاورت گاہ تھی اور یہی چھوٹی سی مسجد اس عالمی تحریک "مجلس تحفظ ختم نبوت" کا ابتدائی کنٹرول آفس تھا۔ شہید اسلام حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بقول: "وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَانِ يَشَاءُ يِبَارِكُ عَلَى اوصالِ شَلُوْمَرْعَ"۔ حق تعالیٰ شانہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس خیف و ضعیف تحریک میں ایسی برکت ڈالی کہ آج اس کی شاخیں اقطار عالم میں پھیل چکی ہیں اور اس کا مجموعی میزانیہ لاکھوں سے متجاوز ہے۔

قیادت باسعادت:

"مجلس تحفظ ختم نبوت" کو یہ سعادت ہمیشہ حاصل رہی ہے کہ اکابر اولیاء اللہ کی قیادت و سرپرستی اور دعائیں اسے حاصل رہی ہیں۔ حضرت القدس رائے پوری آخري دم تک اس تحریک کے قائد و سرپرست رہے۔ ان کے وصال کے بعد حضرت مولانا خیر محمد جalandhri حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری حضرت مولانا عبد اللہ درخواستی اور حضرت مولانا خان محمد صاحب مدظلہ خانقاہ سراجیہ کندیاں، اس کے سرپرست ہیں "مجلس تحفظ ختم نبوت" کے بانی اور امیر اول امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری تھے۔ امیر شریعت کی وفات ۱۹۶۱ء میں ہوئی اور خطیب پاکستان مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی ان کے جانشین مقرر ہوئے، ان کے وصال کے بعد حضرت مجاهد ملت مولانا محمد علی جalandhri کو امارت سپرد کی گئی۔ ان کے وصال کے بعد مناظر اسلام مولانا لال حسین اختر امیر مجلس ہوئے۔ مولانا لال حسین اختر کے بعد عارضی طور پر فتح قادیان حضرت مولانا محمد حیات صاحب کو مند امارت تفویض ہوئی مگر اپنے ضعف و عوارض کی بنا پر انہوں نے اس گران باری سے مغدرت کا اظہار فرمایا۔ یہ ایک ایسا بحران تھا کہ جس سے اس عظیم الشان تحریک کی

پیش قدی رک جانے کا اندیشہ لاحق ہو گیا تھا۔ لیکن حق تعالیٰ شانہ کا دعہ حفاظت دین یکا کیک ایسی ہستی کو اس منصب عالیٰ کے لئے کھینچ لایا جو اپنے اسلاف کے علوم و روایات کی امین تھی اور جس پر ملت اسلامیہ کو بجا طور پر فخر حاصل تھا۔ میری مراد شیخ الاسلام حضرت العلامہ مولانا سید محمد یوسف بنوریؒ سے ہے۔

تحفظ ختم نبوت اور رد قادیانیت، امام العصر حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیریؒ کی وراشت و امانت تھی اور اس کا اہل علوم انوری کے وارث حضرت شیخ بنوری سے بہتر اور کون ہو سکتا تھا؟ چنانچہ حضرت امیر شریعت قدس سرہ کی امارت خطیب پاکستان مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادیؒ کی خطابت، مجاہد ملت مولانا محمد علی جالندھری نور اللہ مرقدہ کی ذہانت، مناظر اسلام مولانا لال حسین اخترؒ کی رفاقت، حضرت شیخ الاسلام مولانا سید محمد یوسف بنوریؒ کی بلندی عزم نے نہ صرف مجلس تحفظ ختم نبوت کی عزت و شہرت کو چار چاند لگادیئے بلکہ ان حضرات کی قیادت نے تصریح قادیانی پر اتنی ضرب کاری لگائی کہ قادیانی تحریک کے بانی مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت پر کذب و افتراء کی آئینہ مہر لگ گئی۔

غیر سیاسی جماعت:

”مجلس تحفظ ختم نبوت“ کا مقصد تاسیس، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت اور امت مسلمہ کو قادیانی الحاد سے بچانا تھا۔ اس کے لئے ضرورت تھی کہ جماعت خارجہ اسیاست میں الجھ کرنہ رہ جائے، چنانچہ جماعت کے دستور میں تصریح کردی گئی کہ جماعت کے ذمہ دار ارکان سیاسی معروکوں میں حصہ نہیں لیں گے، کیونکہ سیاسی میدان میں کام کرنے کے لئے دوسرے حضرات موجود ہیں۔ اس لئے ”مجلس تحفظ ختم نبوت“ کا دائرہ عمل دعوت و ارشاد اصلاح و تبلیغ اور رد قادیانیت تک محدود رہے گا۔ اس فیصلے سے دو فائدے مقصود تھے: ایک یہ کہ ”جماعت تحفظ ختم نبوت“ کا پلیٹ فارم تمام مسلمانوں کا اجتماعی پلیٹ فارم رہے گا اور عقیدہ ختم نبوت کا جذبہ اہل اسلام کے اتحاد و اتفاق اور ان کے باہمی ربط تعلق کا بہترین ذریعہ ثابت ہو گا۔ دوم یہ کہ ”مجلس تحفظ ختم نبوت“ کا ارباب اقتدار سے یا کسی اور سیاسی

جماعت سے تصادم نہیں ہوگا۔ اور امت مسلمہ کا اجتماعی عقیدہ ختم نبوت اطفال نیاست کا
کھلونا بننے سے محفوظ رہے گا۔

امام العصر علامہ سید محمد انور شاہ کشمیریؒ:

امام العصر حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیریؒ کو قدرت نے قادریانیت کے خلاف
سر پا تحریک بنا دیا تھا۔ آپ نے اپنے شاگروں کی ایک مستقل جماعت کو قادریانیت کے
خلاف تحریری و تقریری میدان میں لگایا تھا۔ حضرت مولانا بدر عالم میرٹھیؒ، حضرت مولانا مفتی
محمد شفیعؒ، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانیؒ، حضرت مولانا محمد منظور نعمانیؒ، حضرت مولانا محمد علی
جالندھریؒ، حضرت مولانا غلام غوث ہزارویؒ، حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوریؒ، حضرت
مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ، مولانا غلام اللہ خانؒ ایسے جید علمائے امت جنہوں نے
قادیریانیت کو ناؤں پنچے چبائے، یہ سب حضرت کشمیریؒ کے شاگرد تھے۔ دارالعلوم دیوبند کی
مندرجہ حدیث پر بیٹھ کر اس مردو قلندر نے اس فتنہ عمیاء قادریانیت کے خلاف محاذ قائم کیا جسے
دیانت دار مورخ سنہرے حروف سے لکھنے پر مجبور ہے۔

پاکستان اور قادریانیت:

۱۹۷۸ء میں پاکستان بنا، قادریانی جماعت کا لاث پادری مرز احمد قادریان چھوڑ کر
پاکستان آگیا، پنجاب کے پہلے انگریز گورنمنٹ کے حکم پر چینیوٹ کے قریب ان کو لپ
د ریا ایک ہزار چوتیس ایکڑ زمین عطیہ کے طور پر لاث کی گئی۔ فی مرلہ ایک آنہ کے حساب
سے صرف رجسٹری کے کل اخراجات 10,034/- روپے وصول کئے۔ قادریانیوں نے
بلashرکت غیرے وہاں پر اپنی اسٹیٹ "مرزایل" کی اسرائیل کی طرز پر بنیاد رکھی۔ ظفر اللہ
قادیریانی پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ بنا۔ اس نے سرکاری خزانہ سے آب و دانہ کھا کر قادریانیت
کو دنیا بھر میں متعارف کرایا۔ انگریز خود چلا گیا مگر جاتے ہوئے اسلامیان بر صغیر کے لئے
اپنی لے پالک اولاد قادریانیت کے لئے ایک مضبوط بیس مہیا کر گیا۔ قادریانی علی الاعلان

اقدار کے خواب دیکھنے لگے۔ ان پر کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ قادیانیوں کی تعقیٰ اور ان ترانیاں دیکھ کر اسلامیان پاکستان کا ہر در در رکھنے والا شخص اس صورت سے پریشان تھا۔ قادیانی منہ زور گھوڑے کی طرح ہوا پر سوار تھے۔ ملک میں جدا گانہ طرز انتخاب پرائیش کرانے کا فیصلہ کیا گیا لیکن قادیانیوں کو مسلمانوں کا حصہ شمار کیا گیا۔ چنانچہ اس صورت حال کو دیکھ کر حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاریؒ نے شیر اسلام حضرت مولانا غلام غوث ہزارویؒ اور مجاہد ملت حضرت مولانا محمد علی جاندھریؒ کو بریلوی مکتبہ فکر کے رہنماء مولانا ابو الحسنات قادریؒ کے ہاں بھیجا۔ دیوبندی، بریلوی، الہمجدیث، شیعہ مکاتب فکر اکٹھے ہوئے اور قادیانیوں کے خلاف تحریک چلی جسے تحریک ختم نبوت ۱۹۵۳ء کہا جاتا ہے۔ اس تحریک میں مرکزی کردار اپنائے دارالعلوم دیوبند کا تھا۔ اس تحریک نے قادیانیوں کے منزدروں گھوڑے کو لنگڑا کر دیا۔ ظفر اللہ قادیانی ملعون اپنی وزارت سے آنجمانی ہو گیا۔ قادیانیت کی اس تڑا خ سے ہڈیاں ٹوٹیں کہ وہ زمین پر رینگنے لگی۔ عقیدہ ختم نبوت کی ان عظیم خدمات پر دارالعلوم دیوبند کے فیض یافتگان کو جتنا خراج تحسین پیش کیا جائے کم ہے، قبل از اس ۱۹۳۹ء میں مجلس تحفظ ختم نبوت کے نام سے جس پلیٹ فارم کا اعلان ہوا تھا۔ ۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نبوت کے بعد اسے مستقل جماعت کے طور پر قادیانیت کے احتساب کے لئے مشتمل کیا گیا جبکہ سیاسی و مذہبی طور پر اسلامیان پاکستان کی رہنمائی اور اسلامی نظام کے نفاذ اور اشاعت دین کے لئے ”جمعیت علماء اسلام پاکستان“ کی تشكیل کی گئی۔ یہ سب اپنائے دارالعلوم کا کارنامہ ہے۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان نے ایوبی دور میں مغربی پاکستان اسیبلی میں شیر اسلام مولانا غلام غوث ہزارویؒ اور قومی اسیبلی میں مفکر اسلام مولانا مفتی محمودؒ قیادت باسعادت میں ”تحفظ ختم نبوت“ کے لئے جو خدمات انجام دیں وہ تاریخ کا حصہ ہیں، غرض مذہبی اور سیاسی اعتبار سے قادیانیت کا احتساب کیا گیا ”مغربی آقاوں“ کے اشارے پر قادیانی ”فوج“ و دیگر سرکاری دوائر میں سرگرم عمل تھے علماء کرام کی مستقل جماعت مولانا احمد علی لاہوریؒ مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاریؒ، مولانا غلام غوث ہزارویؒ، مولانا مفتی محمودؒ، مولانا

قاضی احسان احمد شجاع آبادی[ؒ]، مولانا گل بادشاہ[ؒ]، مولانا محمد یوسف بنوری[ؒ]، مولانا خیر محمد جالندھری[ؒ]، مولانا تاج محمود[ؒ]، مولانا لال حسین اختر[ؒ]، مولانا مفتی محمد شفیع[ؒ]، مولانا عبدالرحمن میانوی[ؒ]، مولانا محمد حیات[ؒ]، مولانا عبد القیوم[ؒ]، مولانا عبد الواحد[ؒ]، مولانا محمد عبد اللہ درخواستی اور ان کے ہزاروں شاگرد لاکھوں متولیین کروڑوں متعلقین نے جو خدمات سرانجام دیں وہ سب دارالعلوم کا فیضان نظر ہے۔ سب اسماً گرامی کا استحضار و احصاً ممکن نہیں وہ سب حضرات جنہوں نے اس سلسلہ میں خدمات سرانجام دیں ہمایے ان الفاظ کے لکھنے کم تاج نہیں وہ یقیناً ربِ کریم کے حضور اپنے حنات کا اجر پا چکے۔ (فعم اجر العاملین)

قرارداد رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ:

رابطہ کا سالانہ اجتماع اپریل ۱۹۷۲ء میں منعقد ہوا، مفکر اسلام مولانا ابو الحسن علی ندوی[ؒ]، شیخ الاسلام مولانا سید محمد یوسف بنوری[ؒ] اور دوسرے اکابرین دیوبند اس اجتماع میں نہ صرف موجود تھے بلکہ اس قرارداد کو پاس کرنے کے داعی تھے۔ رابطہ عالم اسلامی نے متفقہ طور پر قادیانیوں کے خلاف قرارداد منظور کی جو دور رس نتائج کی حامل ہے، اس سے پوری دنیا کے علماء اسلام کا قادیانیت کے کفر پر اجماع منعقد ہو گیا۔

تحریک ختم نبوت ۱۹۷۳ء:

اللہ رب العزت کے فضل و احسان کے بموجب ۱۹۷۰ء میں جمعیت علماء اسلام پاکستان کی مشائی جدوجہد سے مفکر اسلام مولانا مفتی محمد محمود، شیر اسلام مولانا غلام غوث ہزاروی[ؒ]، شیخ الحدیث مولانا عبد الحمید، مولانا عبد الجکیم، مولانا صدر الشہید اور دیگر حضرات قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو مر جوم بر سراقدار آئے، قادیانیوں نے ۱۹۷۰ء میں پیپلز پارٹی کی دامے درمے اور افرادی مدد کی تھی، قادیانیوں نے پھر پر پرزے نکالے۔ ۲۹/۱۹۷۲ء کو چناب نگر (ربوہ) ریلوے اسٹیشن پر نشرت میڈیا کل کالج ملتان کے طلباء پر قتلانہ حملہ کیا، اس کے نتیجے میں تحریک چلی اسلامیان پاکستان ایک پلیٹ فارم "مجلس

عمل تحفظ ختم نبوت پاکستان، پرجع ہوئے جس کی قیادت دارالعلوم دیوبند کے مرد جلیل، محدث کبیر مولانا سید محمد یوسف بنوریؒ نے فرمائی اور قومی اسمبلی میں امت مسلمہ کی نمائندگی کا شرف حق تعالیٰ نے دارالعلوم دیوبند کے عظیم سپوت مفکر اسلام مولانا مفتی محمودؒ کو بخشنا۔ یوں قادریانی قانونی طور پر اپنے منطقی انجام کو پہنچ اور ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ کہاں قادریانی اقتدار کا خواب اور کہاں چوہڑوں، چماروں میں ان کا شمار، اس پوری جدوجہد میں دارالعلوم دیوبند کے فیض یافتگان کی خدمات اللہ درب العزت کے فضل و کرم کا اظہار ہے، غرض دارالعلوم دیوبند کے سرپرست اول حاجی امداد اللہ مہاجرؒ کی "الف" سے تحفظ ختم نبوت کی جو تحریک شروع ہوئی وہ شیخ الاسلام مولانا سید محمد یوسف بنوریؒ کی "یاء" پر کامیابی سے سرفراز ہوئی۔

دوی اسمبلی میں قادریانیوں کے متعلق جو کارروائی ہوئی وہ سب قومی "تا ریجی دستاویز" کے نام سے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے شائع کر دی ہے۔ قومی اسمبلی میں دارالعلوم دیوبند کے فیض یافتگان ہمارے اکابر نے مفکر اسلام مولانا مفتی محمودؒ کی قیادت باسعادت میں قادریانیوں کو جس طرح چاروں شانے چت کیا یہ دستاویز اس پر "شاہد عدل" ہے۔ قادریانیوں نے اسمبلی میں ایک محض نامہ پیش کیا تھا جس کا جواب مولانا مفتی محمودؒ اور مولانا محمد یوسف بنوریؒ کی مگر انی میں مولانا محمد تقی عثمانی اور مولانا سمیع الحق نے لکھا۔ حالہ جات مولانا محمد حیاتؒ اور مولانا عبدالرحمیم اشعر نے فراہم کئے اور قومی اسمبلی میں اسے مفکر اسلام قائد جمعیت مولانا مفتی محمودؒ نے پڑھا۔

جناب ذوالفقار علی بھٹو کے بعد جزل محمد ضیا الحق برسر اقتدار آئے ان کے زمانہ میں پھر قادریانیوں نے پرپڑے نکالے ایک بار ونگ لسٹوں کے حلف نامہ میں تبدیلی کی گئی، اس زمانہ میں مجلس تحفظ ختم نبوت کے سیکریٹری جزل مولانا محمد شریف جالندھریؒ بھاگم بھاگ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سیکریٹری جزل مفکر اسلام مولانا مفتی محمودؒ کے پاس راولپنڈی پہنچے۔ حضرت مفتی صاحبؒ مشری ہسپتال میں پاؤں کے زخم کے علاج کے سلسلہ میں زیر علاج تھے۔ اس حالت میں حضرت مفتی صاحبؒ نے جزل ضیا الحق کو فون کیا۔

آپ کی لکار سے اقتدار کا نشہ ہرن ہوا اور وہ غلطی درست کر دی گئی وہ غلطی نہ تھی بلکہ حقیقت میں قادر یانیوں سے متعلق قانون کو زم کرنے کی پہلی چال تھی، جسے دارالعلوم دیوبند کے ایک فرزند کی لکار حق نے ناکام بنا دیا۔

۱۹۸۲ء میں جزل ضیاء الحق کے زمانہ اقتدار میں پرانے قوانین کی چھانٹی کا عمل شروع ہوا (جو قانون کہ اپنا مقصد حاصل کرچکے ہوں ان گونکال دیا جائے)۔ اس موقع پر ابہام پیدا ہو گیا کہ قادر یانیوں سے متعلق ترمیم بھی منسوخ ہو گئی ہے، اس پر ملک کے وکلا کی رائے لی گئی۔ اڑھائی سو وکلا کے دستخطوں سے مجلس تحفظ ختم نبوت نے روزنامہ جنگ میں اشتہار شائع کرایا۔ مولانا قاری سعید الرحمن مہتمم جامعہ اسلامیہ کشمیر روڈ صدر راولپنڈی، مولانا سمیع الحق صاحب مہتمم جامعہ حفاظیہ، اکوڑہ خٹک جزل صاحب کو ملے ان کی کابینہ میں محترم جناب راجہ ظفر الحق وفاتی وزیر تھے ان کے مشورہ سے جزل صاحب نے ایک آرڈی نیس منظور کیا اور قادر یانیوں سے متعلق ترمیم کے بارے میں جوابہام پایا جاتا تھا وہ دور ہوا اور اسلامیان پاکستان نے اطمینان کا سنس لیا۔ اس آرڈی نیس کو اس وقت بھی آئینی تحفظ حاصل ہے۔

تحریک ختم نبوت ۱۹۸۲ء:

جناب بھٹو کے زمانہ میں پاس شدہ آئینی ترمیم پر قانون سازی نہ ہو گئی۔ جزل ضیاء الحق کے زمانہ میں قادر یانی خواہش تھی کہ کسی طرح یہ ترمیم منسوخ ہو جائے اس کے لئے وہ اندر وطن خانہ سازشوں میں مصروف تھے۔ قادر یانی سازشوں اور اشتغال انگیز کارروائیوں سے مسلمانوں کے ردعمل نے تحریک ختم نبوت ۱۹۸۲ء کی شکل اختیار کی۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد یوسف بنوری[ؒ] اور مفکر اسلام مولانا مفتی محمود اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ اب اس نئی آزمائش میں دارالعلوم دیوبند کے زعماء خواجہ خواجہ گان حضرت مولانا خان محمد صاحب دامت برکاتہم، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن، مولانا مفتی احمد الرحمن، مولانا محمد احمد خان، مولانا

عبداللہ انور، پیر طریقت مولانا عبدالکریم پیر شریف، مولانا محمد مراد ہاچوی، مولانا محمد یوسف
لدھیانوی شہید، مولانا محمد شریف جالندھری، مولانا میاں سراج احمد دینپوری، مولانا سید محمد
شاہ امریٰ، مولانا عبد الواحد، مولانا منیر الدین گوئی، ڈاکٹر عبد الرزاق اسکندر، مولانا حبیب
اللہ مختار شہید، مولانا محمد لقمان علی پوری، مولانا عزیز الرحمن جالندھری، مولانا ضیاء القائی،
مولانا منظور احمد چنیوی، مولانا سید امیر حسین گیلانی، ایسے ہزاروں علماء حق نے تحریک کی
قیادت کی اور اس کے نتیجہ میں قادیانیوں کے متعلق پھر قانون سازی کے اس خلا کوپ کرنے
کے لئے اجتماع قادیانیت آرڈی نیس منظور ہوا۔

یہ آرڈی نیس اس وقت قانون کا حصہ ہے، اس سے یہ وائد حاصل ہوئے:

۱: قادیانی اپنی جماعت کے چیف گرو یا لاث پادری کو امیر المؤمنین نہیں کہہ

سکتے۔

۲: قادیانی اپنی جماعت کے سربراہ کو خلیفۃ المؤمنین یا خلیفۃ اسلامین نہیں کہہ

سکتے۔

۳: مرزا غلام احمد قادیانی کے کسی مرید کو معاذ اللہ "صحابی" نہیں کہہ سکتے۔

۴: مرزا قادیانی کے کسی مرید کے لئے "رضی اللہ عنہ" نہیں لکھ سکتے۔

۵: مرزا غلام احمد قادیانی کی بیوی کے لئے "ام المؤمنین" کا لفظ استعمال نہیں

کر سکتے۔

۶: قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔

۷: قادیانی اذان نہیں دے سکتے۔

۸: قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔

۹: قادیانی اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے۔

۱۰: قادیانی اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔

۱۱: قادیانی اپنے مذہب کی دعوت نہیں دے سکتے۔

- ۱۲:.....قادیانی مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو بحروج نہیں کر سکتے۔
 ۱۳:.....قادیانی کسی بھی طرح اپنے آپ کو مسلمان شمار نہیں کر سکتے۔
 ۱۴:.....غرض کوئی بھی شاعر اسلام استعمال نہیں کر سکتے۔

بحمدہ تعالیٰ اس قانون کے منظور ہونے سے قادیانی جماعت کا سالانہ جلسہ بے وہ ظلیٰ حجٰ قرار دیتے تھے، پاکستان میں اس پر پابندی لگی۔ قادیانی جماعت کے چیف گرو، لاث پادری مرزا طاہر کو ملک چھوڑ کر لندن جانا پڑا۔ اس تمام تر کامیابی و کامرانی کے لئے ”ابناۓ دارالعلوم دیوبند“ نے جو خدمات سر انجام دیں ان کو کوئی منصف مزاج نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اس قانون کے نافذ ہوتے ہی قادیانیوں کے لئے ”نہ پائے رفتہ نہ جائے ماندن“ والاقصہ ہو گیا۔

مقدمات:

۱:.....قادیانیوں نے وفاقی شرعی عدالت میں اس قانون کو چیلنج کر دیا، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر مرکزی یہ حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب دامت برکاتہم کے حکم پر کیس کی تیاری اور پیروی کے لئے شہید مظلوم حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی، حضرت مولانا محمد شریف جالندھری، حضرت مولانا عبد الرحیم اشعر صاحب پر مشتمل جماعت نے لاہور ڈریے لگادیئے۔ ملتان عالمی مجلس کے مرکزی کتب خانہ سے میسیوں بکس کتب کے بھر کے لاہور لائے گئے، فتوائیں مشین کا اہتمام کیا گیا، جامعہ اشرفیہ لاہور کی لاہوری اس کیس کی پیروی کے لئے جامعہ کے حضرات نے وقف کر دی۔ ۱۵/ جولائی سے ۱۲/ اگست ۱۹۸۲ء تک اس کی سماعت جاری رہی۔ حضرت امیر مرکزی یہ دامت برکاتہم اور خانقاہ رائے پور کی روایات کے امین حضرت اقدس سید نقیس الحسینی اور مفکر اسلام علامہ ڈاکٹر خالد محمود بھی تشریف لاتے رہے۔ لاہور کی تمام جماعتوں نے بھرپور حصہ لیا اور بالکل بہاولپور کے مقدمہ کی یاد تازہ ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے نہایت ہی کرم کا معاملہ فرمایا۔ ۱۲/ اگست ۱۹۸۲ء کو جب فیصلہ آیا تو قادیانیوں کی رث خارج کر دی گئی ”کفر

ہار گیا، اسلام جیت گیا، تفصیلی فیصلہ جسٹس فخر عالم نے تحریر کیا۔

۲:..... قادیانیوں نے اس فیصلہ کے خلاف وفاقی شرعی عدالت کی اپیل بیٹھ پریم کورٹ میں اپیل دائر کی۔ اللہ رب العزت نے فضل فرمایا۔ ۱۲/جنوری ۱۹۸۸ء پریم کورٹ اپیل بیٹھ نے اس اپیل کو بھی مسترد کر دیا۔ اسی طرح قادیانیوں نے لاہور، کوئٹہ، کراچی ہائیکورٹ میں کیس دائر کئے، تمام جگہ ان کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ قادیانی ان تمام مقدمات کی اپیل پریم کورٹ آف پاکستان میں لے کر گئے۔ حق تعالیٰ شانہ نے یہاں بھی فیض یافتگان دارالعلوم دیوبند کو توفیق بخشی۔ اس کی بیرونی کے لئے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے بزرگ رہنماء حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید، مولانا عزیز الرحمن جالندھری، مولانا علامہ احمد میاں حمادی، شہید اسلام مولانا محمد عبد اللہ، قاری محمد امین، مولانا محمد رمضان علوی، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کے جانشین مولانا قاضی احسان احمد، مولانا عبد الرؤوف اور اسلام آباد، راولپنڈی کے تمام ائمہ و خطباء نے ایمانی جرأت و دینی حیمت کا مظاہرہ کیا۔ یوں ۳/جنوری ۱۹۹۳ء کو پریم کورٹ آف پاکستان کے پانچ محقق صاحبان پر مشتمل بیٹھ نے قادیانیوں کے خلاف فیصلہ دیا۔ بجمہ تعالیٰ ان تمام فیصلہ جات پر مشتمل کتاب ”قادیانیت کے خلاف اعلیٰ عدالتون کے فیصلے“ شائع شدہ ہے، جس میں دیگر تفصیلات ملاحظہ کی جاسکتی ہیں۔

۳:..... اسی طرح قادیانیوں نے جو ہائیکر افریقہ میں ایک مقدمہ دائر کیا۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی، حضرت مولانا مفتی زین العابدین، حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید، حضرت مولانا عبد الرحیم اشعر، ڈاکٹر محمود احمد عازی، علامہ ڈاکٹر خالد مجود، مولانا منظور احمد چنیوٹی، مولانا منظور احمد احسینی نے اس کی بیرونی کے لئے وہاں کے سفر کئے یہ فیصلہ بھی قادیانیوں کے خلاف ہوا۔

بیرون ممالک:

امتناع قادیانیت قانون کے نافذ ہوتے ہی قادیانی جماعت کے بھگوڑے چیف گرو مرزا طاہر نے لندن کو اپنا مستقر بنایا۔ ابناۓ دارالعلوم دیوبند وہاں بھی پہنچے۔ سالانہ

عالمی ختم نبوت کا نفرنس برطانیہ ۱۹۸۵ء سے ہر سال تسلیل کے ساتھ منعقد ہوتی رہی ہے۔ پاکستان، ہندوستان، عرب، افریقہ و یورپ سے علماء کرام اور ایمانی فضلاۓ دارالعلوم دیوبند تشریف لا کر اس کا نفرنس سے خطاب کرتے ہیں، اسی طرح برطانیہ میں مستقل طور پر قادریانیت کے احصاب کے لئے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے اپنا مستقل دفتر قائم کر دیا ہے، جہاں سے ختم نبوت کے تحفظ کا فریضہ سرانجام دیا جا رہا ہے۔ امریکہ، افریقہ، یورپ کے کئی ممالک ایسے ہیں جہاں مستقل بنیادوں پر قادریانیت کے خلاف کام ہو رہا ہے اور وہ تمام تر کام بحمدہ تعالیٰ ابناء دارالعلوم دیوبند سرانجام دے رہے ہیں۔ ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند کے زیر انتظام عظیم الشان ختم نبوت کا نفرنسوں کے علاوہ ترمیتی کورسز کا سلسلہ شروع ہے۔ کتب، لٹریچر کی اشاعت و تقسیم ہو رہی ہے اور اس کام کے لئے دارالعلوم دیوبند میں ہی ”کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت“ قائم کر دی گئی ہے۔ فالحمد لله۔

آثار و نتائج:

اکابر دیوبند کی مساعی اور ”مجلس تحفظ ختم نبوت“ کے مقاصد و خدمات کا مختصر ساختہ کہ آپ کے سامنے آچکا ہے۔ اب ایک نظر ان آثار و نتائج پر بھی ڈال لینا چاہئے جو جماعت کی ججد مسلسل اور امت اسلامیہ کے اتفاق و تعاون کے نتیجہ میں وقوع پذیر ہوئے۔

اول: پاکستان کی قومی اسمبلی نے قادریوں کو غیر مسلم قرار دیا۔ علاوہ ازیں قرباً تیس اسلامی ممالک قادریوں کو کافر، مرتد، اترہ اسلام سے خارج اور خلاف قانون قرار دے چکے ہیں۔

دوم: ختم نبوت کی تحریک پاکستان میں کامیاب ہوئی تو پوری دنیا پر قادریوں کا کفر و نفاق واضح ہو گیا۔ اور دنیا کے بعد ترین ممالک کے مسلمان بھی قادریوں کے بدترین کفر سے واقف ہو گئے۔

سوم: بہاولپور سے ماریش جوان سبرگ تک کی بہت سی عدالتوں نے قادریوں کے غیر مسلم اقلیت ہونے کے فیصلہ دیئے۔

چہارم: مجلس تحفظ ختم نبوت کی تحریک نے نہ صرف پاکستان کو بلکہ دیگر اسلامی

مماں کو قادیانیوں کے غلبہ اور تسلط سے محفوظ کر دیا اور تمام دنیا کے مسلمان قادیانیوں کو ایک سازشی اور مرتد نہ کر جھ کر ان سے محتاط اور چونکا رہنے لگے۔

پنجم: بے شمار لوگ جو قادیانیوں کے دام ہرگز زمین کا شکار ہو کر مرد ہو گئے تھے۔ جب ان پر قادیانیت کا فرکھل گیا تو وہ قادیانیت کو چھوڑ کر دوبارہ دامنِ اسلام سے وابستہ ہو گئے۔

ششم: ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کا ملازم پیشہ نوجوان طبقہ قادیانیوں سے بے حد مروع تھا۔ چونکہ قادیانی پاکستان میں اعلیٰ مناصب پر قابض تھے۔ اس لئے وہ ایک طرف اپنے ماتحت عملے میں قادیانیت کی تبلیغ کرتے اور دوسری طرف اچھے مناصب کے لئے صرف قادیانیوں کا انتخاب کرتے۔ اس سے مسلمانوں کے نوجوان طبقہ کی صریح حق تلقی ہوتی تھی اور بہت سے نوجوان اچھی ملازمت کے لائچ میں قادیانی مذہب کے ہموا ہو جاتے تھے۔ اب بھی اگرچہ کلیدی آسامیوں پر بہت سے قادیانی فائز ہیں اور ملازمتوں میں ان کا حصہ مسلمانوں کی نسبت اب بھی زیادہ ہے۔ مگر اب قادیانیوں کے سامنے مسلمان نوجوانوں کا احساس کمتری ختم ہو رہا ہے اور نوجوانوں کی طرف سے مطالبے ہو رہے ہیں کہ قادیانیوں کو ان کی حصہ رسیدی سے زیادہ کسی اور ادارے میں نشستیں نہ دی جائیں۔

ہفتم: قیام پاکستان سے ۱۹۴۷ء تک ”ربوہ“ مسلمانوں کے لئے ایک منوعہ قصہ تھا۔ وہاں مسلمانوں کے داخلہ کی اجازت نہیں تھی، حتیٰ کہ ریلوے اور ڈاک خانہ کے سرکاری ملازموں کے لئے قادیانی ہونے کی شرط تھی۔ لیکن اب ”ربوہ“ کی گلگٹی ثوث چکی ہے۔ وہاں اکثر سرکاری ملازم مسلمان ہیں۔ ۱۹۷۵ء سے مسلمانوں کی نماز باجماعت بھی ہوتی ہے اور مجلس تحفظ ختم نبوت کے مدارس و مساجد و فترت و لاہوری قائم ہیں۔

ہشتم: قادیانی اپنے مردوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے پر اصرار کیا کرتے تھے، لیکن اب مسلمانوں کے قبرستان میں ان کا دفن کیا جانا منوع ہے۔

نہم: پاسپورٹ، شناختی کارڈ اور روپی ملازمتوں کے فارموں میں قادیانیوں کو اپنے مذہب کی تصریح کرنا پڑتی ہے۔

وہم: پاکستان میں ختم نبوت کے خلاف کہنا یا لکھنا تعزیری جرم قرار دیا جا چکا ہے۔

یازد ہم:..... سعودی عرب، لیبیا اور دیگر اسلامی ممالک میں قادیانیوں کا داخلہ منوع ہے اور انہیں "عام کفر کے جاسوس" قرار دیا جا چکا ہے۔

دوازدھم:..... مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کے خلاف لب کشائی کی پاکستان میں اجازت نہیں تھی، مگر اب صورت حال یہ ہے کہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔

سیزدھم:..... قادیانی جو یہ ورنی ممالک میں یہ پروپیگنڈہ کیا کرتے تھے کہ: پاکستان میں قادیانیوں کی حکومت ہے اور دارالخلافہ "ربوہ" ہے۔ وہ اس جھوٹ پر نہ صرف پوری دنیا میں ذلیل ہو چکے ہیں بلکہ خدا کی زمین اپنی فراخی کے باوجود ان پر تنگ ہو رہی ہے۔ حتیٰ کہ قادیانی سربراہ کولنڈن میں بھی چین نصیب نہیں۔ ربوہ کا نام مست کراب "چنان گز" ہے۔ آج قادیانی شہر کا نام مٹا ہے تو وہ وقت آیا جاتا ہے جب قادیانیت کا نشان بھی مٹے گا۔ (انشاء اللہ العزیز)۔

نون:..... موضوع کی مناسبت اور سوال کی نوعیت کے پیش نظر صرف علماء دین بند کی خدمات دربارہ تحفظ ختم نبوت کا تذکرہ کیا ہے ورنہ تمام علماء کرام چاہے وہ بریلوی ہوں یا احمدیت یا شیعہ حضرات سب اس محاڈ پر ایک دوسرے کے شانہ بشانہ رہے۔ سب نے اس محاڈ پر گرانقدر خدمات سرانجام دیں۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی شائع کردہ کتاب "تحریک ختم نبوت ۱۹۵۳ء"، "تحریک ختم نبوت ۱۹۷۴ء" (تین جلدیں) ان میں تمام مکاتب فکر کے اکابر کی سنبھلی خدمات کا تفصیلی تذکرہ کیا گیا ہے۔



بسم الله الرحمن الرحيم

حیات عیسیٰ علیہ السلام

سوال ۱: سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے بارے میں اسلام، یہودیت، مسیحیت اور مرزائیت کا نقطہ نظر واضح کریں؟

جواب: اسلام کا نقطہ نظر دربارہ حیات عیسیٰ علیہ السلام: عقیدہ ختم نبوت کی طرح حیات عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفع و نزول کا عقیدہ بھی اسلام کے بنیادی عقائد اور ضروریات دین میں شامل ہے جو قرآن کریم کی نصوص قطعیہ، احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے اور جس کو علماء امت نے کتب تفسیر، شروح احادیث اور کتب علم کلام میں مکمل توضیحات و تشریحات کے ساتھ فتح فرمادیا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسلامی عقیدہ:

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ وہ حضرت مریم کے بطن مبارک سے محض فتحہ جبراہیل سے پیدا ہوئے پھر بنی اسرائیل کے آخری نبی بن کر مبعوث ہوئے، یہود نے ان سے بعض وعداوت کا معاملہ کیا، آخر کار جب ایک موقع پر ان کے قتل کی نی مومن کوشش کی تو بھکم خداوندی، فرشتے ان کو اٹھا کر زندہ سلامت آسمان پر لے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو طویل عمر عطا فرمادی اور قرب قیامت میں جب دجال کا ظہور ہوگا اور وہ

دنیا میں فتنہ و فساد پھیلائے گا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ قیامت کی ایک بڑی علامت کے طور پر نازل ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ دنیا میں آپ کا نزول ایک امام عادل کی حیثیت سے ہو گا اور اس امت میں آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہوں گے، اور قرآن و حدیث (اسلامی شریعت) پر خود بھی عمل کریں گے اور لوگوں کو بھی اس پر چلا کمیں گے۔ ان کے زمانہ میں (جو اس امت کا آخری دور ہو گا) اسلام کے سوادنیا کے تمام مذاہب مت جائیں گے اور دنیا میں کوئی کافرنہیں رہے گا، اس لئے جہاد کا حکم موقوف ہو جائے گا، نہ خرچ و صول کیا جائے گا اور نہ جزیہ، مال وزراتاً عام ہو گا کہ کوئی دوسرے سے قبول نہیں کرے گا۔ نزول کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکاح بھی فرمائیں گے اور ان کی اولاد بھی ہو گی؛ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو جائے گی اور مسلمان آپ کی نماز جنازہ پڑھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں دفن کر دیں گے۔ یہ تمام امور احادیث صحیح متواترہ میں پوری وضاحت کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں جن کی تعداد ایک سو سے متعدد ہے۔ (تفصیل کے لئے دیکھئے التصریح بما تواتر فی نزول الحج)

اسلامی عقیدہ کے اہم اجزاء یہ ہیں:

۱:.....حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور وہی مسیح ہدایت ہیں، جن کی بشارت کتب سابقہ میں دی گئی ہے وہ پچے نبی کی حیثیت سے ایک مرتبہ دنیا میں مبعوث ہو چکے ہیں۔

۲:.....یہود بے بہبود کے ناپاک اور گندے ہاتھوں سے ہر طرح محفوظار ہے۔

۳:.....زندہ بحمد عصری آسمان پر اٹھا لئے گئے۔

۴:.....وہاں بقید حیات موجود ہیں۔

۵:.....قیامت سے پہلے اس کی ایک بڑی علامت کے طور پر بعینہ وہی مسیح ہدایت

(حضرت عیسیٰ بن مریم) نزول فرما کر سچ خلافت (دجال) کو قتل کریں گے، ان سے الگ کوئی اور شخص ان کی جگہ سچ کے نام سے دنیا میں نہیں آئے گا۔

سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہودیوں کا نقطہ نظر:

یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سچ ہدایت بھی نہیں آیا، اور عیسیٰ بن مریم نامی جس شخص نے اپنے آپ کو سچ اور رسول اللہ کہا ہے (نحوذ بالله) وہ جادوگ اور جھوٹا دعویٰ نبوت کرنے والا تھا، اسی لئے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بعض وعداوت کا معاملہ کیا اور ان کو قتل کرنے اور سوی پر چڑھانے کا منصوبہ بنایا، بلکہ ان کے بقول یہ منصوبہ پایہ تکمیل کو پہنچا دیا، جیسا کہ ارشاد ہے:

”وقولهم انا قتلنا المسمیع عیسیٰ بن مریم رسول

(سورہ نساء آیت: ۱۵۷) “الله۔“

”اور ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے قتل کیا سچ عیسیٰ مریم کے بیٹے کو جو رسول تھا اللہ کا۔“ (ترجمہ شیخ البہذ)

دعویٰ قتل عیسیٰ بن مریم میں تو تمام یہود متفق ہیں، البتہ ان میں ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ قتل کئے جانے کے بعد اہانت اور تشہیر کے لئے عیسیٰ علیہ السلام کو سوی پر لٹکایا گیا، اور دوسرا فرقہ کہتا ہے کہ سوی پر چار منیخ کے جانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا۔

(محاضہ علمیہ نمبر ۲۲ از حضرت قاری محمد عثمان صاحب)

سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مسیحی نقطہ نظر:

اور نصاریٰ کا متفقہ عقیدہ ہے کہ سچ ہدایت آچکے ہیں اور وہ حضرت عیسیٰ بن مریم ہیں، اس کے بعد ان میں دو فرقے بن گئے:

۱: ایک بڑا فرقہ یہ کہتا ہے کہ ان کو یہود نے قتل کیا، سولی پر چڑھایا، پھر اللہ تعالیٰ نے زندہ کر کے ان کو آسمان پر اٹھایا، اور سولی پر چڑھایا جانا عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، اسی لئے عیسائی صلیب کی پوجا کرتے ہیں۔

۲: دوسرا فرقہ یہ کہتا ہے کہ بغیر قتل و صلب کے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا۔

پھر یہ دونوں فرقے بالاتفاق اس بات کے قائل ہیں کہ مسح ہدایت عین قیامت کے دن جسم ناسوتی یا جسم لا ہوتی میں، خدا بن کر آئیں گے، اور مخلوق کا حساب لیں گے۔

حاصل یہ کہ تمام یہود اور نصاریٰ کی بڑی اکثریت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت الصلیب کی قائل ہے، اور یہود و تمام نصاریٰ کو ایک مسح ہدایت کا انتظار ہے، یہود کو تو اس وجہ سے کہ ابھی یہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی، اور نصاریٰ کو اس لئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن برائے فیصلہ خلافت خدا کی شکل میں آنے والے ہیں۔ (محاضہ علمیہ نمبر ۷ ص ۲)

حضرت عیسیٰ کے متعلق قادریانی عقائد:

مرزا قادریانی نے کتب ”ازالہ اوہام، تخفہ گواڑویہ، نزول مسح اور حقیقت الوجی“ وغیرہ میں جو کچھ لکھا ہے، اس کا خلاصہ مرزا بشیر احمد ایم اے قادریانی نے اپنی کتاب ”حقیقی اسلام“ میں تحریر کیا ہے، چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ:

”اس بحث کے دوران میں (مرزا قادریانی) نے مندرجہ ذیل اہم مسائل پر نہایت زبردست روشنی ذاتی۔

۱: یہ کہ حضرت مسح ناصری دوسرے انسانوں کی طرح

ایک انسان تھے جو دشمنوں کی شرارت سے صلیب پر ضرور چڑھائے گئے مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لعنتی موت سے بچایا اس کے بعد وہ

خفیہ خفیہ اپنے ملک سے بھرت کر گئے۔

۲:..... اپنے ملک سے نکل کر حضرت مسیح آہستہ آہستہ سفر کرتے ہوئے کشمیر میں پہنچ اور وہیں ان کی وفات ہوئی (۸۷ برس کے بعد) اور وہیں ان کی قبر (سری نگر کے محلہ خانیار میں، ناقل) موجود ہے۔

۳:..... کوئی فرد بشر اس جسم غیری کے ساتھ آسمان پر نہیں جاسکتا، اس لئے مسیح کے زندہ آسمان پر چلنے جانے کا خیال بھی باطل ہے۔

۴:..... بے شک مسیح کی آمدِ ثانی کا وعدہ تھا مگر اس سے مراد ایک مثل مسیح کا آنا تھا نہ کہ خود مسیح کا۔

۵:..... یہ کہ مثل مسیح کی بعثت کا وعدہ خود آپ (مرزا قادریانی) کے وجود میں پورا کیا گیا، اور آپ ہی وہ مسیح موعود ہیں جس کے ہاتھ پر دنیا میں حق صداقت کی آخری فتح مقدر ہے، خود مرزا غلام احمد قادریانی نے قسم کھا کر لکھا ہے:

”میں وہی مسیح موعود ہوں جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث صحیح میں خبر دی ہے جو صحیح بخاری اور مسلم اور دوسری صحاح میں درج ہیں۔ و کفی بالله شہیداً۔“ (حقیقی اسلام ص: ۲۹، ۳۰)

سوال: ۲:..... مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود کی دست درازیوں سے محفوظ رکھتے ہوئے آسمانوں پر اٹھالیا، آپ قرآن و احادیث صحیح کی

روشنی میں اس عقیدہ کو ثابت کریں؟

جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ جسد عضری کے ساتھ

آسمان پر اٹھایا جانا:

وَلِيلٌ إِنَّا إِرشادُ رَبِّنَا: "أَذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَى أَنِي مَتَوفِيكَ

وَرَافِعُكَ إِلَى وَمَطْهُرُكَ مِنَ الظِّنَنِ كُفَّارُوا وَجَاعِلُ الظِّنَنِ

ابْتَعُوكَ فَوْقَ الظِّنَنِ كُفَّارُوا إِلَى يَوْمِ القيمةِ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعِكَمْ

فَاحْكُمْ بِيَنْكُمْ فِيمَا كَنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔" (آل عمران: ۵۵)

ترجمہ: ”جب کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے عیسیٰ! میں لے لوں

گا تجھ کو اور اٹھالوں گا اپنی طرف اور تم کو ان لوگوں سے پاک کرنے

والا ہوں جو مکنر ہیں اور جو لوگ تمہارا کہنا مانے والے ہیں، ان کو

غالب رکھنے والا ہوں ان لوگوں پر جو کہ مکنر ہیں، روز قیامت تک

پھر میری طرف ہوگی سب کی واپسی، سو میں تمہارے درمیان فیصلہ

کر دوں گا، ان امور میں جن میں تم باہم اختلاف کرتے تھے۔“

اس آیت کریمہ کے متصل ماقبل کی آیت کریمہ و مکرروا و مکرالله میں باری

تعالیٰ کی جس خفیہ و کامل تدبیر کی جانب اشارہ فرمایا گیا تھا۔ اس کی تفصیل حسب بیان

مفسرین آیت مذکورہ میں فرمائی گئی ہے۔ اس حکم تدبیر کے موقع سے پہلے ہی جب کہ یہود

بے بہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے قیام کا محاصرہ کر کے قتل و سولی پر چڑھانے کا

ناپاک منصوبہ بنا رہے تھے، حضرت حق جل مجدہ نے ایسے خطرناک وقت میں حضرت عیسیٰ

علیہ السلام کو تسلی دینے کے لئے بشارت دے دی کہ آپ کے دشمن خاکب و خاسر ہیں گے،

اس سلسلہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چار وعدے فرمائے گئے:

۱: میں تجھے پورا پورا لے والوں گا۔

۲: اور تجھے اپنی طرف (آسمان پر) اٹھالوں گا۔

۳: اور تجھے کفار (یہود) کے شر سے صاف بچالوں گا۔

۴: تیرے متعین کوتیرے دشمنوں پر قیامت تک غالب رکھوں گا۔

یہ چار وعدے اس لئے فرمائے گئے کہ یہود کی سازش میں یہ تفصیل تھی کہ:

۱: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑیں۔

۲: اور طرح طرح کے عذاب دے کر ان کو قتل کریں۔

۳: اور پھر خوب رسوا اور ذلیل کریں۔

۴: اور اس ذریعہ سے ان کے دین کو فنا کریں کہ کوئی ان کا قبض

و نام لیوا بھی نہ رہے۔

لہذا ان کے پکڑنے کے مقابلہ میں متوفیک فرمایا، یعنی تم کو بھر پور لینے والا ہوں، تم میری غافلگت میں ہو، اور ارادہ ایذا و قتل کے مقابلہ میں رافعک الی فرمایا، یعنی میں تم کو آسمان پر اٹھالوں گا، اور سوا اور ذلیل کرنے کے مقابلہ میں مطہر ک من الذین کفروا فرمایا، یعنی میں تم کو ان یہود نام سعود سے پاک کروں گا، سوائی و بے حرمتی کی نوبت ہی نہیں آئے گی اور؟ آپ کی امت کو مٹانے اور دین مسیحی کو نیست و نابود کرنے والوں کے مقابلہ میں: ”حاصل الذین اتبعوك الخ“ فرمایا، یعنی تیرے رفع کے بعد تیرے متعین کو ان کفار پر غلبہ دوں گا۔

توفی کے معنی:

بہر حال پہلا وعدہ لفظ ”توفی“ سے فرمایا گیا ہے۔ اس کے حروف اصلیہ ”وفا“ ہیں، جس کے معنی ہیں پورا کرنا، چنانچہ استعمال عرب ہے وفی بعهدہ اپنا وعدہ پورا کیا۔

(لسان العرب)۔ باب تفعل میں جانے کے بعد اس کے معنی ہیں: احد الشئی و افیاً (بیضاوی) یعنی کسی چیز کو پورا پورا لینا، توفی کا یہ مفہوم جنس کے درجہ میں ہے، جس کے تحت یہ تمام انواع آتی ہیں، موت، نیندا اور رفع جسمانی۔ چنانچہ امام رازی فرماتے ہیں:

”قوله (انی متوفیک) یدل علی حصول التوفی وهو

جنس تحته انواع بعضها بالموت وبعضها بالاصعاد الى

السماء فلما قال بعده (و رافعك الى) كان هذا تعينا للتنوع و

لم يكن تكراراً“ (تفسیر کیریز یا آیت یعنی انی متوفیک ص ۷۲ جزء ۸)

ترجمہ: ”باری تعالیٰ کا ارشاد انی متوفیک صرف حصول توفی

پر دلالت کرتا ہے اور وہ ایک جنس ہے جس کے تحت کئی انواع ہیں

کوئی بالموت اور کوئی بالرفع الی السماء۔ پس جب باری تعالیٰ نے

اس کے بعد و رافعك الى فرمایا، تو اس نوع کو متعین کرنا ہوا (رفع

السماء) نہ کہ تکرار۔“

یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ کسی لفظ جنس کو بول کر اس کی خاص نوع مراد لینے کے لئے قرینہ

حالیہ و مقالیہ کا پایا جانا ضروری ہے۔ تو یہاں توفی بمعنی رفع جسمانی الی السماء لینے کے لئے

ایک قرینہ یہ ہے کہ اس کے فوراً بعد و رافعك الى فرمایا گیا۔ رفع کے معنی ہیں اوپر اٹھالینا،

کیوں کر رفع، وضع و خض کی ضد ہے جس کے معنی نیچے رکھنا، اور پست کرنا، اور دوسرا قرینہ

ومطهرک من الذین کفروا ہے، کیونکہ تطہیر کا مطلب یہی ہے کہ کفار (یہود) کے ناپاک

ہاتھوں سے آپ کو صاف بچالوں گا۔ چنانچہ ابن حجر ^ت بن حجر ^ت یعنی نقل فرمایا ہے:

”عن ابی حریج قوله (انی متوفیک و رافعك الى

ومطهرک من الذین کفروا) قال فرفعه ایاہ الیه توفیہ ایاہ

وتطهیرہ من الذین کفروا۔“ (تفسیر ابن حجر ^ت ص ۲۹۰)

”کہ باری تعالیٰ کا ارشاد گرامی متوفیک الحنفی کی تفسیر یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھالیں، میں آپ کی توفی ہے اور یہی کفار سے ان کی تطہیر ہے۔“

اور تہذیراً قرینہ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت مرفوعہ ہے جس کو امام تیہنی نے نقل فرمایا ہے، اور جس میں نزولِ من السماء کی تصریح ہے:

”کیف انتم اذا نزل ابن مریم من السماء فيكم“

(كتاب الاسماء الصفات ص: ۲۰۳)

اس لئے کہ نزول سے پہلے رفع کا ثبوت ضروری ہے، اسی طرح جب یہ لفظ صوت کے معنی دے گا تو قرینہ کی احتیاج ہو گی مثلاً:

”قل يتوفكم ملك الموت الذى وكل بكم۔“

(الن سجده: ۱۱)

ترجمہ: ”اے پیغمبر! ان سے کہہ دو کہ تم کو قبض کرے گا ملک الموت جو تم پر مقرر کیا گیا ہے (یعنی تم کو مارے گا)۔“

اس میں ملک الموت قرینہ ہے، دیگر متعدد آیات میں بھی بر بنائے قرآن توفی بمعنی موت آیا ہے، کیونکہ موت میں بھی توفی یعنی پوری پوری گرفت ہوتی ہے۔ ایسے ہی جہاں نیند کے معنی دے گا، تو بھی قرینہ کی ضرورت ہو گی۔ مثلاً:

”وهو الذى يتوفكم بالليل“ (انعام: ۶۰)

ترجمہ: ”خدا ایسی ذات ہے کہ تم کو رات کے وقت پورا لے لیتا ہے، یعنی سلاادیتا ہے۔“

یہاں میں اس بات کا قرینہ ہے کہ توفی سے مراد نوم ہے کیونکہ وہ بھی توفی (پوری پوری گرفت) کی ایک نوع ہے۔ یہ تمام تفصیلات بغاۓ کے استعمال کے مطابق ہیں۔ البتہ عام لوگ توفی کو امانت اور بغض روح کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ کلیات ابوالبقاء میں ہے:

”السوفى الاماته وقبض الروح وعليه استعمال العامة

او الاستيفاء و اخذ الحق و عليه استعمال البلغاء ”

(كليات ابوالبقاء: ١٢٩)

یعنی عام لوگ تو تو فنی کو امانت اور قبضن روح کے معنی میں استعمال کرتے ہیں اور بلغاۓ پورا پورا وصول کرنے اور حق لے لینے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔

بہر حال زیر بحث آیت کریمہ میں بر بنائے قرآن توفی کے معنی قبض اور پورا پورا لعین جسم مع الروح کو اپنی تحویل میں لے لینے کے ہیں، اماتت کے نہیں ہیں۔ البتہ قبض روح بصورت نیند کے معنی ہو سکتے ہیں کیونکہ قبض روح کی دو صورتیں ہیں، ایک مع الامساک اور دوسری مع الارسال، تو اس آیت میں توفی بقرینہ راغبک ای بمعنی نیند ہو سکتی ہے، اور یہ ہمارے مدعا کے خلاف نہیں ہو گا کیونکہ نیند اور رفع جسمی میں جمع ممکن ہے۔ چنانچہ مفسرین کی ایک جماعت نے اس کو اختیار کیا ہے:

”(الثاني) المراد بالوفاة النوم ومنه قوله تعالى الله

(يُتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها)

فجعل التوم وفاة وكان عيسى قد نام فرفعه الله وهو نائم

لکلا پلچھے حوف“ (خازن ص ۲۵۵ ج ۱)

وليل:٢:.....” وما قاتلوه يقينا بل رفعه الله اليه“

(سورة نساء: ١٥٧، ١٥٨)

ترجمہ: ”اور اس کو قتل نہیں کیا بے شک بلکہ اس کو اٹھا لی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف۔“
(ترجمہ شیخ الحنفی)

یہودیوں کی جانب سے محاصرہ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے زندہ رفع جسمانی کا جو وعدہ خداوندی ہوا تھا، اس کے پورا ہونے کی اطلاع مذکورہ بالا آیات کریمہ میں دی گئی ہے۔

لفظ رفع کی تحقیق:

رفع کے لغوی معنی اور اٹھانا تاتاے جا چکے ہیں، المصباح الہمیر میں مذکور ہے:

”فالرفع فی الاجسام حقيقة فی الحركة والانتقال وفی

المعنى محمول على ما يقتضيه المقام“ (المصباح الہمیر ص: ۱۳۹)

ترجمہ: ”لفظ رفع جسموں کے متعلق حقیقی معنی کی رو سے حرکت

اور انتقال کے لئے ہوتا ہے، اور معانی کے متعلق جیسا موقع و مقام ہو
ویسی مراد ہوتی ہے۔“

اس سے معلوم ہوا کہ ”رفع“ کے حقیقی و وضعی معنی جب کہ اس کا متعلق جسم ہو، یہی ہے کہ اس کو نیچے سے اوپر حرکت دے کر منتقل کر دینا، اس حقیقی معنی کو جبکہ اس کو اختیار کرنے میں کوئی دشواری نہیں جب کہ محاورات میں اس کی بہت سی نظائر موجود ہیں۔ مثلاً حضرت نبیؐ کے صاحبزادے کے انتقال کی حدیث میں آتا ہے:

”فرفع الی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الصبی۔“

(مشکوٰۃ ص: ۱۵۰)

ترجمہ: ”یعنی وہ لڑکا (آپ کا نواسہ) آپ کے پاس اٹھا کر لایا گیا۔“

اور الٰل زبان بولا کرتے ہیں:

”رفعت الزرع الى البیدر“ (قاموس، اساس البلاغة)

ترجمہ: ”میں کھیت کاٹ کر اور غلہ اٹھا کر خمن گاہ میں لے آیا۔“

بہر حال ”بل رفعه اللہ“ میں رفع جسمانی مع الروح تو یقیناً مراد ہے جو اس کا معنی حقیقی ہے کیونکہ ”ہ“ ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجح ہے جو جمیع الروح کا نام ہے نہ کہ صرف روح کا جیسا کارشاد ہے:

”ورفع ابویہ علی العرش“ (سورہ یوسف: ۱۰۰)

ترجمہ: ”یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر چڑھا کر پہنچایا۔“

اور جہاں قرینہ پایا جائے گا وہاں لفظ رفع مجاز اصرف رفع منزلت کے معنی دے گا اس کے ساتھ رفع جسم کے معنی نہیں لئے جاسکتے کیونکہ حقیقت و مجاز کا مجمع ہونا جائز نہیں ہے۔ جیسے ارشاد ہے:

”ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات“ (سورہ زحیر: ۳۲)

ترجمہ: ”اور ہم نے ایک کو دوسرے پر رفت دے رکھی ہے۔“

بہر حال ”بل رفع اللہ“ میں نہ تو حقیقی معنی متعذر ہیں اور نہ کوئی قرینہ صارف موجود ہے، اس لئے یہاں صرف رفع منزلت کے معنی نہیں ہو سکتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع جسمانی کو سمجھنے کے لئے ایک آیت بھی کافی تھی مگر قرآن کریم میں دو جگہ صراحتاً لفظ رفع کے ساتھ اس کو بیان فرمایا گیا، لیکن بے بصیرت و بے بصارت قادریانی مگر وہ یہی رہتا گا تارہتا ہے کہ: ”سارے قرآن شریف میں ایک آیت بھی ایسی نہیں کہ جس سے حضرت مسیح علیہ السلام کا زندہ بجسد عصری آسمان پر اٹھایا جانا ثابت ہو“ (فسح قالہم)۔

حالانکہ مذکورہ دو آیتوں کے علاوہ متعدد آیات کریمہ سے رفع عیسیٰ بمسجدہ کا مضمون ثابت ہے۔ مثلاً:

ا:.....”وَانِ مَنْ أَهْلُ الْكِتَابِ إِلَيْهِ مِنْ بَهْ“

(نساء: ۱۵۹)

ب:.....”وَإِنَّهُ لِعَلِمٌ لِلْسَّاعَةِ“ (زخرف: ۶۱)

ج:.....”وَيَكْلِمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ

(آل عمران: ۲۶) ”الصالحین۔“

احادیث نبویہ سے نزول عیسیٰ علیہ السلام کا ثبوت:

حدیث ا:.....”عَنْ النَّوَاسِ بْنِ السَّمْعَانِ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ اللَّهُ مُسَيْحَ بْنَ

مَرِيمٍ فَيَنْزَلُ عَنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءَ شَرْقَى دَمْشَقَ بَيْنَ مَهْرُوذَتَيْنَ

وَاضْعَاءَ كَفِيهِ عَلَى اجْنَحَةِ مَلَكَيْنَ.....الخَ فِي طَلَبِهِ حَتَّى

يَدْرَكَهُ بَابُ لَدْ فِي قَتْلَهُ“ (مسلم ص ۱۴۰۷ ج ۲ باب ذکر الدجال)

ترجمہ: ”حضرت نواس بن سمعانؓ فرماتے ہیں کہ حضور صلی

الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو

مبعوث فرمائیں گے وہ دمشق کی جامع مسجد کے سفید مشرقی مینار پر

اتریں گے وہ دوز روچادریں پہنے ہوں گے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو

ووفرشوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے ہوں گے ان پھر وہ دجال کی

تلائش میں نکلیں گے تا آنکھ سے باب لد کے مقام پر پائیں گے پھر

اسے قتل کر دیں گے۔“

اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ بطور مجذہ ان کے منہ کی ہوا حدنگاہ تک پہنچے گی اور اس سے کافر مرسیں گے۔

حدیث ۲: ”عن ابی هریرۃؓ قال قال رسول اللہ صلی

الله علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل فیکم ابی مريم من السماء

وامامکم منکم۔“ (کتاب الاسماء والصفات للبیهقی ص: ۳۰۱)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرۃؓ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ

وسلم نے فرمایا کہ تمہاری خوشی کا اس وقت کیا حال ہوگا، جب کہ عیسیٰ

بن مریم تم میں آسمان سے نازل ہوں گے اور تمہارا مام تم میں سے

ہوگا،“ (یعنی امام مہدی تمہارے امام ہوں گے اور حضرت عیسیٰ باوجود

نبی و رسول ہونے کے امام مہدی کی اقتداء کریں گے)۔“

تعمیہ: ا: اس حدیث میں لفظ من السماء کی صراحت ہے۔

تعمیہ: ۲: اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور

حضرت مہدی علیہ الرضوان الگ الگ شخصیتیں ہیں۔

حدیث ۳: ”قال الامام احمد حدثنا عفان ثنا همام

ابناؤنا قتادة عن عبدالرحمن عن ابی هریرۃؓ ان النبی صلی اللہ

علیہ وسلم قال الانبیا اخوة لعلات امها لهم شتی و دینهم

واحدواني اولی الناس بعیسیٰ بن مریم لانه لم يكن نبی

بینی وبينه و انه نازل فادا رأيتموه فاعرفوه رجل مربع الى

الحمرة والبياض عليه ثوبان مصران كان رائسه يقطرون

لم يصبه بلل فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية

ويعد الناس الى الاسلام ويهلك الله في زمانه الملل كلها

الا الاسلام ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال ثم تقع
الامانة على الارض حتى ترتع الاسود مع الابل والنمار مع
البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحيات لاتضرهم
فيمكث اربعين سنة ثم يتوفى ويصلی عليه المسلمون۔"

(و كذا رواه ابو داؤد كذا فی تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۵۷۸)

زیر آیت و ان من اهل الكتاب، قال الحافظ ابن حجر
رواہ ابو داؤد و احمد باسناد صحيح، فتح الباری ج ۲ ص ۳۵۷)

ترجمہ: "امام احمد بن خبل اپنی مسند میں ابو ہریرہؓ سے روایت
کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء
علاقی بھائی ہیں ما میں مختلف یعنی شریعتیں مختلف ہیں اور دین یعنی
اصول شریعت سب کا ایک ہے، اور میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ
سب سے زیادہ قریب ہوں اس لئے کہ میرے اور ان کے درمیان
کوئی نبی نہیں۔ وہ نازل ہوں گے جب ان کو دیکھو تو پہچان لیں، وہ
میانہ قد ہوں گے، رنگ ان کا سرخ اور سفیدی کے درمیان ہوگا، ان پر
دور گئے ہوئے کپڑے ہوں گے، سرکی یہ شان ہوگی کہ گویا اس سے
پانی پک رہا ہے، اگرچہ اس کو کسی قسم کی تری نہیں پہنچی ہوگی، صلیب کو
توڑیں گے جزوی کو اٹھائیں گے، سب کو اسلام کی طرف بلا میں گے،
اللہ تعالیٰ ان کے زمانہ میں سوائے اسلام کے تمام مذاہب کو نیست و
نا بود کر دے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے زمانہ میں مسیح دجال کو قتل کرائے گا،
پھر تمام روئے زمین پر ایسا امن ہو جائے گا کہ شیر اونٹ کے ساتھ اور
چیتے گائے کے ساتھ اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چریں گے اور

بچے سانپ کے ساتھ کھینے لگیں گے، سانپ ان کو نقصان نہ پہنچائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام زمین پر چالیس سال ٹھہریں گے پھر وفات پائیں گے اور مسلمان ان کے جنازہ کی نماز پڑھیں گے۔“

حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ اس روایت کی اسناد صحیح ہیں۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ابھی وفات نہیں ہوئی۔ آسان سے نازل ہونے کے بعد قیامت سے پیشتر جب یہ تمام باتیں ظہور میں آجائیں گی تب وفات ہوگی۔

حدیث ۲: ”عَنِ الْحَسْنِ (مَرْسُلٌ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّهِ يَهُودَ أَنْ عِيسَى لَمْ يَمُتْ وَأَنَّهُ رَاجِعٌ إِلَيْكُمْ
قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ“ (احرجه ابن کثیر فی تفسیر آل عمران ج ۱ ص ۳۶۶)
ترجمہ: ”امام حسن بصری سے مرسل روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک نہیں مرے، زندہ ہیں اور وہی دن قیامت سے قبل واپس تشریف لائیں گے۔“

حدیث ۵: ”عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ

الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزَلُ عِيسَى بْنُ مَرِيمٍ إِلَى الْأَرْضِ فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ وَيُمْكَثُ خَمْسًا وَارْبَاعِينَ سَنَةً ثُمَّ يَمُوتُ فَيُدْفَنُ مَعِيْ فِي قَبْرٍ فَاقْوَمُ اَنَا وَعِيسَى بْنُ مَرِيمٍ فِي قَبْرٍ وَاحْدَيْنَا اَبِيْ بَكْرًا وَعُمَرًا۔“

(رواه ابن الحوزی فی كتاب الوفاء، كتاب الاذاحه ص

ترجمہ: ”عبداللہ بن عمر و رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ آئندہ میں عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے، (اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے پیشتر زمین پر نہ تھے بلکہ زمین کے مقابل آسمان پر تھے) اور میرے قریب مfon ہوں گے، قیامت کے دن میں مسیح بن مریم کے ساتھ اور ابو بکر و عمرؓ کے درمیان قبر سے اٹھوں گا۔“

حدیث ۲: ”حدثني المثنى قال ثنا اسحاق قال ثنا ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع في قوله تعالى (الله لا اله الا هو الحي القيوم) قال ان النصارى اتوا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فخاصموه في عیسیٰ بن مریم وقالوا له من ابوه وقالوا على الله الكذب والبهتان لا اله الا هو لم يتخذ صاحبة ولا ولدا فقال لهم النبي صلی اللہ علیہ وسلم المستم تعلمون انه لا يكُون ولد الا هو يشبه اباه قالوا بلى قال المستم تعلمون ان ربنا حي لا يموت وان عیسیٰ يأتي عليه الوفاء قالوا بلى قال المستم تعلمون ان ربنا قيم على كل شئ يكمله ويحفظه ويرزقه قالوا بلى قال فهل يملك عیسیٰ من ذلك شيئاً قالوا لا قال افلستم تعلمون ان الله عزوجل لا يخفى عليه شئ في الارض ولا في السماء قالوا بلى - قال فهل يعلم عیسیٰ من ذلك شيئاً الا ما علم قالوا لا - قال فان ربنا صور عیسیٰ في الرحيم كيف شاء فهل تعلمون ذلك قالوا بلى قال المستم تعلمون ان ربنا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا يحدث الحدث قالوا بلى قال المستم تعلمون ان عیسیٰ حملته امرأة كما تحمل المرأة ثم وضعته

کما تضع المرأة ولدها ثم غذى كما يغذى الصبي ثم کا ،
يطعم الطعام ويشرب الشراب و يحدث الحدث قالوا بلى
قال فكيف يكون هذا كماز عتم قال فعرفوا ثم ابوالا
ححوذاً فانزل الله عزوجل السم الله لا اله الا هو الحق
القيوم۔” (تفسير ابن حجرير ص ۱۶۳ ج ۳)

ترجمہ: ”رُبَّنِیْ سے ”الله لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَوْمُ“
کی تفسیر میں منقول ہے کہ جب نصاریٰ نجران نبی کریم صلی اللہ علیہ
 وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت مسیح علیہ السلام کی
 الوہیت کے بارے میں آپ نے مناظرہ اور مکالمہ شروع کیا اور یہ
 کہا کہ اگر حضرت مسیح ابن اللہ ہیں تو پھر ان کا باپ کون ہے؟ (مراد
 کہ اگر حضرت عیسیٰ کا باپ نہیں تو ان کو اللہ ہی کا بیٹا کہنا
 چاہئے) حالانکہ خدا وہ ہے جو لاشریک ہے بیوی اور اولاد سے پاک
 اور منزہ ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ ارشاد فرمایا
 کہ تم کو خوب معلوم ہے کہ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے، انہوں نے کہا
 کیوں نہیں بے شک ایسا ہی ہوتا ہے (یعنی جب یہ تسليم ہو گیا کہ بیٹا
 باپ کے مشابہ ہوتا ہے) تو اس قاعده سے حضرت مسیح بھی خدا کے
 مماثل اور مشابہ ہونے چاہئیں حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ خدا بے
 مثل ہے اور بے چون و چکون ہے ”لیس کمثله شئی ولم يكن
 له كفواً أحد“ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو معلوم
 ہے کہ ہمارا پروردگار حیی لا یموت ہے یعنی زندہ ہے، کبھی نہ مرے گا
 اور عیسیٰ علیہ السلام پر موت اور فنا آنے والی ہے (اس جواب سے

صاف ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں مرے نہیں، بلکہ زمانہ آئندہ میں ان پر موت آئے گی) نصاریٰ نجراں نے کہا بے شک صحیح ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم کو معلوم ہے کہ ہمارا پروردگار ہر چیز کا قائم کرنے والا تمام عالم کا نگہبان اور محافظ اور سب کا رزاق ہے۔ نصاریٰ نے کہا بے شک، آپ نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا ان چیزوں کے مالک ہیں؟ نصاریٰ نے کہا نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم کو معلوم ہے کہ اللہ پر زمین اور آسمان کی کوئی شے پوشیدہ نہیں، نصاریٰ نے کہا ہاں بے شک۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا عیسیٰ کی بھی یہی شان ہے؟ نصاریٰ نے کہا نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم کو معلوم ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو رحم مادر میں جس طرح چاہا بنایا؟ نصاریٰ نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ تم کو خوب معلوم ہے کہ اللہ نے کھانا کھاتا تھا، نہ پانی پیتا تھا اور نہ بول و بر از کرتا ہے، نصاریٰ نے کہا بے شک۔ آپ نے فرمایا کہ تم کو معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے اور عورتوں کی طرح ان کی والدہ مطہرہ حاملہ ہوئیں اور پھر مریم صدیقہ نے ان کو جنا جس طرح عورتیں بچوں کو جنا کرتی ہیں، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بچوں کی طرح غذا بھی دی گئی۔ حضرت مسیح کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، اور بول و بر از بھی کرتے تھے، نصاریٰ نے کہا بے شک ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کس طرح خدا کے بیٹے ہو سکتے ہیں؟ ”نصاریٰ نجراں نے حق کو خوب پہچان لیا مگر ویدہ و دانستہ اتباع حق ہے انکار کیا، اللہ عز وجل نے اس بارے میں یہ آیتیں نازل فرمائیں：“اَللّٰهُ لَا

الله الا هو الحى القيوم۔“

ایک ضروری تنبیہ:

ان تمام احادیث اور روایات سے یہ امر بخوبی واضح ہو گیا کہ احادیث میں جس مسح کے نزول کی خبر دی گئی، اس سے وہی مسح مراد ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، جو حضرت مریم کے طن سے بلا باپ کے نقش جبریل سے پیدا ہوئے اور جن پر اللہ نے انجیل اتنا ری۔ معاذ اللہ نزول سے امت محمدیہ میں سے کسی دوسرے شخص کا پیدا ہونا مراد نہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا مثلی ہو، ورنہ اگر احادیث نزول مسح سے کسی مثلی مسح کا پیدا ہونا مراد ہوتا تو یہاں نزول کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو ہریرہؓ کا آیت کو بطور استشهاد تلاوت کرنے کا کیا مطلب ہو گا؟ معاذ اللہ اگر احادیث سے نزول میں مثلی مسح اور مرزا کا قادیان میں پیدا ہونا مراد ہے، تو لازم آئے گا کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں مسح کا ذکر آیا ہے سب جگہ مثلی مسح اور مرزا صاحب ہی مراد ہوں۔ اس لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول مسح کو ذکر فرمائے اور بطور استشهاد آیت کو تلاوت کرنا اس امر کی صریح دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود انہیں مسح بن مریم کے نزول کو یہاں کرنا ہے، جن کے بارے میں یہ آیت اتری، کوئی دوسرے مسح مراد نہیں، اور علی ہذا امام بخاری اور دیگر ائمہ احادیث کا احادیث نزول کے ساتھ سورہ مریم اور آل عمران اور سورہ نساء کی آیات کو ذکر کرنا اس امر کی صریح دلیل ہے کہ احادیث میں ان ہی مسح بن مریم کا نزول مراد ہے کہ جن کی توفی (انہائے جانے) اور رفع الی السماء کا قرآن میں ذکر ہے۔ حاشا وکلا قرآن کریم کے علاوہ احادیث میں کوئی دوسرے مسح مراد نہیں، دونوں جگہ ایک ہی ذات مراد ہے۔

ضروری نوٹ:- آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی سو سے زائد احادیث منقول ہیں جن سب کو امام العصر حضرت مولانا

سید انور شاہ کشمیری نے اپنی کتاب ”الصریح بما تواتر فی نزول مسیح“ میں ذکر فرمایا ہے، ان میں سے مندرجہ بالا چھ احادیث کا انتخاب اس لئے کیا گیا کہ ہر حدیث قادر یائیوں کے نظریہ کار دے ہے، مثلاً:

۱: پہلی حدیث میں عیسیٰ علیہ السلام کا دمشق کے مشرقی مینارہ پر اترنا، فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھ کر اترنا اور بابِ لد (جو فلسطین کے ایک گاؤں کا نام ہے) پر دجال کو قتل کرنے کا ذکر ہے۔

۲: دوسری حدیث میں عیسیٰ ابن مریم کے آسمان سے اترنے کی صراحت ہے۔

۳: تیسرا حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عیسیٰ بن مریم جن کے اور میرے درمیان کوئی نبی نہیں وہی نازل ہوں گے۔

۴: چوتھی حدیث میں ”لم بیت“ اور ”رجوع“ کا صراحت کے ساتھ ذکر ہے۔

۵: پانچویں حدیث میں نزول الی الارض کی صراحت ہے۔

۶: چھٹی حدیث میں ”یاً تی علیه الفنا“ کی تصریح ہے۔

ایک چیز: کتب احادیث میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا توباب ہے، ساری کائنات کے قادر یانی مل کر کسی حدیث کی کتاب سے وفات مسیح کا باب نہیں دھا سکتے۔

فائدہ: حضرت لدھیانوی شہیدؒ کا رسالہ ”نزول عیسیٰ علیہ السلام“ مندرجہ تحقیقہ قادر یائیت جلد اذل قابل دید ہے۔

سوال ۳: مرزا یوں کو اس مسئلہ سے کیوں دلچسپی

ہے؟ مرزا تو مدعی نبوت ہے، پھر ان کو مسئلہ حیات عیسیٰ علیہ السلام
سے کیا سروکار؟ وضاحت سے لکھیں؟

جواب: مرزا غلام احمد قادر یانی ابتداء میں خود حیات عیسیٰ علیہ السلام کا قائل تھا

اور قرآن مجید کی آیات سے مسح علیہ السلام کی حیات پر استدلال کرتا تھا۔
”یہ آیت (هو الذى ارسَلَ رَسُولَهُ) جسمانی اور سیاست مکنی

کے طور پر حضرت مسح کے حق میں پیشگوئی ہے، اور جس غلبہ کاملہ دین
اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسح کے ذریعہ سے ظہور میں آئے گا، اور
جب حضرت مسح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو
ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا۔“
(براہین احمدیہ ج ۱، روحانی خزانہ ج ۱ ص ۵۹۳، و مثلاً
بادنی تغیر چشمہ معرفت در روحانی خزانہ ج ۲۳ ص ۹۱)

حیات مسح علیہ السلام کا ابتدا میں مرزا قائل تھا، لیکن دعویٰ نبوت کے لئے اس نے
پندرہ مرحل طے کئے، پہلے خادم اسلام، پھر مبلغ اسلام، یا مور من اللہ، مجدد ہونے کے
دعوے کئے، اصل مقصود دعویٰ نبوت تھا منصوبہ بندی یہ کی کہ پہلے مثل مسح ہونے کا دعویٰ کیا
جائے، مسح بننے کے لئے حیات عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ رکاوٹ تھا، اس رکاوٹ کو دور کرنے
کے لئے وفات مسح کا عقیدہ تراشا، پھر کہا چونکہ احادیث میں مسح علیہ السلام کا آنا ثابت
ہے۔ وہ فوت ہو گئے ہیں، تو ان کی فگلہ میں مثل مسح بن کر آیا ہوں، اور میں ان سے افضل
ہوں، اس کا مشہور شعر ہے:

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو
اس سے بہتر غلام احمد ہے
(دلف البلاء ج ۲۳ روحانی خزانہ ج ۲۳ ص ۱۸)

جب مرزا اپنے خیال فاسد میں مسح بن گیا تو کہا کہ مسح علیہ السلام نبی تھے تو اب
مسح ثانی (مرزا قادریانی) جوان سے افضل ہے۔ وہ کیوں نبی نہیں؟ لہذا میں نبی ہوں،
اس طرح دجل کر کے محض نبوت کا دعویٰ کرنے کے لئے اس بنے وفات مسح کا عقیدہ

اختیار کیا۔ اصل میں وہ تدریجیاً دعویٰ نبوت کی طرف جا رہا تھا، تو یوں دجل در دجل کا مرتکب ہوتا گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ: ”میرے بعد جو نبوت کا دعویٰ کریں گے وہ دجال ہوں گے۔“

دجل: دھوکہ، تلبیس، حق و باطل کے اختلاط کا نام ہے، جو مرتضیٰ قادریانی میں بدرجہ اتم موجود تھا۔ اس دجال اعظم، مفتری اکبر نے اپنے دجل سے اسلام کے بنیادی عقیدہ ختم نبوت و حیات مسیح علیہ السلام پر اپنے الحاد و زندقہ کی کلہاڑی چلائی۔ معاذ اللہ۔

سوال ۲: قال اللہ تعالیٰ: ”واذ قال الله يعیسیٰ

انی متوفیک و رافعک الی“ اس کی صحیح تفسیر بیان کر کے حیات حضرت مسیح علیہ السلام کو ثابت کریں، مرزائی ”” توفی“ سے وفات مراد لیتے ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ سے بھی ”متوفیک“ کی تفسیر ”سمیتک“ منقول ہے۔ اور اس تائید میں مرزائی ”” توفنا مع الابرار، توفنا مع المسلمين“ کو بھی پیش کرتے ہیں، ان تمام امور کا شانی جواب تحریر کریں؟

جواب: ”واذ قال الله يعیسیٰ انی متوفیک و رافعک“ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع جسمانی ثابت ہے، یہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کی دلیل ہے، نہ کہ وفات عیسیٰ علیہ السلام کی ”” توفی وغیرہ کی کچھ بحث پہلے گزر چکی ہے مزید ملاحظہ ہو:

توفی کا حقیقی معنی:

الف: ”” توفی“ کا حقیقی معنی موت نہیں، اس لئے کہ اگر اس کا حقیقی معنی موت ہوتا، تو ضرور قرآن و سنت میں کہیں ”” توفی“ کو ”” حیات“ کے مقابل ذکر کیا جاتا، حالانکہ ایسا

کہیں نہیں ہے، بلکہ ”توفی“ کو ”مادمت فیهم“ کے مقابلہ میں رکھا گیا۔ معلوم ہوا کہ توفی کا حقیقی معنی موت نہیں۔ دیکھئے قرآن مجید میں جگہ جگہ موت و حیات کا تقابل کیا گیا ہے نہ کہ توفی و حیات کا۔ مثلاً الذی یحیی و یمیت، یحییکم ثم یمینکم، ہو امات و احیا، لا یموت فیها ولا یحیی، وبھی الموتی، اموات غیر احیا، یحیی الموتی، یحیی الارض بعد موتھا، تخرج الحی من المیت و تخرج الدیت من الدحی، یہ تقابل بتاتا ہے کہ تعرف، ان اشیاء باضدادہا کے تحت حیات کی ضد موت ہے توفی نہیں۔ توفی کو قرآن مجید میں مادمت فیهم کے مقابلہ میں لایا گیا：“وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَادِمْتَ فِيهِمْ فَلَمَا تَوَفَّيْتَنِي”۔ اس سے توفی کا حقیقی معنی سمجھا جاسکتا ہے کہ کیا ہے؟ اس کے لئے علامہ نشری کا حوالہ کافی ہو گا:

”اوْفَاهُ، اسْتَوْفَاهُ، تَوْفَاهُ اسْتَكْمَالٍ وَمِنَ الْمَحَازِ تَوْفِيٌ وَ

تَوْفَاهُ اللَّهِ ادْرَكَهُ الْلَّوْفَاهُ۔“

ترجمہ: ”اوْفَاهُ، اسْتَوْفَاهُ اور تَوْفَاهُ کے معنی اسْتَكْمَالٍ یعنی پورا لینے کے ہیں۔ توفی کو مجازاً موت کے معنی میں لایا جاتا ہے جیسے توفی اور تَوْفَاهُ اللَّهِ یعنی اس کی وفات، ہو گی۔“ اس حوالہ سے معلوم ہوا کہ توفی کا حقیقی معنی موت نہیں، البتہ مجازاً کہیں کہیں موت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔

ب: اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں ”امات“ کی اسناد اپنی طرف ہی فرمائی، غیر اللہ کی طرف ہرگز نہیں کی، جبکہ ”توفی“ کی اسناد ملائکہ کی طرف بھی اکثر موجود ہے، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ توفی کا حقیقی معنی موت نہیں۔ جیسے ”حتی اذا جاءء احد کم الموت توفته رسمنا“ یہاں پر توفی کی اسناد ملائکہ کی طرف کی گئی۔

ج: توفی کا حقیقی معنی موت نہیں جیسے قرآن مجید میں ہے: ”حتی یتوفهن

الموت ”یہاں تو قی اور موت کو مقابلہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ اب اس کے معنی ہوں گے کہ ان کو موت کے وقت پورا پورا لے لیا جاتا ہے۔ اگر تو قی کا معنی موت ہو تو پھر اس کا معنی تھا کہ: ”یسمیتہن الموت“ یہ کس قدر رکیک معنی ہوں گے، کلام الہی اور یہ رکا کرت؟ اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

د:..... توفی کا حقیقی معنی موت نہیں۔ قرآن مجید میں ہے:

”الله یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیها الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی“
(الزمر: ۴۲)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ نفوس کو لے لیتا ہے ان کی موت کے وقت اور ان نفوس کو جو نہیں مرے ان کو نیند میں لے لیتا ہے، پس وہ نفس جس کو موت وارد ہوتی ہے روک لیتا ہے اور دوسرے کو مقرر مدت تک چھوڑ دیتا ہے۔“

۱:..... یہاں پہلے جملہ میں توفی نفس کو حین موتها کے ساتھ مقید کیا ہے، معلوم ہوا توفی عین موت نہیں۔

۲:..... اور پھر توفی کو موت اور نیند کی طرف منقسم کیا ہے، لہذا انصا معلوم ہوا کہ توفی موت کے مغائر ہے۔

۳:..... نیز یہ کہ توفی، موت اور نیند دونوں کو شامل ہے، نیند میں آدمی زندہ ہوتا ہے، اس کی طرف توفی کی نسبت کی گئی، توفی بھی ہے اور آدمی زندہ ہے مرا نہیں۔ کیا یہ نص نہیں اس بات کی کہ توفی کا حقیقی معنی موت نہیں۔

خلاصہ بحث:

توفی کا حقیقی معنی پورا پورا لینے کے ہیں، ہاں البتہ بھی مجازاً موت کے معنی میں بھی توفی

کا استعمال ہوا ہے جیسے: ” توفیق الابرار، توفیق مسلمین، وغیرہ۔

ضروری تنبیہ:..... اگر کہیں کوئی لفظ کسی مجازی معنی میں استعمال ہو تو ہمیشہ کے لئے اس کے حقیقی معنی ترک نہیں کر دیجے جائیں گے۔ اگر کوئی ایسے سمجھتا ہے تو وہ قادر یا نی احمد ہی ہو سکتے ہیں ورنہ اصول صرف یہ ہے کہ مجازی معنی وہاں مراد لئے جائیں گے، جہاں حقیقی معنی حعذر ہوں یا عیسیٰ انی متوفیک میں حقیقی معنی پورا پورا لینے کے لئے جائیں گے۔ اور توفیق الابرار میں مجازی معنی (موت) کے کئے جائیں گے۔

حضرت ابن عباسؓ اور حیات عیسیٰ علیہ السلام:

الف:..... حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما پوری امت کی طرح حیات صحیح علیہ السلام کے قائل ہیں۔ آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد روایات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع و نزول و حیات کی روایت کی ہیں۔ ”النصرة بما تواتر في نزول الحج طبع ملتان“ کے ص ۱۸۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۸۳، ۲۷۹، ۲۷۳، ۲۳۵، ۲۲۳، ۲۲۲، ۲۸۹، ۲۸۱، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳ پر دوں روایات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع و نزول کی حضرت ابن عباسؓ کے حوالہ سے حضرت انور شاہ کشمیریؒ نے جمع فرمائی ہیں۔ من شاء فلیراجع۔

ب:..... متوفیک کے معنی میتک عبداللہ بن عباسؓ سے نقل کرنے والا راوی علی بن

ابی طلحہ ہے۔ (تفہیر ابن جریح ص ۲۹۰ ج ۳)

علماء اسماً الرجال نے اس کے متعلق ضعیف الحدیث، منکر، لیس بمحمود المذهب کے جملے فرمائے ہیں اور یہ کہ اس نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی زیارت بھی نہیں کی، درمیان میں مجاہد کا واسطہ ہے۔

(میزان الاعتدال ج ۵ ص ۱۶۳، تہذیب التہذیب ج ۳ ص ۲۱۳)

ربا یہ کہ پھر صحیح بخاری شریف میں یہ روایت کیسے آگئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ: امام

بخاری کا یہ التزام صرف احادیث مسندہ کے بارے میں ہے نہ کہ تعلیقات و آثار صحابہ کے ساتھ۔ چنانچہ فتح مغیث ص ۲۰ میں ہے:

”قول البخاری ما دخلت فى كتابى الا ماصح على،
مقصود به هو الاحدادى الصحيحه المسندة دون التعليق
والآثار الموقوفة على الصحابة فمن بعدهم والاحاديث
المترجمة بها ونحو ذلك۔“

ترجمہ: ”یعنی امام بخاری کے اس فرمان کا مطلب کہ میں نے اپنی کتاب میں صرف وہی ذکر کیا ہے جو صحیح سند سے ثابت ہے۔ اس سے مراد صرف احادیث صحیحہ مسندہ ہیں باقی تعلیقات اور آثار موقوفہ وغیرہ اس میں شامل نہیں۔ اس طرح وہ احادیث جو ترجمۃ الباب میں ذکر کی گئی ہیں وہ بھی مراد نہیں ہیں۔“

ن: حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے دوسری صحیح روایت میں اگرچہ تو نہیں موت موقول ہیں مگر اسی روایت میں کلمات آیت کے اندر تقدیم و تاخیر بھی صراحتاً مذکور ہے جس سے قادیانی گروہ کی خود بخود تردید ہو جاتی ہے۔

”اخراج ابن عساکر و اسحاق بن بشر عن ابن عباس“

قال قوله تعالى يعيسى انى متوفيك ورافعك الى يعني رافعك ثم متوفيك في آخر الزمان“ (درمنثور ص: ۳۶ ج ۲)

ترجمہ: ”یعنی ابن عساکر اور اسحاق بن بشر نے (بروایت صحیح)

ابن عباس سے روایت کی ہے کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ میں آپ کو اٹھانے والا ہوں اپنی طرف پھر آخر زمانہ میں (بعد زوال)

آپ کو موت رینے والا ہوں۔“

د:..... تفسیر ابن کثیر میں عبد اللہ ابن عباسؓ سے صحیح روایت منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر قتل کے زندہ آسمان پر اٹھائے گئے۔

”ورفع عیسیٰ من روزنة فی الْبَیْتِ إلی السَّمَااءِ هَذَا“

اسناد صحیح الی ابن عباس“

(تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۵۷۴ زیر آیت بل رفعہ اللہ)

ترجمہ: ”عیسیٰ علیہ السلام گھر کے روزن (روشن داں) سے (زندہ) آسمان کی طرف اٹھائے گئے، یہ انسا و ابن عباسؓ تک بالکل صحیح ہے۔“

سوال: ۵: سورہ آل عمران میں ارشاد خداوندی

ہے: ”ورافعك“ اور سورہ نساء میں فرماتے ہیں: ”بل رفعہ اللہ الیه“ دونوں مقامات پر قادریانی رفع سے مراد رفع روحانی یا رفع درجات لیتے ہیں، آپ ان کے موقف کا اس طرح رد کریں جس سے قادریانی دجل تار تار ہو جائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع جسمانی ثابت ہو؟

جواب: یہ بات بھی قادریانی دجل کا شاہکار ہے کہ وہ کہیں رافعک اور بل رفعہ اللہ میں رفع روح مراد لیتے ہیں، اور جب ان پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ تمہارے (قادریانی) عقیدہ کے مطابق تو صحیح علیہ السلام صلیب سے اتر کر زخم اچھے ہونے کے بعد

کشمیر چلے گئے اور تاسی سال بعد ان کی موت واقع ہوئی، تو موت کے بعد رفع روح ہوا، حالانکہ یہ قرآن کے اسلوب بیان کے خلاف ہے اس لئے کہ چاروں وعدوں میں سے تین وعدے جو براہ راست صحیح علیہ السلام کی ذات (جسم) مبارک سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک ہی وقت میں ایک ساتھ ان کا ایقاء ہوا۔ تو قادریانی مجبوراً پھر اس سے فوراً رفع درجات پر آ جاتے ہیں جس طرح قادریانیوں کو ایمان کا قرار (سکون) نصیب نہیں اس طرح ان کے موقف کو بھی قرار نہیں وہ اپنا موقف بدلتے رہتے ہیں کبھی رفع روح مراد لیتے ہیں، کبھی رفع درجات مراد لیتے ہیں حالانکہ یہ دونوں موقف غلط ہیں۔

۱: یہ امر روز روشن کی طرح واضح ہے کہ ”بل رفعه اللہ“ کی ضمیر اسی طرف راجع ہے کہ جس طرف ”قتلوہ“ اور ”صلبوہ“ کی ضمیریں راجع ہیں اور ظاہر ہے کہ ”قتلوہ“ اور ”صلبوہ“ کی ضمیریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم مبارک اور جسد مطہر کی طرف راجع ہیں۔ روح بلا جسم کی طرف راجع نہیں۔ اس لئے کہ قتل کرنا اور صلیب پر چڑھانا جسم ہی کا ممکن ہے۔ روح کا قتل اور صلیب پر لٹکانا قطعاً ناممکن ہے۔ لہذا ”بل رفعه“ کی ضمیر اسی جسم کی طرف راجع ہوگی جس جسم کی طرف ”قتلوہ“ اور ”صلبوہ“ کی ضمیریں راجع ہیں۔

۲: دوم یہ کہ یہود روح کے قتل کے مدعی نہ تھے بلکہ قتل جسم کے مدعی تھے اور ”بل رفعه اللہ الیہ“ سے اس کی تردید کی گئی ہے۔ لہذا بل رفعہ میں رفع جسم ہی مراد ہوگا، اس لئے کلکہ بل کلام عرب میں ما قبل کے ابطال کے لئے آتا ہے۔ لہذا بل کے ما قبل اور ما بعد میں مناقات اور تضاد کا ہونا ضروری ہے جیسا کہ ”وقالوا اتخد الرحمن ولداً سبحنه بل عباد مکرمون“، ”ولدیت اور عبودیت میں مناقات ہے“ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، ”ام یقولوں به جنة بل جاء هم بالحق“، ”محنو نیست اور ایمان بالحق“ (یعنی من جانب اللہ حق کو لے کر آنا) یہ دونوں متضاد اور متناقض ہیں کیجا جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ ناممکن ہے کہ شریعت حقہ

کالا نے والا مجنون ہو۔ اسی طرح اس آیت میں یہ ضروری ہے کہ مقتولیت اور مصلوبیت جو بل کا مقابل ہیں وہ مرفوعیت الی اللہ کے منافی ہو جوبل کا مابعد ہے اور ان دونوں کا وجود اور تحقق میں جمع ہونا ناممکن ہونا چاہئے اور ظاہر ہے کہ مقتولیت اور روحانی رفع بمعنی موت میں کوئی مناقات نہیں بخشن روح کا آسمان کی طرف اٹھایا جاتا قتل جسمانی کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے جیسا کہ شہداء کا جسم قتل ہو جاتا ہے اور روح آسمان پر اٹھائی جاتی ہے، لہذا ضروری ہوا کہ بل رفعہ اللہ میں رفع جسمانی مراد ہو کہ جو قتل اور صلب کے منافی ہے، اس لئے کہ رفع روحانی اور رفع عزت اور رفت شان قتل اور صلب کے منافی نہیں بلکہ جس قدر قتل اور صلب ظلمہ ہوگا، اسی قدر عزت اور رفت شان میں اضافہ ہوگا، اور درجات اور زیادہ بلند ہوں گے۔ رفع درجات کے لئے تو موت اور قتل کچھ بھی شرط نہیں۔ رفع درجات زندہ کو بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ کما قال تعالیٰ: ”ورفعناك ذكرك“ اور ”يرفع الله الذين آمنوا منكم والمذين ا Otto العلم درجات“ ہے۔

۳: یہود حضرت مسیح علیہ السلام کے جسم کے قتل اور صلب کے مدعی تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ابطال کے لئے بل رفعہ اللہ فرمایا، یعنی تم غلط کہتے ہو کہ تم نے اس کے جسم کو قتل کیا، یا صلیب پر چڑھایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو صحیح و سالم آسمان پر اٹھایا، نیز اگر دفعہ سے رفع روح بمعنی موت مراد ہے تو قتل اور صلب کی نفی سے کیا فائدہ؟ قتل اور صلب سے غرض موت ہی ہوتی ہے اور بل اضراعیہ کے مابعد کو بصیرہ ماضی لانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ رفع الی السماء باعتبار مقابل کے امر ماضی ہے۔ یعنی تمہارے قتل اور صلب سے پہلے ہی ہم نے ان کو آسمان پر اٹھایا۔ جیسا کہ بل جاءہ ہم بالحق میں صیغہ ماضی اس لئے لایا گیا کہ یہ بتلا دیا جائے کہ آپ کا حق کو لے کر آنا کفار کے مجنون کہنے سے پہلے ہی واقع ہو چکا ہے۔ اسی طرح بل رفعہ اللہ بصیرہ ماضی لانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ رفع الی السماء ان کے مزعوم اور خیالی قتل اور صلب سے پہلے ہی واقع ہو چکا ہے۔

۲:..... جس جگہ لفظ رفع کا مفعول یا متعلق جسمانی شے ہوگی تو اس جگہ یقیناً جسم کا رفع مراد ہوگا، اور اگر رفع کا مفعول اور متعلق درجہ یا منزلہ یا مرتبہ یا امر معنوی ہو تو اس وقت رفع مرتبہ اور بلندی رتبہ کے معنی مراد ہوں گے۔ کما قال تعالیٰ: ”ورفعنا فوقكم العطور“ اٹھایا ہم نے تم پر کوہ طور ”اللہ الذی رفع السموات بغير عمداترونها“ اللہ ہی نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ ”واذ يرفع ابراهیم القواعد من الیت واسمعیل“ یاد کرو اس وقت کو کہ جب ابراہیم بیت اللہ کی بیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل ان کے ساتھ تھے۔ ”ورفع ابویہ علی العرش“ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت کے اوپر بٹھایا۔ ان تمام مواقع میں لفظ رفع اجسام سے مستعمل ہوا ہے اور ہر جگہ رفع جسمانی مراد ہے اور رفع بالک ذکر کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا اور رفعنا بعضہم فوق بعض درجات ہم نے بعض کو بعض پر درجہ اور مرتبہ کے اعتبار سے بلند کیا۔ اس قسم کے مواقع میں رفتہ شان اور بلندی رتبہ مراد ہے۔ اس لئے کہ رفع کے ساتھ خود کراور درجہ کی قید یعنی قرینہ نہ کو رہے۔

قادیانی اشکال:

ایک حدیث میں ہے:

”اذا تواضع العبد رفعه الله الى السماء السابعة“
 (کنز العمال ص ۱۱۷ حدیث نمبر ۵۷۵ جواہر الخاطی فی مکارم الاخلاق)
 ترجمہ: ”جب بندہ تواضع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ساتویں آسمان پر اٹھایتے ہیں۔“ اس حدیث کو خرائطی نے اپنی کتاب مکارم الاخلاق میں ابن عباس سے روایت کیا ہے۔

(کنز العمال ج ۳ ص ۱۱۰ حدیث ۵۷۲۰)

اس روایت کو مرزا ای. بہت خوش ہو کر بطور اعتراض پیش کیا کرتے ہیں کہ رفع کا مفعول

جسمانی شے ہے اور الی النساء کی بھی تصریح ہے، مگر باوجود اس کے رفع سے، رفع جسمی مراد نہیں بلکہ رفع معنوی مراد ہے۔

جواب: یہ ہے کہ یہاں مجاز کے لئے قرینہ عقلیہ قطعیہ موجود ہے کہ یہاں زندہ کے حق میں ہے جو لوگوں کے سامنے زمین پر چلتا ہے اور تو اوضع کرتا ہے تو اس کا مرتبہ اور درجہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ساتویں آسمان کے برابر بلند اونچا ہے، ظاہر ہے کہ یہاں رفع جسم مراد نہیں بلکہ رفع درجات مراد ہے۔ غرض یہ کہ رفع کے معنی بلندی رتبہ مجاز ابوجہ قرینہ عقلیہ لئے گئے اور اگر کسی کم عقل کی سمجھ میں یہ قرینہ عقلیہ نہ آئے تو اس کے لئے قرینہ قطعیہ بھی موجود ہے، وہ یہ کہ کنز العمال میں روایت مذکورہ کے بعد ہی علی الاتصال یہ روایت مذکور ہے : ”من يتواضع لله درجة يرفعه الله درجة حتى يجعله في عليين“ یعنی جس درجہ کی تواضع کرے گا، اسی کے مناسب اللہ اس کا درجہ بلند فرمائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ تواضع کے آخری درجہ پر پہنچ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو علیین میں جگہ دیں گے، جو علو اور رفت کا آخری مقام ہے۔ اس حدیث میں صراحتاً لفظ درجہ کا مذکور ہے اور قاعدة مسلمہ ہے الحدیث یفسر بعضہ بعضہ ایک حدیث کی تفسیر اور شرح کرتی ہے۔

خلاصہ یہ کہ رفع کے معنی توانا نے اور اوپر لے جانے کے ہیں، لیکن وہ رفع کبھی اجسام کا ہوتا ہے اور کبھی معانی اور اعراض کا ہوتا ہے اور کبھی اقوال اور افعال کا، اور کبھی مرتبہ اور درجہ کا جہاں رفع اجسام کا ذکر ہوگا، وہاں رفع جسمی مراد ہوگا اور جہاں رفع اعمال اور رفع درجات کا ذکر ہوگا وہاں رفع معنوی مراد ہوگا۔ رفع کے معنی توانا نے اور بلند کرنے ہی کے ہیں، باقی جسمی شے ہوگی اس کا رفع اسی کے مناسب ہوگا۔

۵: یہ کہ اس آیت کا صریح مفہوم اور مدلول یہ ہے کہ جس وقت یہود نے حضرت مسیح کے قتل اور صلب کا ارادہ کیا تو اس وقت قتل اور صلب نہ ہو۔ کا بلکہ اس وقت حضرت مسیح کا اللہ کی طرف رفع ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ یہ رفع جس کا بل رفع اللہ میں ذکر ہے حضرت میسیح کو پہلے سے

حاصل نہ تھا بلکہ یہ رفع اس وقت ظہور میں آیا کہ جس وقت یہودان کے قتل کا ارادہ کر رہے تھے اور وہ رفع جوان کو اس وقت حاصل ہوا وہ یہ تھا کہ اس وقت بحمدہ العصری صحیح و سالم آسمان پر اٹھائے گئے، رفت شان اور بلندی مرتبہ کو ان کو پہلے ہی سے حاصل ہی اور وجہا فی الدنیا ولا آخرة و من المقربین کے لقب سے پہلے ہی سرفراز ہو چکے تھے۔ لہذا اس آیت میں وہی رفع مراد ہو سکتا ہے کہ جوان کو یہود کے ارادہ قتل کے وقت حاصل ہوا یعنی رفع جسمی اور رفع عزت و منزلت اس سے پہلے ہی ان کو حاصل تھا، اس مقام پر اس کا ذکر بالکل بے محل ہے۔

۶:..... یہ کہ یہود کی ذلت و رسولی اور حسرت اور ناکامی اور عیسیٰ علیہ السلام کی کمال عزت و رفت بحمدہ العصری صحیح و سالم آسمان پر اٹھائے جانے ہی میں زیادہ ظاہر ہوتی ہے۔ نیز یہ رفت شان اور علم مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مخصوص سنبھیں، زندہ اہل ایمان اور زندہ اہل علم کو بھی حاصل ہے۔ کما قال تعالیٰ: ”یسرفع الله لیکم اور اہل علم کو باقیار درجات کے۔

..... یہ کہ اگر آیت میں رفع روحانی بمعنی موت مراد ہو تو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ رفع روحانی بمعنی موت یہود کے قتل اور صلب سے پہلے واقع ہوا جیسا کہ: ”ام يقولون به نجنة بل جاءهم بالحق، ويقولون أهنا لنار كوا الهتنا للشاعر محنتون، بل جاءء بالحق“، ان آیات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کو لے کر آنان کے شاعر اور مجنون کہنے سے پہلے واقع ہوا اسی طرح رفع روحانی بمعنی موت کو ان کے قتل اور صلب سے مقدم ماننا پڑے گا، حالانکہ مرزا صاحب اس کے قائل نہیں۔ مرزا صاحب تو (العياذ بالله) یہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یہود سے خلاص ہو کر فلسطین سے کشیر پہنچے اور عرضہ و راز تک بقید حیات رہے اور اسی عرصہ میں اپنے زخموں کا علاج کرایا اور پھر طویل مدت کے بعد یعنی ستائی سال زندہ رہ کر وفات پائی اور سری نگر کے محلہ خان یار

میں محفوظ ہوئے اور وہیں آپ کا مزار ہے۔ لہذا مرزا صاحب کے زعم کے مطابق عبارت اس طرح ہونی چاہئے تھی: ”وما قتلوه بالصلیب بل تخلص منهم وذهب الی کشمیر واقام فيهم مدة طولية ثم اماته الله ورفع اليه“۔

۸: یہ کہ رفع روحانی بمعنی موت لینے سے و کان اللہ عزیزاً حکیماً کے ساتھ مناسب نہیں رہتی۔ اس لئے کہ عزیز اور حکیم اور اس قسم کی ترکیب اس موقع پر استعمال کی جاتی ہے کہ جہاں کوئی عجیب و غریب اور خارق العادات امر پیش آیا ہو، اور وہ عجیب و غریب امر جو اس مقام پر پیش آیا وہ رفع جسمانی ہے۔ یہ خیال نہ کیا جائے کہ جسم عصری کا آسمان پر جانا محال ہے، وہ عزت والا اور غلبہ والا اور قدرت والا ہے اس کے لئے یہ کوئی مشکل کام نہیں اور نہ یہ خیال کرے کہ جسم عصری کا آسمان پر اٹھایا جانا خلاف حکمت اور خلاف مصلحت ہے، وہ حکیم ہے اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں، دشمنوں نے جب حضرت مسیح پر ہجوم کیا تو اس نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھلا دیا کہ اپنے نبی کو آسمان پر اٹھایا اور جو شمن قتل کے ارادہ سے آئے تھے انہی میں سے ایک کو اپنے نبی کا ہم شکل اور شبیہ بنایا کر انہیں کے ہاتھ سے اس کو قتل کر دیا اور پھر اس شبیہ کے قتل کے بعد ان سب کو شبیہ اور اشتباہ میں ڈال دیا۔

رفع کے معنی عزت کی موت نہ کسی لغت سے ثابت ہے نہ کسی محاورہ سے اور نہ کسی فن کی اصطلاح سے، محض مرزا صاحب کی اختراع ہے۔ البتہ رفع کا لفظ محض اعزاز اور رفع جسمانی کے منافی نہیں اعزاز اور رفع جسمانی دونوں جمع ہو سکتے ہیں نیز اگر رفع سے عزت کی موت مراد ہو تو نزول سے ذلت کی پیدائش مراد ہونی چاہئے، اس لئے کہ حدیث میں نزول کو رفع کا مقابل قرار دیا ہے اور ظاہر ہے کہ نزول کے یہ معنی مرزا صاحب کے ہی مناسب ہیں۔

۹: رہا پا امر کہ آیت میں آسمان پر جانے کی کوئی تصریح نہیں۔ سواں کا جواب یہ

ہے کہ بل رفعہ اللہ الیہ (اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو اپنی طرف انھالیا) اس کلام کے معنی یہ ہیں کہ اللہ نے آسمان پر انھالیا جیسا کہ: ”تعرج الملائکہ والروح الیہ“ کے معنی یہ ہیں کہ: فرشتے اور روح الامین اللہ کی طرف چڑھتے ہیں یعنی آسمان پر۔ و قال تعالیٰ: ”الیہ یصعد الكلم الطیب والعمل الصالح یرفعه“، اللہ ہی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ عمل صالح کو اپنے انھاتا ہے یعنی آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ اس طرح بل رفعہ اللہ الیہ میں آسمان پر انھالیا جانا مراد ہوگا، اور جس کو خدا نے تعالیٰ نے ذرا بھی عقل دی ہے وہ سمجھ سکتا ہے بل رفعہ اللہ الیہ کے یہ معنی کہ خدا نے ان کو عزت کی موت دی، یہ معنی جس طرح لغت کے خلاف ہیں اسی طرح سیاق و سماق کے بھی خلاف ہیں۔ اس طرح کہ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے باسنا صحیح یہ منقول ہے:

”لَمَّا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَ عِيسَىَ إِلَى السَّمَاوَاتِ“

(تفسیر ابن کثیر ص ۲۷۵ فوج از یہ آیت بل رفعہ اللہ)

”جَبَ اللَّهُ تَعَالَى نَّهَى عِيسَىَ عَلَيْهِ السَّلَامَ كَوْ آسَمَانَ كَيْ طَرْفَ

انھانے کا ارادہ فرمایا ایں آخراً القصہ“

اس کے علاوہ متعدد احادیث میں آسمان پر جانے کی تصریح موجود ہے وہ احادیث ہم

”نقل کرچکے ہیں۔

۱۰.....مرزا قادیانی نے لکھا ہے:

”لہذا یہ امر ثابت ہے کہ رفع سے مراد اس جگہ موت ہے، مگر

ایسی موت جو عزت کے ساتھ ہو جیسا کہ مقربین کے لئے ہوتی ہے

کہ بعد موت ان کی رو جیں علیمین تک پہنچائی جاتی ہیں:

”فِي مَقْعِدِ صَدْقَةٍ عِنْدَ مَلِيكِ مَقْنَدِرٍ“

(از الہ اوہام ص ۵۹۹ خورد، روحا نی خزانہ ص ۳۲۳ ج ۳)

مرزا صاحب کا یہ کہنا کہ رفع سے ایسی موت مراد ہے جو عزت کے ساتھ ہو جیسے مقربین کی موت ہوتی ہے کہ ان کی رو جیں مرنے کے بعد علمین تک پہنچ جاتی ہیں۔ اس عبارت سے خود واضح ہے کہ بل رفعہ اللہ سے آسمان پر جانا مراد ہے۔ اس لئے کہ علمین اور ”مقدد صدق“ تو آسمان ہی میں ہیں۔ بہر حال آسمان پر جانا تو مرزا صاحب کو بھی تسلیم ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ آسمان پر حضرت مسیح بن مریم کی فقط روح گئی یا روح اور جسد دونوں گئے، سو یہ ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ آیت میں بحسبہ العصری رفع مراد ہے۔

سوال ۶: نزول مسیح کے دلائل ذکر کرتے ہوئے

مرزا کے اس استدلال فاسدہ کا رد کریں کہ ”میں مثیل مسیح ہوں“ نیز ثابت کریں کہ نزول مسیح کا عقیدہ، عقیدہ ختم نبوت کے منافی نہیں؟

جواب: آیات قرآنیہ سے نزول عیسیٰ کا ثبوت:

نزول عیسیٰ کا مضمون دو آیتوں میں اشارۃ قریب بصراحت کے موجود ہے:

”وَانْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُ بِهِ قَبْلِ مَوْتِهِ۔“

(نساء: ۱۵۹)

ترجمہ: ”اور اہل کتاب میں سے کوئی نہ رہے گا مگر وہ حضرت عیسیٰ پر ان کی موت سے پہلے ضرور ایمان لائے گا۔“

”وَإِنْ هُوَ لِعِلْمٍ لِلْمُسَاعِدِ“
(ز حرف: ۶۱)

ترجمہ: ”اور ٹھیک وہ قیامت کی ایک نشانی ہیں۔“

چنانچہ ملائی قاری فرماتے ہیں:

”ونزول عیسیٰ من السماء كما قال الله تعالى وانه اى

عیسیٰ لعلم للساعة اى علامۃ القيامة و قال الله تعالى و ان
من اهل الكتاب الا لیؤمن به قبل موته اى قبل موت عیسیٰ
بعد نزوله عند قیام الساعة فيصير الملل واحدة و هي ملة
الاسلام۔“ (شرح فقہ کبر ۱۳۶)

ترجمہ: ”آسمان سے نزول عیسیٰ قول باری تعالیٰ کہ عیسیٰ
قیامت کی علامت ہیں، سے ثابت ہے، نیز اس ارشاد سے ثابت
ہے کہ اہل کتاب ان کی آسمان سے تشریف آوری کے بعد اور موت
سے پہلے قیامت کے قریب ان پر ایمان لا میں گے، پس ساری ملتیں
ایک ہو جائیں گی اور وہ ملت ملت اسلام ہے۔“

بہر حال اس حدیث سے ثابت ہوا کہ قبل موتہ میں ضمیر کا مرجع حضرت عیسیٰ علیہ
السلام ہیں جیسا کہ لیومنن بہ میں ضمیر کا مرجع حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ چنانچہ
”ارشاد الساری“ شرح بخاری میں ہے:

”وان من اهل الكتاب احد الا لیؤمن عیسیٰ قبل
موت عیسیٰ وهم اهل الكتاب الذين یکونون فی زمانه ف تكون
الملة واحدة وهي ملة الاسلام وبهذا حزم ابن عباس فيما رواه
ابن حریر من طريق سعید بن جبیر عنه باسناد صحيح۔“

(ارشاد الساری ص ۵۱۸، ۵۱۹ ج ۵)

ترجمہ: ”یعنی اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہ ہو گا مگر حضرت
عیسیٰ علیہ السلام پر عیسیٰ کی موت سے پہلے ایمان۔ے آئے گا، اور وہ
اہل کتاب ہوں گے جو ان (حضرت عیسیٰ) کے زمانہ (نزول) میں

ہوں گے، پس صرف ایک ہی ملت اسلام ہو جائے گی۔ اور حضرت ابن عباسؓ نے اس پر جزم کیا ہے، اس روایت کے مطابق جو ابن جریر نے ان سے سعید ابن جبیر کے طریق سے صحیح اسناد کے ساتھ روایت کی۔“

حیات و نزول عیسیٰ پر امت کا اجماع ہے:

آیات کریمہ و احادیث مرفوعہ متواترہ کی بناءً پر حضرات صحابہؓ سے لے کر آج تک امت کا حیات و نزول عیسیٰ علیہ السلام کے قطعی عقیدہ پر اجماع چلا آ رہا ہے۔ ائمہ دین میں کسی سے بھی اس کے خلاف مروی نہیں ہے۔ معتزلہ جو بہت سے مسائل کلامیہ میں الہ سنت و الجماعت سے اختلاف رکھتے ہیں، ان کا عقیدہ بھی یہی ہے جیسا کہ کشاف میں علامہ زختری نے اس کی تشریع کی ہے۔ چنانچہ ابن عطیہؓ فرماتے ہیں:

”حیاة المُسیح بِحُسْنِهِ الی الیوم و نزوله من السماء“

بحسنہ العنصری هما اجمع علیہ الامۃ و تو اترہ الاحادیث۔“

ترجمہ: ”تمام امت مسلمہ کا اس پر اجماع ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام

اس وقت آسمان پر زندہ ہیں اور قرب قیامت میں بحکم عصری پھر

”ترشیف لانے والے ہیں، جیسا کہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔“

یہ ایک سو سے زیادہ احادیث میں صحابہ کرامؓ سے مختلف انداز سے مروی ہیں جن کے

اسماء گرامی یہ ہیں:

(۱) حضرت ابو ہریرہؓ، (۲) حضرت جابر بن عبد اللہؓ، (۳) حضرت نواس بن

سعانؓ، (۴) حضرت ابن عمرؓ، (۵) حضرت حذیفہ بن اسیدؓ، (۶) حضرت ثوبانؓ،

(۷) حضرت مجعہؓ، (۸) حضرت ابو مامہؓ، (۹) حضرت ابن مسعودؓ، (۱۰) حضرت ابو نظرؓ،

(۱۱) حضرت سرہ، (۱۲) حضرت عبد الرحمن بن خبیر، (۱۳) حضرت ابو طفیل، (۱۴) حضرت انس، (۱۵) حضرت واٹلہ، (۱۶) حضرت عبد اللہ بن سلام، (۱۷) حضرت ابن عباس، (۱۸) حضرت اویس، (۱۹) حضرت عمران بن حصین، (۲۰) حضرت عائشہ، (۲۱) حضرت سفینہ، (۲۲) حضرت حذیفہ، (۲۳) حضرت عبداللہ بن مغفل، (۲۴) حضرت عبد الرحمن بن سرہ، (۲۵) حضرت ابوسعید خدری، (۲۶) حضرت عمر، (۲۷) حضرت ریش، (۲۸) حضرت عروہ بن رومی، (۲۹) حضرت حسن، (۳۰) حضرت کعب۔

ان حضرات کی تفصیلی روایات "القریح بما تواتر في نزول الحج" میں ملاحظہ کی جائیں۔ یہ کتاب درحقیقت زہری وقت حضرت علامہ انور شاہ کشمیری قدس سرہ سابق صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند کی املاکردوہ ہے، جس کو ان کے شاگرد رشید حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب "مفتی اعظم پاکستان" نے بہترین انداز میں مرتب فرمائی اسلام کی ایک گران قدر خدمت انجام دی ہے۔ (جزء اہ اللہ وافی) اور اس کتاب پر اس زمانہ کے محقق نامور عالم حضرت شیخ عبدالفتاح ابو عونہ نے تحقیقی کام کیا ہے اور مزید تلاش و جستجو کے بعد میں احادیث کا اضافہ "استدرائک" کے نام سے فرمایا ہے۔ حضرت لدھیانوی شہید کا رسالہ "نزول عیسیٰ علیہ السلام" مشمول تحفہ قادیانیت جلد سوم قارئین کیلئے مفید ہو گا۔

جادو وہ جو سرچڑھ کر بولے:

حضرت مسیح ابن مریم علیہما السلام کا نزول احادیث متواترہ سے ثابت ہونا۔۔۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ خود مرز اصحاب بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:

"یہ بات پوشیدہ نہیں کہ مسیح ابن مریم کے آنے کی پیشگوئی ایک اول درجہ کی پیشگوئی ہے جس کو سب نے باتفاق قبول کر لیا ہے اور جس قدر صحاح میں پیشگوئیاں لکھی گئی ہیں؛ اس کے ہم پہلو اور ہم

وزن ثابت نہیں ہوتی۔ تو اتر کا اول درجہ اس کو حاصل ہے۔“

(ازالہ اوہام ص ۲۳)

اس سے چند سطیریں پہلے مرزا صاحب اپنی اسی کتاب میں لکھتے ہیں:

”حال کے نیچری جن کے دلوں میں کچھ عظمت قال اللہ اور

قال الرسول کی باتی نہیں رہی یہ بے اصل خیال پیش کرتے ہیں کہ جو

مسح ابن مریم کے آنے کی خبریں صحابہ میں موجود ہیں یہ تمام خبریں

غلط ہیں..... لیکن وہ اس قدر متواترات سے انکار کر کے اپنے ایمان

کو خطرہ میں ڈالتے ہیں۔“ (ازالہ اوہام ص ۲۳)

یہ الگ بات ہے کہ مرزا صاحب ان احادیث کو توڑ مروڑ کر مسح موعود کا مصدق اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔

مثیل مسح کا قادریانی ڈھونگ:

ایک بے سروپا بات ہے، پیدائش مسح سے رفع تک اور نزول سے وفات تک وہاں کسی

ایک بات میں مرزا قادریانی کو ماثلت نہیں۔ مسح علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ ساری

عمر مکان نہیں بنایا، ساری عمر شادی نہیں کی، نزول کے بعد حاکم، عادل ہوں گے، دجال کو قتل

کریں گے، ان کے زمانہ میں تمام ادیان باطلہ مست جائیں گے۔ صلیب پرستی کا خاتمہ ہو کر خدا

پرستی رہ جائے گی، دمشق جائیں گے بیت المقدس جائیں گے، حج کریں گے، عمرہ کریں گے،

مدینہ طیبہ حاضری دیں گے، نزول کے بعد پینتالیس سال زندہ رہ کر پھر وفات پائیں گے۔ یہ

چند بڑی، بڑی علامات ہیں۔ ان میں سے ایک بھی مرزا قادریانی میں نہ پائی جاتی تھی۔ اس کے

باوجود دعویٰ مثیل ہونے کا کیا اس سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی ڈھنائی ہو سکتی ہے؟

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول عقیدہ ختم نبوت کے منافی نہیں:

مرزا سیفی کی تمام تربیاد جمل و فریب پر ہے۔ چنانچہ وہ اس جگہ مسلمانوں کو دھوکہ

دینے کے لئے ایک اعتراض پیش کرتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ تشریف آوری کے بعد منصب نبوت پر فائز ہوں گے یا نہیں؟ اگر وہ بحیثیت نبی آئیں گے تو ختم نبوت پر زد پڑتی ہے، اگر نبی نہیں ہوں گے تو ایک نبی کا نبوت سے معزول ہونا لازم آتا ہے اور یہ بھی اسلامی عقائد کے خلاف ہے، تو سنئے:

جواب:..... علامہ محمود آلویؒ نے اپنی تفسیر ”روح العالمی“ میں لکھا ہے:

”وَكُونَهُ خَاتِمُ الْأَنبِيَاءِ إِلَّا يَنْبَأُ أَحَدٌ بَعْدَهُ وَأَمَا عِيسَىٰ

”مِنْ نَبِيٍّ قَبْلَهُ“

۱:..... آپ کے خاتم الاعبیا ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ کے بعد کسی شخص کو نبی نہیں بنایا جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام تو آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی بنائے جا چکے۔ پس عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری رحمت عالم کی ختم نبوت کے منافی نہیں۔ آپ وصف نبوت کے ساتھ اس دنیا میں سب سے آخر میں متصف ہوئے، اب کوئی شخص وصف نبوت حاصل نہیں کر سکے گا، نہ یہ کہ پہلے کے سارے نبی فوت ہو گئے۔

۲:..... پہلے حوالہ گزر چکا ہے کہ مرزا قادیانی اپنے آپ کو اپنے والدین کے لئے خاتم الاولاد کہتا ہے حالانکہ اس کا بڑا بھائی مرزا غلام قادر زندہ تھا۔ مرزا غلام قادر کے زندہ ہونے کے باوجود اگر مرزا کے خاتم الاولاد ہونے میں کوئی فرق نہیں آیا تو عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے سے رحمت عالم کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا۔

۳:..... ابن عساکر میں حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا:

”اَخْرُولَدُكَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ“

(کنز العمال ص ۳۵۵ ج ۱۱ حدیث نمبر ۱۳۹ بحوالہ ابن عساکر)

ترجمہ: ”انہیاً میں سے آپ کے آخر الولاد ہیں۔“

اس حدیث نے بالکل صاف کر دیا کہ خاتم النبین کی مراد یہی ہے کہ آپ انہیاً میں سے آخر الولاد ہیں، اور یہ معنی کسی نبی کے باقی رہنے کا معارض نہیں، وہندما آپ کا آخر الاعبیاً و خاتم الاعبیاً ہونا نزول عیسیٰ علیہ السلام کے کسی طرح مخالف نہیں ہو سکتا۔

:.....مرزا قادیانی اپنی کتاب تریاق القلوب صفحہ ۱۵۶ خزانہ جلد ۱۵ صفحہ ۳

۳۷۹ پر لکھتا ہے:

”ضرور ہوا کہ وہ شخص جس پر بکمال و تمام دورہ حقیقت آدمیہ ختم ہو وہ خاتم الولاد ہو، یعنی اس کی موت کے بعد کوئی کامل انسان کسی عورت کے پیٹ سے نہ لکل۔“

جب خاتم الولاد کے معنی مرزا صاحب کے نزدیک یہ ہیں کہ عورت کے پیٹ سے کوئی کامل انسان اس کے بعد پیدا نہ ہو تو خاتم النبین کے بھی یہ معنی کیوں نہ ہوں گے کہ آپ کے بعد کوئی نبی عورت کے پیٹ سے پیدا نہ ہوگا۔ جس سے تین فائدے حاصل ہوئے، اول تو یہ کہ ختم نبوت اور نزول مسیح علیہ السلام میں تعارض نہیں، خاتم النبین چاہتا ہے کہ عورت کے پیٹ سے اس کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہو، اور مسیح علیہ السلام آپ سے پہلے پیدا ہو چکے ہیں۔ دوسرا یہ بھی صاف معلوم ہوا کہ اگر مرزا صاحب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں تو ان کی نبوت خاتم النبین کے خلاف ہے۔ تیسرا یہ بھی متعین ہو گیا کہ جس مسیح کے نزول کی خبر احادیث میں دی گئی ہے وہ اس وقت ماں کے پیٹ سے پیدا نہ ہوں گے، ورنہ خاتم النبین کے خلاف ہو گا اور اس بنا پر مرزا صاحب مسیح موعود بھی نہیں ہو سکتے۔ مکروضخ ہو کہ آپ کے بعد کسی نبی کے نہ آنے کا یہ مطلب ہے کہ کسی کو آپ کے بعد منصب نبوت پر فائز نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آپ کی آمد سے صدیوں پہلے منصب نبوت پر فائز ہو چکے ہیں۔

ذکرورہ بالا اعتراض کا ایک عقلی جواب بھی سن لجئے، ایک شخص کسی ملک کا فرمایا روا ہے

وہ کسی دوسرے ملک کے سرکاری دورے پر جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ اپنی صدارت باوشاہی یا وزارت عظمیٰ کے منصب سے معزول نہیں ہوا لیکن دوسرے ملک میں جا کر اس کا حکم نہیں چلے گا، وہاں پر حکم اسی ملک کے صدر یا وزیر اعظم کا چلے گا، اسی طرح پر حضرت عیسیٰ مسیح ابن مریم علیہما السلام جب تشریف لا میں گے تو وہ منصب نبوت سے معزول نہیں ہوں گے لیکن جیسا کہ قرآن پاک میں فرمادیا گیا ہے: ”وَرَسُولًا إِلَى بَنِ إِسْرَائِيلَ“ ان کی رسالت بنی اسرائیل کے لئے تھی۔ اب امت محمدیہ میں ان کی نبوت کا قانون نافذ نہیں ہوگا۔ امت محمدیہ پر قانون سید الاعبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا نافذ ہوگا، یہ الگ بات ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد سے یہود کی بھی اصلاح ہو جائے گی اور نصاریٰ کی غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی۔ یوں وہ سب دین قیم (اسلام) کے حلقوں گوش ہو جائیں گے اور ”لیظہرہ علی الدین کلمہ“ کا فرمان پورا ہو جائے گا۔

سوال ۷:حضرت مہدی و مسیح علیہم السلام کی آمد اور
وجال کے خروج کے متعلق اسلامی نقطہ نظر بیان کرتے ہوئے،
قادیانی تلبیس اور اس کا رد کریں۔

جواب:مہدی علیہ الرضوان:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں سیدنا مہدی علیہ الرضوان کے ظہور کی مندرجہ ذیل شاخت بیان کی گئی ہیں:

(۱) حضرت فاطمہؓ کی اولاد سے ہوں گے، (۲) مدینہ طیبہ کے

اندر پیدا ہوں گے، (۳) والد کا نام عبداللہ ہوگا، (۴) ان کا اپنانام
محمد ہوگا اور لقب مہدی، (۵) چالیس سال کی عمر میں ان کو مکہ مکرمہ

حرم کعبہ میں شام کے چالیس ابدوں کی جماعت پہنچانے کی، (۶) وہ کئی لڑائیوں میں مسلمان فوجوں کی قیادت کریں گے، (۷) شام جامع دمشق میں پہنچیں گے، تو وہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، (۸) حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد پہلی نماز حضرت مہدی علیہ الرضوان کے پیچھے ادا کریں گے، (۹) حضرت مہدی علیہ الرضوان کی کل عمر ۲۹ سال ہوگی، چالیس بعد خلیفہ بنیں گے، سات سال خلیفہ رہیں گے، دو سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نیابت میں رہیں گے، ۲۹ سال کی عمر میں وفات پائیں گے، (۱۰) ثم یموت ویصلی علیہ المسلمون (مشکوٰۃ: ۲۱) پھر ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ تدفین کے مقام کے متعلق احادیث میں صراحت نہیں، البتہ بعض حضرات نے بیت المقدس میں تدفین لکھی ہے۔

اس ذیل میں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدینی "کارسالہ" الخلیفة المہدی فی الاحادیث الصحیحہ" اور محدث کبیر مولانا بدر عالم میرٹھی "کارسالہ" الامام المہدی" ترجمان النتیج ۳۴ مشمول احتساب قادیانیت جلد چہارم میں قابل دید ہیں۔

حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول:

(۱) اللہ رب العزت کے وہ جلیل القدر پیغمبر و رسول ہیں جن

کی رفع سے پہلی پوری زندگی، زہد و اکساری، مسکن کی زندگی ہے۔ (۲) یہودی ان کے قتل کے درپے ہوئے اللہ تعالیٰ نے

یہودیوں کے ظالم ہاتھوں سے آپ کو بچا کر آسمانوں پر زندہ اٹھالیا،

(۳) قیامت کے قریب دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے، (۴) وزر درگ کی چادر میں پہن رکھی ہوں گی، (۵) دمشق کی مسجد کے مشرقی سفید مینار پر نازل ہوں گے، (۶) پہلی نماز کے علاوہ تمام نمازوں میں امامت کرائیں گے، (۷) حاکم عادل ہوں گے، پوری دنیا میں اسلام پھیلائیں گے، (۸) دجال کو مقام لد پر (جو اس وقت اسرائیل کی فضائیہ کا ایرہ میں ہے) قتل کریں گے، (۹) نزول کے بعد پینتالیس سال قیام کریں گے، (۱۰) مدینہ طیبہ میں فوت ہوں گے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیقؓ، حضرت عمر فاروقؓ کے ساتھ روضہ اطہر میں دفن کئے جائیں گے، جہاں آج بھی چوتھی قبر کی جگہ ہے، فیکون قبرہ رابعاً۔
(تاریخ البخاری)

دجال کا خروج:

- (۱) اسلامی تعلیمات اور احادیث کی روشنی میں شخص (متین) کا نام ہے، جس کی فتنہ پر داڑیوں سے تمام انبیاء علیہم السلام اپنی امتوں کو ڈراستے آئے۔ گویا دجال ایک ایسا نظر ناک فتنہ پرور ہو گا جس کی خوفناک خدا دشمنی پر تمام انبیاء علیہم السلام کا اجماع ہے،
- (۲) وہ عراق و شام کے درمیانی راستے سے خروج کرے گا،
- (۳) تمام دنیا کو فتنہ و فساد میں بٹلا کر دے گا، (۴) خدائی کا دعویٰ کرے گا، (۵) مسح العین ہو گا، یعنی ایک آنکھ چیل ہو گی (کانا ہو گا)، (۶) مکہ مدینہ جانے کا ارادہ کرے گا، حریمین کی حفاظت پر

ما مور اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کامنہ موڑ دیں گے، وہ مکہ، مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، (۷) اس کے قبیلین زیادہ تر یہودی ہوں گے، (۸) ستر ہزار یہودیوں کی جماعت اس کی فوج میں شامل ہوگی، (۹) مقام لد پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا، (۱۰) وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حرب (بھیار) سے قتل ہوگا۔

اسلامی نقطہ نظر سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ الرضوان کی قربیاً ایک سوائی علامات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ الرضوان کی تشریف آوری تو اتر سے ثابت ہے۔ چنانچہ علامہ شوکانی لکھتے ہیں:

”فتقرران الاحادیث الواردة فی المهدی المنتظر متواترة“
”والاحادیث الواردة فی نزول عیسیٰ بن مریم متواترة۔“

(الاذاعه ص ۷۷)

ترجمہ: ”چنانچہ یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ مہدی منتظر کے بارے میں وارد شدہ احادیث بھی متواتر ہیں اور حضرت عیسیٰ بن مریم کے بارے میں وارد شدہ احادیث بھی متواتر ہیں۔“

اور حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”قال ابو الحسن الحسینی الابدی فی مناقب الشافعی! تو ارت الاخبار بان المهدی من هذه الامة وان عیسیٰ يصلی خلفه ذکر ذلك رد للحدیث الذى اخرجه ابن ماجه عن انس و فيه ولا مهدی الاعیسی۔“ (فتح الباری ج ۲۵۸)

ترجمہ: ”ابو الحسن حسینی ابدیؒ نے مناقب شافعی میں لکھا ہے کہ احادیث اس بارے میں متواتر ہیں کہ مہدی اسی امت میں سے

ہوں گے اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے ابو الحسن حسین نے یہ بات اس لئے ذکر فرمائی ہے تاکہ اس حدیث کا رد ہو جائے جواب ماجنے حضرت انسؓ سے روایت کی ہے جس میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ ہی مہدی ہیں۔“

حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جن احادیث کی طرف اشارہ فرمایا ہے، ان میں

سے ایک یہ ہے:

”عن جابر بن عبد الله قال قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا تزال طائفۃ من امتی يقاتلون علی الحق ظاهرين الى يوم القيمة قال فينزل عیسیٰ بن مریم فيقول امیرهم تعالیٰ صل لنا فيقول لا: ان بعضکم على بعض امراء تکرمة اللہ هذه الامة۔“

(مسلم ج ۱ ص ۷۸ باب نزول عیسیٰ ابن مریم واحمد ج ۳۳۵)

ترجمہ: ”حضرت جابر عبد اللہؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنائے کہ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق کے مقابلہ میں جنگ کرتی رہے گی، دشمنوں پر غالب رہے گی، اس کے بعد آپؐ نے فرمایا آخر میں عیسیٰ ابن مریم اتریں گے (نماز کا وقت ہوگا) مسلمانوں کا امیران سے عرض کرے گا تشریف لائیے اور نماز پڑھادیجئے وہ فرمائیں گے: یہ نہیں ہو سکتا، اس امت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اکرام و اعزاز ہے کہ تم خود ہی ایک دوسرے کے امام و امیر ہو۔“

اس حدیث سے جہاں ایک جانب یہ ثابت ہوا کہ حضرت امام مہدی علیہ الرضوی

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام الگ الگ مقدس ہستیاں ہیں، دوسری جانب اس سے امت محمدیہ کی کرامت و شرافت عظیٰ بھی ثابت ہوتی ہے کہ قرب قیامت تک اس امت میں ایسے برگزیدہ افراد موجود ہیں گے کہ اسرا یلی سلسلہ کا ایک مقدس رسول آ کر بھی اس کی امامت کی حیثیت کو برقرار رکھ کر ان کے پیچھے نماز ادا فرمائیں گے جو اس بات کا صاف اعلان ہے کہ جس شرافت اور کرامت کے مقام پر تم پسلے فائز تھے آج بھی ہو۔ یہ واقعہ بالکل اس قسم کا ہے جیسا کہ مرض الوفات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت کی نماز حضرت ابو بکر صدیقؓ کی اقتداء میں ادا فرمایا کرامت کو گویا صریح ہدایت دے دی کہ میرے بعد امامت و اقتداء کی پوری صلاحیت ابو بکر صدیقؓ میں موجود ہے۔

سیدنا مسیح علیہ السلام اور سیدنا مہدی علیہ الرضوان کے متعلق احادیث کی روشنی میں بیان کردہ علامات دیکھنی ہوں تو ”النصرۃ بما تواتر فی نزول مسیح“ کے آخر میں علامات قیامت اور نزول مسیح (مترجم مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی) اور حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع کا رسالہ ”مسیح موعود کی پیچان“ دیکھی جاسکتی ہیں۔

حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت مہدی علیہ الرضوان اور دجال لعین کے متعلق مرزا قادریانی خود تسلیم کرتا ہے کہ یہ تین شخصیات ہیں:

”اس نے ماننا پڑا کہ مسیح موعود اور مہدی اور دجال تینوں مشرق

میں ہی ظاہر ہوں گے۔“ (تحفہ لوزویہ ص ۲۷، خزانہ ص ۲۷، اج ۱۷)

تینوں مشرق میں ہوں گے، یہ تو قادریانی دجل کا شاہ کار ہے، البتہ اتنی بات مرزا قادریانی کے اس حوالہ سے ثابت ہے کہ یہ تین شخصیات علیحدہ علیحدہ ہیں۔

قادیریانی موقف:

لیکن قادریانی جماعت کی بدنبی اور ایمان سے محروم دیکھئے ان کا موقف ہے کہ مسیح علیہ السلام اور مہدی ایک شخصیت ہے، اور وہ مرزا قادریانی ہے۔ حالانکہ مسیح علیہ السلام اور

مہدی علیہ الرضوان و علیہ مودت خصیات ہیں، ان کے نام، کام، جائے پیدائش، جائے نزول، وقت ظہور، مدت قیام، عمر، دونوں علیہ مودت تفصیلات کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ لیکن قادریانی دجال اور اس کی جماعت کے دجل کو دیکھو سینکڑوں احادیث صحیح و متواترہ کو چھوڑ کر ایک جھوٹی و ضعی روایت سے اپنا عقیدہ ثابت کرنے کے لئے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں۔ دیکھئے مرزا نے کہا:

”ایہا الناس انی انا المیسیح المحمدی و انی انا احمد“

(خطبہ الہامیہ خراں ص ۲۱ ج ۱۲) ”المهدی۔“

ترجمہ: ”اے لوگو! میں وہ شخص ہوں کہ جو محمدی سلسلہ میں ہے

اور میں احمد مہدی ہوں۔“

قاضی محمد نذری قادریانی لکھتا ہے:

”امام مہدی اور شخص موعود ایک ہی شخص ہے۔“

(امام مہدی کاظہور ص ۱۶)

قادیانی مغالطہ:

قادیانی گروہ دلیل میں ابن ماجہ کی روایت پیش کرتا ہے:

”لَا المُهَدِّى إِلَّا عَيْسَى بْنُ مُرْيَمٍ۔“

(ابن ماجہ ص ۲۹۲ باب شدة الزمان)

بہی قاضی محمد نذری اس حدیث کے متعلق لکھتا ہے:

”اس حدیث نے ناطق فیصلہ دے دیا ہے کہ عیسیٰ بن مریم ہی

المہدی ہے اور اس کے علاوہ کوئی ”المہدی“ نہیں ہے۔“

یہ حدیث اولاً تو ضعیف ہے، ثانیاً اس کا مطلب وہ نہیں جو قادریانی سمجھاتے ہیں۔ ملا

علی قارئ فرماتے ہیں:

”حدیث لا مهدی الا عیسیٰ بن مریم ضعیف باتفاق
المحدثین كما صرخ به الجزری علی انه من باب لافتی الا
علی۔“
(مرقاۃ ص ۱۸۳ ج ۱۰)

ترجمہ: ”حدیث لا مهدی عیسیٰ بن مریم باتفاق محدثین ضعیف
ہے جیسا کہ ابن جزری نے اس کی صراحت کی ہے، علاوہ ازیں یہ ”لا
فتی الا علی“، کے قبیل سے ہے۔“

مطلوب یہ ہے کہ اگر کسی درجہ میں حدیث کو صحیح مان لیا جائے تو اس کا وہی مطلب ہے
جو لافتی الا علی ہما ہے۔ یعنی مهدی صفت کا صبغ ہے اور اس کے لغوی معنی مراد ہیں اور یہ بتایا
گیا ہے کہ اعلیٰ درجہ کے ہدایت یافہ عیسیٰ بن مریم ہی ہیں۔ بطور حصر اضافی جیسے ”لفتی
الاعلیٰ“، کے معنی اعلیٰ درجہ کے جوان اور بہادر حضرت علیؑ ہی ہیں۔

یہ مطلب لینا غلط ہے کہ جس شخصیت کا نام مهدی ہے، وہ عیسیٰ بن مریم ہی کی شخصیت
ہے۔ خود مرزا صاحب ایک اصول لکھتے ہیں:

”جس حالت میں تقریباً کل حدیثیں قرآن شریف کے
مطابق..... ہیں پھر اگر بطور شاذ و نادر کوئی ایسی حدیث بھی موجود ہو
جو اس مجموعہ یقینیہ کے مخالف ہو تو ہم ایسی حدیث کو یا تو نصوص سے
خارج کریں گے اور یا اس کی تاویل کرنی پڑے گی کیونکہ یہ تو ممکن
نہیں کہ ایک ضعیف اور شاذ سے وہ مستحکم عمارت گردی جائے جس کو
نصوص بینہ فرقانیہ و حدیثیہ نے طیار کیا ہو۔“ (از الہ اوہام ص ۲۲۲، ۲۲۳)

اس اصول کی روشنی میں دیکھئے، مرزا یوں کی پیش کردہ ابن ماجہ کی روایت کی کیا حیثیت

رہ جاتی ہے؟ اس لئے کہ نزول عیسیٰ کی مذکورہ بالاروایات صحیح متواترہ سے صاف طور پر ثابت ہو چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے نہ یہ کہ وہ دنیا میں کسی خاندان میں پیدا ہوں گے، جب کہ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کے بارے میں حدیث ہے:

۱: ”سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

يقول المهدى من عترتى من ولد فاطمة۔“

(ابوداؤد ص ۱۳۱ ج ۲ کتاب المهدی)

ترجمہ: ”حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میری عترت سے ہو گا لیعنی حضرت فاطمہؓ اولاد سے۔“

۲: ”یواطی اسمہ اسمی واسم ابیہ اسم ابی۔“

(ابوداؤد: ص ۱۳۱ ج ۲ کتاب المهدی)

ترجمہ: ”جو میرا نام ہے وہی اس کا نام ہو گا، جو میرے باپ کا

نام ہے، وہی اس کے باپ کا نام ہو گا۔“

اور حدیث مندرجہ ذیل نے معاملہ بالکل منسخ کر دیا ہے۔

۳: ”كيف تهلك امة انا اولها والمهدى وسطها

وال المسيح اخرها۔“ (مشکوہ ص ۵۸۳ باب ثواب هذه الامة)

ترجمہ: ”وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کی ابتداء میں،

میں (آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم) ہوں، وہ میان میں مہدی، اور آخر

میں مسیح علیہ السلام ہیں۔“

یہ حدیث اس مسئلہ میں بیانگ دہل اعلان کر رہی ہے کہ مرزا قادریانی کا مؤقف صراحتاً دھل، کذب کا شاہکار ہے لیکن بے بصیرت و بے بصارت قادریانی گروہ کو یہ صاف صاف روایت بھی نظر نہیں آتیں اور پوری بے شری کے ساتھ منسخ و مہدی کے ایک، ورنے کی رٹ لگا، ہتا ہے۔ حالانکہ دونوں کے بارے میں روایات الگ الگ اور متواتر آئی ہیں۔

دجال:

۱: رہا دجال کے متعلق قادریانی مؤقف، تو وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا رہا۔ پہلے کہا کہ اس سے مراد پادری ہیں۔ اس پر سوال ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تعریف لائے، میں رورہی تھی، آپ نے رونے کی وجہ دریافت فرمائی، میں نے عرض کیا کہ دجال کے بارہ میں آپ نے تفصیلات بیان فرمائی: میں سن کر پریشان ہو گئی، اب خیال آتے ہی فوراً رونا آگیا، آپ نے فرمایا کہ: میں موجود ہوا اور وہ آگیا تو تمہاری طرف سے میں کافی ہوں۔ اگر میری زندگی میں نہ آیا تو جو شخص سورہ کہف کی آخری آیات پڑھتا رہے وہ اس سے محفوظ رہے گا۔ اگر پادری ہی دجال تھے، وہ تو حضور علیہ السلام کے زمانہ میں بھی موجود تھے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا کیا مطلب ہوا؟

۲: پھر مرزا نے کہا کہ اس سے مراد انگریز قوم ہے۔ اس سے کہا گیا کہ اگر انگریز ہیں تو دجال کو حضرت مسیح علیہ السلام قتل کریں گے تم تو ”انگریز کے خود کاشتہ پودا“ ہو۔
 ۳: پھر مرزا نے کہا کہ اس سے مراد روس ہے، تو اس سے کہا گیا کہ دجال تو شخص واحد ہے، قوم مراد نہیں، اس نے کہا کہ دجال نہیں حدیث میں ”رجال“ ہے۔ یہ اس کی جہالت کی دلیل ہے۔ اس کی تردید کے لئے اتنی بات کافی ہے کہ ابن صیاد کے مسئلہ پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمرؓ نے اجازت مانگی کہ میں اسے قتل کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ وہی (دجال) ہے تو ”لست صاحبہ“ تم اس کو قتل نہیں کر سکتے، اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی قتل کریں گے۔

ابن صیاد کی بابت کتب احادیث میں تفصیل سے روایات موجود ہیں۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دجال تکوار سے قتل ہو گا، نہ کہ قلم سے جیسا کہ قادریانیوں کا مؤقف ہے۔

خلاصہ:..... یہ کہ مرزا قادریانی اور اس کی ذریت کا موقف اسلام کے چودہ سو سالہ موقف کے خلاف ہے۔

سوال ۸:..... مرزا تی جن آیات و آثار کو عدم رفع اور
وفات مسح کے لئے پیش کرتے ہیں، ان میں سے تین کا ذکر
کر کے ان کا شافی روکریں؟

جواب:..... قادریانی استدلال:

”وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَادْمَتْ فِيهِمْ فَلَمَا تَوَفَّيْتِنِي
كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ۔“
(مائده: ۱۱۷)

مرزا بشیر الدین کے ترجمہ کے الفاظ یہ ہیں:
”اور جب تک میں ان میں (موجود) رہا، میں ان کا نگران رہا
مگر جب تو نے میری روح قبض کر لی تو، تو ہی ان پر نگران تھا۔“
(ترجمہ قرآن مجید از مرزا بشیر الدین ص ۲۵۸)

وفات عیسیٰ علیہ السلام پر اس آیت سے قادریانی استدلال کی بنیاد ان کے خیال میں
بخاری شریف کی ایک تفصیلی روایت پر ہے جو مندرجہ ذیل ہے:

”أَنَّهُ يَحْمِلُ بِرْجَالٍ مِّنْ أَمْتَى فَيُوَحِّذُهُمْ ذَاتُ الشَّمَاءِ
فَاقُولُ يَارَبِّ اصْحَابِي فِي قَالَ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَوْا بَعْدَكَ
فَاقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَادْمَتْ
فِيهِمْ الخ“
(بخاری ص ۲۶۵ ج ۲ کتاب الثغیر)

ترجمہ: ”میری امت کے بعض لوگ لائے جائیں گے اور

بائیں طرف یعنی جہنم کی طرف ان کو چلا جائے گا تو میں کہوں گا:
 اے میرے رب یہ تو میرے صحابی ہیں، پس کہا جائے گا کہ آپ کو
 اس کا علم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کچھ کیا، پس میں ایسے ہی
 کہوں گا جیسا کہ عبد صالح یعنی عیسیٰ نے کہا کہ جب تک میں ان
 میں موجود تھا، ان پر گواہ تھا اور جب تو نے مجھے تمامہ بھر پور لے لیا
 تھا، اس وقت آپ نگہبان تھے۔“

تو ”توفی“ کا لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کے کلام میں
 آتا ہے، اور ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توفی بصورت وفات ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ
 السلام کی توفی بھی بصورت وفات ہو گی۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ
 کا ارشاد زمانہ ماضی میں ہو چکا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ وفات پاچکے ہیں۔

جواب:..... اس تحریف کا جواب بھی معلوم ہو چکا ہے کہ توفی کے حقیقی معنی پورا پورا
 لینے کے ہیں۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں یہ بمعنی موت ہے، کیونکہ سب
 جانتے ہیں کہ آپ کی وفات ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلام میں توفی بطور اصعاد
 الی السماء پائی گئی ہے کیونکہ اس کا قرینہ درافت علی موجود ہے۔

جواب:..... اگر دونوں حضرات کی توفی ایک طرح کی ہوتی تو آپ یوں فرماتے:
 ”فاقول ماقال، العبد الصالح“ توفاقول کما قال العبد الصالح فرمانا بتارہا ہے کہ
 مشبه اور مشبهہ میں چونکہ تفاری ہوا کرتا ہے۔ اس لئے اصل مقصود ہر دو حضرات کا امت کے
 درمیان اپنی عدم موجودگی کو بطور عذر پیش کرنا ہے۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی غیر
 موجودگی توفی بمعنی اصعاد الی السماء سے بیان فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی
 غیر موجودگی توفی بصورت موت بیان فرمائی ہے۔

جواب:..... رہایہ کا آپ نے اپنے متعلق فرمایا اقول اور حضرت عیسیٰ کے متعلق قال
ماضی کا صیغہ فرمایا۔ تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جس وقت آپ نے یہ حدیث ارشاد فرمائی:
سورہ مائدہ کی مذکورہ آیت نازل ہو چکی تھی اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول جو
قیامت کے دن باری تعالیٰ کے سوال کہ: ”انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین
من دون الله“ کے جواب میں فرمائیں گے، حکایت کیا گیا ہے۔
اور دوسری وجہ یہ ہے کہ قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کلام پہلے ہو چکے گا اور
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بعد میں پیش آئے گا۔

قادیانی استدلال: ۲:

”وما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قدْ خَلَقْتَ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولَ أَفَإِنْ

مات أو قتل انقلبتم على اعقابكم -“ (آل عمران: ۱۴۴)

قادیانی ترجمہ: ”اور محمد صرف ایک رسول ہیں، ان سے پہلے
کے سب رسول فوت ہو چکے ہیں، پس اگر وہ وفات پا جائیں یا قتل
کئے جائیں، تو کیا تم اپنی ایزوں کے بل لوث جاؤ گے۔“

اس آیت میں قادیانی گروہ خلوکو بمعنی موت لیتا ہے، اور من قبلہ کو ارسل کی صفت مانتا
ہے، اور ارسل پر لام استغراق مانتا ہے۔ اس لئے استدلال کا حاصل یہ ہوا کہ جب محمد صلی
اللہ علیہ وسلم سے پہلے سب رسول فوت ہو چکے ہیں، تو بس سُجح علیہ السلام بھی ان میں آگئے۔

جواب:..... خلت، خلو سے مشتق ہے جس کے لغوی معنی مکان سے متعلق ہونے کی
صورت میں جگہ خالی کرنے کے، اور زمان سے متعلق ہونے کی صورت میں گزرنے کے
آتے ہیں اور جن چیزوں پر زمانہ گزرتا ہے ان کو بھی جبعاً خلو سے موصوف کر دیتے ہیں۔

مثالیں:

۱: ”وَإِذَا خَلُوا إِلَى شِيَاطِينِهِمْ۔“ (بقرہ: ۱۴)

ترجمہ: ”اور جب خلوت میں پہنچتے ہیں اپنے شریر سرداروں کے پاس۔“

۲: ”بِمَا أَسْلَفْتَمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيةِ۔“ (سورہ حلقہ: ۲۴)

ترجمہ: ”ان اعمال کے صلہ میں جو تم نے با مید صلہ گز شدہ ایام میں کئے ہیں۔“

۳: ”تَلِكَ أُمَّةٌ قَدْ دَخَلَتْ“ (بقرہ: ۱۴۱)

ترجمہ: ”یہ ایک جماعت جو گزر چکی۔“ (بیان القرآن)

بہر حال خلو کے معنی جگہ خالی کرنا خواہ زندہ گزر کر، یا موت سے اور ایک جگہ سے دوسرا جگہ بٹ جانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے دلائل قطعیہ ہوتے ہوئے اس کو موت کے معنی میں لینا تحریف ہی تو ہے۔

جواب ۲: من قبلہ الرسل کی صفت نہیں ہے جس کے بعد معنی یہ ہوں کہ محمد سے پہلے کے تمام پیغمبر رکھے کیونکہ یہ الرسل سے مقدم ہے بلکہ یہ خلت کا ظرف ہے، اب صحیح معنی یہ ہیں کہ محمد سے پیشتر کئی رسول گزر چکے۔

”الرَّسُولُ“ پر لام تعریف جنس کا ہے کیونکہ استغراق کے معنی لینے کی صورت میں آیت کے جملوں میں تعارض لازم آئے گا، باس طور کہ وماحمد الارسول سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رسالت ثابت کی، اور جب خلت من قبلہ الرسل میں الرسل استغراق کے لئے ہوا، اور من قبلہ کا ظرف ہونا ثابت ہوئی چکا۔ تو اب ترجمہ یہ ہو گا کہ: جتنے اشخاص صفت رسالت سے موصوف تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ اس سے نعوذ باللہ آپ

رسول بر حق ثابت نہیں ہوں گے۔ اس لئے لام جنس مانا ضروری ہے۔

جواب:..... اور اگر ”علی سبیل المترزل“، قادریانی گروہ کی تینوں باتیں مان لی جائیں تو بھی اس سے زیادہ سے زیادہ رسول کے عموم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہوگی نہ کہ بطریق خصوص، اور اس صورت میں یہ آیت ان کی دلیل بننے کے قابل نہیں رہے گی، کیونکہ علم اصول کی کتابوں میں اس قاعدہ مسلمہ کی تصریح ہے کہ کوئی امر خاص دلیل (تحقیص منقولی) سے ثابت ہو، تو اس کے خلاف عام دلیل سے تمسک کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یہاں دلائل قطعیہ مخصوصہ سے حضرت عیسیٰ کی حیات ثابت کی جا چکی ہے۔

قادیانی استدلال: ۳:

”ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین۔“ (بقرہ: ۳۶)

ترجمہ: ”(از مرزا) تم اپنے جسم خاکی کے ساتھ زمین پر ہی رہو گے یہاں تک کہ اپنے قبیع کے دن پورے کر کے مر جاؤ گے۔“

اسی کے ساتھ مرزا تی یہ آیت بھی پڑھتے ہیں: ”فیها تحييون و فيها تموتون و منها تخرجون“ (اعراف: ۲۵) اور ان کے استدلال کا حاصل یہی ہے کہ انسانی زندگی یہیں زمین پر بسر ہونی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین کو چھوڑ کر کسی اور جگہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ (دیکھئے ازالہ اوہام ص: ۲۵۰)

مرزا قادریانی کہتا ہے کہ یہ آیت جسم خاکی کو آسمان پر لے جانے سے روکتی ہے، کیونکہ ”لکم“ جو اس جگہ فائدہ تحقیص کا دیتا ہے، اس بات پر بصراحت دلالت کر رہا ہے کہ جسم خاکی آسمان پر نہیں جا سکتا بلکہ زمین سے ہی نکلا، زمین میں ہی رہے گا اور زمین میں ہی داخل ہو گا۔

جواب:..... کسی مقام کا کسی کے لئے حاصل جائے رہا ش ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ عارضی طور پر کہیں اور نہ جا سکے آدمی ہوائی جہاز کا سفر کرتا ہے اور گھنٹوں فضا میں رہتا ہے تو کیا

کوئی حق کہہ سکتا ہے کہ قرآنی ضابطہ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے ایک عرصہ سے۔ طانور دی کا سلسلہ شروع ہے جولائی ۱۹۶۹ء میں پہلی مرتبہ دو آدمیوں نے چاند پر پاؤں رکھے۔ اللہ کی قدرت کے بہت سی چیزیں جو پہلے بعد از عقل معلوم ہوتی تھیں، سائنسی ایجادات کی بدولت وہ حقائق اور واقعات بن چکی ہیں، تو کیا کہا جائے گا کہ یہ خلائی سفر قرآنی آیات کے خلاف ہیں؟ اگر مرزا صاحب کا یہ کہنا صحیح ہے کہ ”جسم خاکی آسمان پر نہیں جاسکتا“ تو کیا نیل آرم اسٹرالنگ اور ایڈون ایلڈرن اور ان کے بعد کئی اور آدمی کوئی فرشتے تھے کہ خلائی مسافت طے کر کے چاند تک پہنچے؟ تو آیت کریمہ کا ضابطہ اپنی جگہ پر درست ہے مگر اس سے یہ کہاں لازم آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، کیونکہ وہ عارضی طور پر آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، بہر حال وہ بھی مقررہ وقت پر پھر زمین پر آئیں گے اور دیگر انسانوں کی طرح وفات پا کر زمین میں دفن ہوں گے۔

جواب ۲: علماء اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدائشی طور پر ملا گکہ سے مشاہدہ تھی، لہذا ان کو آسمان پر اٹھایا جانا، اور زیر بحث آیت کے حکم سے ان کا خارج ہونا اپنے فطری مادہ کے اعتبار سے ہے۔ رہی احادیث مبارکہ تو ایک صحیح حدیث قادریانی قیامت تک مسح علیہ السلام کی دفات پر پیش نہیں کر سکتے، جو پیش کرتے ہیں یا موضوع ہیں یا مجرور ہیں یا مجہول ہیں، ایک بھی صحیح روایت وہ اپنے مؤقف پر پیش نہیں کر سکتے۔ فان لم تفعلوا ولن فعلوا فاتقوا النار۔

یہ ہیں قادریانی تحریفیات کے چند نمونے، اختصار کے پیش نظر ان ہی پر اکتفا کیا جاتا ہے اس سلسلہ میں شہادت القرآن کا مطالعہ کیا جائے، جو مولانا ابراہیم سیالکوٹی کی تصنیف ہے، اس سے بھی زیادہ عام فہم کتاب حیات عیسیٰ علیہ السلام پر حضرت شیخ مولانا محمد اوریس کاندھلویؒ کی ہے، جو ”احساب قادریانیت جلد دوم“ میں شامل ہے۔

سوال ۹: رفع و نزول جسم غیری کے امکان عقلی کو

بیان کرتے ہوئے اس کے نعلیٰ نظائر پیش کریں نیز رفع و نزول کی حکمتیں بیان کریں؟

جواب:..... مرزا صاحب اور ان کی جماعت کا دعویٰ ہے کہ:

”عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر نہیں اٹھائے گئے بلکہ وفات پا کر مدفن ہو چکے اور دلیل یہ ہے کہ کسی جسم غصیری کا آسمان پر جانا محال ہے۔“ (ازالہ الا وہام ص ۲۷۷ ج تقطیع خود روحانی خزانہ ص ۳۲۶ ج ۳)

قرآن و سنت سے رفع و نزول نہ صرف ثابت ہے بلکہ اس کے نظائر بھی موجود ہیں، مثلاً: ۱:..... یہ ہے کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر کے ساتھ لیلة المراج میں جانا اور پھر وہاں سے واپس آنا حق ہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا بحده العصری آسمان پر اٹھایا جانا اور پھر قیامت کے قریب ان کا آسمان سے نازل ہونا بھی بلاشبہ حق اور ثابت ہے۔

۲:..... جس طرح آدم علیہ السلام کا آسمان سے زمین کی طرف نزول بھی ممکن ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کا آسمان سے زمین کی طرف نزول بھی ممکن ہے ”ان مثل عیسیٰ عند الله كمثل آدم۔“

۳:..... جعفر بن ابی طالب کا فرشتوں کے ساتھ آسمانوں میں اڑنا صحیح اور قوی حدیثوں سے ثابت ہے، اسی وجہ سے ان کو جعفر طیار کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے:

”اخراج الطبراني باسناد حسن عن عبدالله بن جعفر“

قال قالى رسول الله صلی الله علیہ وسلم هنیئاً لك ابوك
يطير مع الملائكة في السماء۔“

(وکذافی فتح الباری ص ۶۲ ج ۷ زرقانی شرح مواهب ص ۲۷۵ ج ۲)

ترجمہ: ”امام طبرانی نے باسناد حسن عن عبدالله بن جعفر سے

روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک باریہ ارشاد فرمایا کہ جعفرؑ کے بیٹے عبد اللہؓ مجھ کو مبارک ہو تیرا باپ ذمہت میں ساتھ آسمانوں میں اڑتا پھرتا ہے (روایت میں یہ ہے کہ جعفرؑ، جبریل و میکائیل کے ساتھ اڑتا پھرتا ہے) ان ہاتھوں کے عوض میں جوغزوہ موتتہ میں کٹ گئے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے ان کو ملائکہ کی طرح دو بازوں عطا فرمادیے ہیں اور اس روایت کی سند نہایت جیداً و عمدہ ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا اس بارے میں ایک شعر ہے:

وَجَعْفُرُ الَّذِي يَضْحِي وَيَمْسِي
يَطِيرُ مَعَ الْمُلَائِكَةِ أَبْنَاءِ أَمْمَى
ترجمہ: ”وہ جعفر“ کے جونج و شام فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہے
”وہ میری ہی ماں کا بیٹا ہے۔“

۳: اور علیؑ ہذا عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کا غزوہ بیر معونہ میں شہید ہونا، اور پھر ان کے جنازہ کا آسمان پر اٹھایا جانا روایات میں مذکور ہے جیسا کہ حافظ عسقلانی نے اصحاب میں حافظ ابن عبد البر نے استیعاب میں اور علامہ زرقانی نے شرح مواہب ص ۲۸ میں ذکر کیا ہے۔ جبار بن سلمی جو عامر بن فہیرہ کے قاتل تھے وہ اسی واقعہ کو دیکھا کر ضحاک بن سفیان کلابی کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف بالسلام ہوئے اور یہ کہا:

”دُعَانِي إلَى الْإِسْلَامِ مَارَيْتَ مِنْ مَقْتُلِ عَامِرِ بْنِ فَهِيرَةَ
وَرْفَعْتَهُ إِلَى السَّمَاءِ۔“

ترجمہ: ”عامر بن فہیرہ کا شہید ہونا اور ان کا آسمان پر اٹھایا جانا
میرے اسلام لانے کا باعث بنا۔“

ضحاکؓ نے یہ تمام واقعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت با برکت میں لکھ کر بھیجا،

اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”فَانَ الْمَلَائِكَةُ وَارَتْ جَهَنَّمَ وَأَنْزَلَ فِي عَلَيْنِ“ -

ترجمہ: ”فرشتوں نے اس کے جہش کو چھپالیا اور وہ علیین میں

اتا رے گئے۔“

ضحاک ابن سفیان کے اس تمام واقعہ کو امام تہمی اور ابو نعیم دونوں نے اپنی اپنی دلائل الدوہۃ میں بیان کیا۔ (شرح الصدور فی احوال الموتی والقبر للعلامة السیوطی ص: ۲۷۱)

اور حافظ عسقلانی نے اصحاب میں جبار بن سلمی کے تذکرہ میں اس واقعہ کی طرف اجمالاً اشارہ فرمایا ہے۔ شیخ جلال الدین سیوطی شرح الصدور میں فرماتے ہیں کہ عامر بن فہیرہ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے واقعہ کو ابن سعد اور حاکم اور موسیٰ بن عقبہ نے بھی روایت کیا ہے۔ غرض یہ کہ یہ واقعہ متعدد اسانید اور مختلف روایات سے ثابت اور محقق ہے۔

۵..... واقعہ زنجیع میں جب قریش نے خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو سولی پر لٹکایا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن امية ضریٰ و خبیبؓ کی نقش اتارانے کے لئے روانہ فرمایا۔ عمرو بن امية وہاں پہنچے اور خبیب کی نقش کو اتارا و فتحاً ایک دھماکہ سنائی دیا۔ چھھے پھر کردیکھا اتنی دیر میں نقش غالب ہو گئی، عمرو بن امية فرماتے ہیں گویا زمین نے ان کو نگلی لیا، اب تک اس کا کوئی نشان نہیں ملا، اس روایت کو امام ابن حبیلؓ نے اپنی مند میں روایت کیا (زرقاںی شرح مواہب ص: ۲۷۲)

ہے۔

شیخ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ خبیبؓ کو زمین نے لگا اسی وجہ سے ان کا لقب بلیح الارض ہو گیا، اور ابو نعیمؓ فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ عامر بن فہیرہؓ کی طرح خبیبؓ کو بھی فرشتے آسمان پر اٹھا لے گئے۔ ابو نعیم کہتے ہیں کہ جس طرح حق تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے عامر بن فہیرہؓ اور خبیب بن عدیؓ اور علاء بن حضرمیؓ کو آسمان پر اٹھایا۔ اتنی۔

۶:.....علماء انبیا کے وارث ہوتے ہیں اولیاً کا الہام و کرامت انبیاً کرام کی وجی اور

میجرات کی وراثت ہے:

ومما يقوی قصہ الرفع الى السماء ما اخرجه النسائی
والبیهقی والطبرانی وغيرهم من حدیث جابر ان طلحة
اصبیت انا ملہ یوم احد فقال حس فقال رسول الله صلی
الله علیہ وسلم لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس
ینتظرون اليک حتى تلچ بك في جو السماء شرح الصدور
ص: ۲۵۸ طبع بيروت ۱۹۹۳ء سن طبع وانحرج ابن
ابی الدنيا فی ذکر الموتی عن زید بن اسلم قال كان فی بنی
اسرائیل رجل قد اعتزل الناس فی کھف جبل و كان اهل
زمانه اذا قحطوا استغاثوا به فدعى الله فسقاهم فمات
فاخذوا فی جهازه فبینا هم كذلك اذا هم بسریر يرفرف فی
عنان السماء حتى انتهى اليه فقام رجل فاخذه فوضعه على
السریر فارتفع السریر والناس ینتظرون اليه فی الهواء حتى
غاب عنهم” (شرح الصدور ص: ۲۵۷ طبع بيروت ۱۹۹۳ء سن طبع)

ترجمہ: ”شیخ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ عامر بن فہیرہ
اور خبیب رضی اللہ عنہ عنہما کے واقع رفع الی السماء کی وہ واقعہ بھی تائید
کرتا ہے جس کو ناسی اور بیهقی اور طبرانی نے جابر رضی اللہ عنہ سے
روایت کیا ہے کہ غزوہ احمد میں حضرت طلحہؑ انگلیاں زخمی ہو گئیں تو
اس تکلیف کی حالت میں زبان سے ”حس“ یہ لفظ نکلا۔ اس پر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو بجائے ”حس“ کے بسم
اللہ کہتا تو لوگ دیکھتے ہوتے اور فرشتے تجوہ کو اٹھا کر لے جاتے یہاں
تک کہ تجوہ کو آسمان کی فضا میں لے کر گھس جاتے ابن ابی الدنيا

نے ذکر الموتی میں زید بن اسلم سے روایت کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا کہ جو پہاڑ میں رہتا تھا، جب قحط ہوتا تو لوگ اس سے بارش کی دعا کرتے وہ دعا کرتا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کی برکت سے باران رحمت نازل فرماتا۔ اس عابد کا انتقال ہو گیا، لوگ اس کی تجھیز و تلفیں میں مشغول تھے اچانک ایک تخت آسمان سے اترتا ہوا نظر آیا یہاں تک کہ اس عابد کے قریب آ کر رکھا گیا، ایک شخص نے کھڑے ہو کر اس عابد کو اس تخت پر رکھ دیا۔ اس کے بعد وہ تخت اوپر اٹھتا گیا، لوگ دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ عاشر ہو گیا۔“

..... اور حضرت ہارون علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جنازہ کا آسمان پر اٹھایا جانا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے آسمان سے زمین پر اتر آنا مبتدر ک حاکم میں مفصل مذکور ہے۔

مقصد ان واقعات کے نقل کرنے سے یہ ہے کہ منکرین اور مخدیں خوب سمجھ لیں کہ حق جل شانہ نے اپنے محیین و مخلصین کی اس خاص طریقہ سے بارہاتا زید فرمائی کہ ان کو صحیح و سالم فرشتوں سے آسمانوں پر اٹھوالیا اور دشمن دیکھتے ہی رہ گئے، تاکہ اس کی قدرت کاملہ کا ایک نشان اور کر شمہ ظاہر ہو اور اس کے نیک بندوں کی کرامت اور منکرین مجرمات و کرامات کی رسائی و ذلت آشکارا ہو اور اس قسم کے خوارق کا ظہور مومنین اور مصدقین کے لئے موجب طہانیت اور مکذبین کے لئے اہم جست کا کام دے۔ ان واقعات سے یہ امر بھی بخوبی ثابت ہو گیا کہ کسی جسم عضری کا آسمان پر اٹھایا جانا نہ قانون قدرت کے خلاف ہے، نہ سنت اللہ کے متصاد ہے بلکہ ایسی حالت میں سنت اللہ یہی ہے کہ اپنے خاص بندوں کو آسمان پر اٹھایا جائے تاکہ اس ملیک مقدور کی قدرت کا کر شمہ ظاہر ہو اور لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ حق تعالیٰ کی اپنی خاص الخاص بندوں کے ساتھ یہی سنت ہے کہ ایسے وقت میں ان کو آسمان

پر اٹھا لیتا ہے۔ غرض یہ کہ کسی جسم عنصری کا آسمان پر اٹھایا جانا قطعاً محال نہیں بلکہ ممکن اور واقع ہے اور اسی طرح کسی جسم عنصری کا بغیر کھائے اور پیئے زندگی بسر کرنا بھی محال نہیں۔

نزول کی حکمتیں:

۱: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع اور نزول کی حکمت علماء نے یہ بیان کی کہ یہود کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا کما قال و قولهم انا قتلنا المیسیح عیسیٰ بن مریم رسول الله اور دجال جو اخیر زمانہ میں ظاہر ہو گا وہ بھی قوم یہود سے ہو گا۔ اور یہود اس کے قبیل اور پیرو ہوں گے۔ اس لئے حق تعالیٰ نے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا اور قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے تاکہ خوب واضح ہو جائے کہ جس ذات کی نسبت یہود یہ کہتے تھے کہ ہم نے اس کو قتل کر دیا وہ سب غلط ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے زندہ آسمان پر اٹھایا اور اتنے زمانہ تک ان کو زندہ رکھا اور پھر تمہارے قتل اور بر بادی کے لئے اتنا تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ تم جن کے قتل کے مدعی تھے ان کو قتل نہیں کر سکے بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے قتل کے لئے نازل کیا اور یہ حکمت فتح الباری کے باب نزول عیسیٰ علیہ السلام صفحہ: ۳۵ جلد ۱ پر مذکور ہے۔

۲: حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملک شام سے آسمان پر اٹھائے گئے تھے اور ملک شام ہی میں نزول ہو گا تاکہ اس ملک کو فتح فرمائیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے چند سال بعد فتح مکہ کے لئے تشریف لائے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے شام سے آسمان کی طرف ہجرت فرمائی اور قیامت سے کچھ روز پہلے شام کو فتح کرنے کے لئے آسمان سے نازل ہوں گے اور یہود کا استیصال فرمائیں گے۔

۳: نازل ہونے کے بعد صلیب کا توڑنا بھی اسی طرف مشیر ہو گا کہ یہود اور نصاریٰ کا یہ اعتقاد کہ سُبح بن مریم صلیب پر چڑھائے گئے بالکل غلط ہے۔ حضرت مسیح

علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں تھے، اس لئے نازل ہونے کے بعد صلیب کا نام و نشان بھی نہ چھوڑیں گے۔

۳:..... اور بعض علماء نے یہ حکمت بیان فرمائی ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا تھا کہ اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاؤ تو ان پر ضرور ایمان لانا اور ان کی ضرور مدد کرنا۔ کما قال تعالیٰ: لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتُتَصْرِنَّ، اور انبیاء بنی اسرائیل کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوتا تھا۔ اس لئے حق تعالیٰ شانہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر انٹھایا تاکہ جس وقت دجال ظاہر ہواں وقت آپ آسمان سے نازل ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مدد فرمائیں کیونکہ جس وقت دجال ظاہر ہوگا وہ وقت امت محمدیہ پر سخت مصیبت کا وقت ہوگا اور امت شدید امداد کی محتاج ہوگی۔ اس لئے عیسیٰ علیہ السلام اس وقت نازل ہوں گے تاکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و اعانت کا جو وعدہ تمام انبیاء کرچکے ہیں وہ وعدہ اپنی طرف سے اصالۃ اور باقی انبیاء کی طرف سے وکالتا ایفا فرمائیں گے۔ فافہم ذلك فانه لطیف۔

سوال ۱۰: حیات مسح پر قادریانی جو عقلی وساوس و شبہات پیدا کرتے ہیں ان میں سے تین کو ذکر کر کے ان کا جواب دیں؟

جواب

قادریانی اشکال نمبر ا: حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں ہیں تو وہاں کھاتے کیا ہوں گے؟

جواب: ا: جب آدمی عالم دنیا سے عالم بالا میں پہنچ جاتا ہے تو پھر اس پر وہاں

بِحَکْمَ خَدَوْنَدِی اڑا کر لے جاتی تھی، کسی بندہ کے عمل اور صنعت کو اس میں دخل نہ تھا اس لئے وہ مجزہ تھا اور ہوا کی جہاز مجزہ نہیں۔

قادیانی اشکال ۳:..... مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ:

”کسی جسد عصری کا آسمان پر جانا سارِ محال ہے، اس لئے کہ ایک جسم عصری طبقہ ناریہ اور کرہ زمہری یہ سے کس طرح صحیح و سالم گزر سکتا ہے۔“ (از الالا وہام م ۷۴ ج ارو حانی خزانہ م ۱۲۶ ج ۳)

نوٹ:..... یہ طبقہ ناریہ اور کرہ زمہری وغیرہ قدیم فلسفہ یونان کے خرافاتی نظریات ہیں جو موجودہ سائنس کی رو سے بالکل غلط ثابت ہو چکے ہیں۔ انسان کے چاند پر اتنے کے بعد وہاں زمینوں کی الاٹمنٹ شروع ہو گئی تھی۔ تو ان خلائی سفروں میں کہاں کا کرہ نار اور کہاں کا طبقہ زمہری؟ آج کی پڑھی لکھی دنیا میں یونانی خرافات پیش کرنے کی کیا گنجائش ہے؟ اس کے علاوہ چلنے حضرات انبیاء علیہم السلام کی سوانح سے بھی اس کا جواب سن لیجئے:

جواب:۱:..... جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لیلۃ المراجح میں اور ملائکۃ اللہ کا لیل و نہار طبقہ ناریہ اور کرہ زمہری یہ سے مرد و عبور ممکن ہے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی عبور و مرد و ممکن ہے اور جس راہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا ہبوط اور نزول ہوا ہے، اسی راہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہبوط و نزول بھی ممکن ہے۔

۲:..... حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آسمان سے مائدہ کا نازل ہوتا قرآن کریم میں صراحتاً ذکور ہے کہاں تعالیٰ: ”اذ قال الحواريون يعيسى بن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء (الى قوله تعالى) قال عيسى بن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيذا لا ولنا وآخرنا واية منك وارزقنا وانت خير الرازقين قال الله انى منزلها عليكم“، پس اس مائدہ کا نزول بھی طبقہ ناریہ

۶:.....حضرت یوسف علیہ السلام کا شکم ماہی میں بغیر کھائے پئے زندہ رہنا قرآن کریم میں صراحتاً مذکور ہے ان کے بارے میں حق تعالیٰ کا ارشاد: ”فلولا انہ کان من المسبحین للبٹ فی بطنه الی یوم یبعثون“ (الصفت ۱۳۳، ۱۳۴) اس پر صاف دلالت کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اگر مسیحین میں سے نہ ہوتے تو اسی طرح قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں نہ ہرے رہتے اور بغیر کھائے پئے زندہ رہتے۔

قادیانی اشکال نمبر ۲:.....جو شخص اسی یا انوے سال کو پہنچ جاتا ہے

وہ محض نادان ہو جاتا ہے، کما قال تعالیٰ: ”وَمَنْكُمْ مَنْ يُرْدَلِي إِرْذَلَ الْعُمر

(انخل ۷۰) لکھلا بعلم بعد علم شيئاً۔

جواب: ا:.....ارذل العمر کی تفسیر میں اسی یا انوے سال کی قید مرزا صاحب نے

اپنی طرف سے لگائی ہے، قرآن و حدیث میں کہیں قید نہیں۔

۲:.....اصحاب کہف تین سو سال تک کہیں نادان نہیں ہو گئے۔

۳:.....اور علی ہذا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام صد ہا سال زندہ رہے اور ظاہر ہے کہ نبی کے علم اور عقل کا زائل ہونا ناممکن اور محال ہے۔

قادیانی اشکال ۳:.....زمین سے لے کر آسمان تک کی طویل

مسافت کا چند بخوبی میں طے کر لینا کیسے ممکن ہے؟

جواب: ا:.....سو جواب یہ ہے کہ حکماء جدید لکھتے ہیں کہ روشنی ایک منٹ میں ایک کروڑ میں لاکھ میل کی مسافت طے کرتی ہے۔ بھلی ایک منٹ میں پانچ سو مرتبہ زمین کے گرد گھوم سکتی ہے، اور بعض ستارے ایک ساعت میں آٹھ لاکھ اسی ہزار میل حرکت کرتے ہیں، علاوہ ازیں انسان جس وقت نظر اٹھا کر دیکھتا ہے تو حرکت شعاعی اس قدر سریع ہوتی ہے کہ ایک ہی آن میں آسمان تک پہنچ جاتی ہے اگر یہ آسمان حائل نہ ہوتا تو اور دور تک وصول ممکن تھا۔

۲: جس وقت آفتاب طلوع کرتا ہے تو نور شش ایک ہی آن میں تمام کرہ ارضی پر پھیل جاتا ہے حالانکہ سطح ارضی ۲۰۳۴۳۶ فرغخ ہے جیسا کہ سبع شداد ص ۲۰ پر مذکور ہے اور ایک فرغخ تین میل کا ہوتا ہے لہذا مجموعہ ۱۱۰۹۰۹۰۸ کروڑ میل ہوا۔ حکماء قدیم کہتے ہیں کہ: جتنی دیر میں جرم شش بتمامہ طلوع کرتا ہے اتنی دیر میں فلک اعظم کی حرکت ۱۹۶۰۰ لاکھ فرغخ ہوتی ہے اور ہر فرغخ چونکہ تین میل کا ہوتا ہے لہذا مجموعہ مسافت ۱۵۵۸۸۰۰ لاکھ میل ہوئی۔

۳: شیاطین اور جنات کا شرق سے لے کر غرب تک آن واحد میں اس قدر طویل مسافت کا طے کر لینا ممکن ہے تو کیا خداوند عالم اور قادر مطلق کے لئے یہ ممکن نہیں کہ وہ کسی خاص بندے کو چند گھنٹوں میں اس قدر طویل مسافت طے کرادے؟

۴: آصف بن برخیا کا مہینوں کی مسافت سے بلقیس کا تخت، سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پلک جھپکنے سے پہلے پہلے حاضر کر دینا قرآن کریم میں مذکور ہے کہاں قائل تعالیٰ:

”قال الذى عنده علم من الكتب انا اتيك به قبل ان
يرتد اليك طرفك فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل
(النمل: ۴۰) ربى۔“

۵: اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے لئے ہوا کا مسخر ہونا بھی قرآن کریم میں مذکور ہے کہ وہ ہوا سلیمان علیہ السلام کے تخت کو جہاں چاہے اڑا کر لے جاتی اور مہینوں کی مسافت گھنٹوں میں طے کرتی کہاں قائل تعالیٰ: ”وسخرنا له الريح تجري بامرہ“۔

۶: آج کل کے ملکیں فی گھنٹہ بڑا میل کی مسافت طے کرنے والے ہوائی جہاز پر تو ایمان لے آئے ہیں مگر نہ معلوم سلیمان علیہ السلام کے تخت پر بھی ایمان لاتے ہیں یا نہیں؟ ہوائی جہاز بندہ کی بنائی ہوئی مشین سے اڑتا ہے اور سلیمان علیہ السلام کے تخت کو ہوا

لوازمات روحانیہ طاری ہو جاتے ہیں اور دنیاوی عوارض اس کو لاحق نہیں ہوتے۔ یوں سمجھیں کہ اس دنیا میں جسم غالب، اُس جہاں میں روح غالب جسم مغلوب۔ للہذا عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں کے عالات کے مطابق روحانی غذا ملتی ہے۔ پس وہ کیا کھاتے ہوں گے؟ یہ اشکال باقی نہ رہا۔

۲: اصحاب کہف کا تین سو سال تک بغیر کھائے پیئے زندہ رہنا خود قرآن کریم میں مذکور ہے: ”وَلَبِثُوا فِي كَهْفٍ كَهْفٌ ثَلَاثَ مائِةَ سَنِينَ وَإِزَادَادُ تِسْعَاً۔“ (الکھف: ۲۵)

۳: حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دجال ظاہر ہو گا تو شدید قحط ہو گا اور اہل ایمان کو کھانا میسر نہ آئے گا، اس پر صحابہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اس وقت اہل ایمان کا کیا حال ہو گا؟ آپؐ نے ارشاد فرمایا: ”يَحْرِزُهُمْ مَا يَحْرِزُ اهْلُ السَّمَااءَ مِن التَّسْبِيعِ وَالتَّقْدِيسِ“ (مشکوٰۃ ص ۷۷) یعنی اس وقت اہل ایمان کو فرشتوں کی طرح تسبیح و تقدیس ہی غذا کا کام دے گی۔

۴: اور حدیث میں ہے کہ نبی اکرمؐ کئی کئی دن کا صوم و صال رکھتے اور یہ فرماتے: ”أَيُكُمْ مُشْلِي أَنِي أَبْيَتْ يَطْعَمُنِي رَبِّي وَيُسْقِينِي“ (بخاری ص: ۲۱۰۲) تم میں کون شخص میری مثل ہے کہ جو ”صوم و صال“ میں میری برابری کرے، میرا پروردگار مجھے غیب سے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے یہ غیبی طعام میری غذا ہے معلوم ہوا کہ طعام و شراب عام ہے خواہ حسی ہو یا غیبی ہو۔ للہذا و ما جعلنَّهُمْ جسداً لَا يَا كَلُونَ الطَّعَامَ سَيِّدَ لَنَّهُ كَطَّاعَمَ وَشَرَابَ عَامَ ہے کہ خواہ حسی ہو یا معنوی۔

۵: حضرت آدم علیہ السلام کی جنت میں آسمانوں پر خوارک دینیوں نہ تھی۔ نیز حضرت مسیح علیہ السلام نقش جبریل سے پیدا ہونے کے باوجود جبریل امین کی طرح تسبیح و تہلیل سے زندگی کیوں نہیں بسر فرماسکتے؟ کما قال تعالیٰ: ”إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمُثَلِّ آدَمَ“ (آل عمران: ۵۹)، جو آدم علیہ السلام آسمانوں پر کاماتے تھے وہی عیسیٰ علیہ السلام کھاتے

سے گزر کر ہوا ہے۔ مرز اصحاب کے زعم فاسد اور خیال باطل کی بنا پر اگر وہ نازل ہوا ہو گا تو طبقہ ناریہ کی حرارت اور گرمی سے جل کر خاکستر ہو گیا ہو گا۔ نعوذ باللہ ممن نہ ہے الْخَرَافَاتِ یہ سب شیاطین الانس کے وسو سے ہیں اور انبیاء و مرسیین کی آیات نبوت اور کرامات رسالت پر ایمان نہ لانے کے بھانے ہیں۔

۳:..... کیا خداوند والجلال عیسیٰ علیہ السلام کے لئے طبقہ ناریہ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرح برداور سلام نہیں بنایا سکتا؟ جبکہ اس کی شان یہ ہے:
 ”انما امره اذا اراد شيئاً ان يقول له كن فيكون،
 فسبحان ذى الملك الملکوت والعزة الجبروت امنت بالله

وَكَفْرُتُ بِالظَّاغُوتِ“۔

ایک ایتم بم حوالہ:
 اس بحث کو ختم کرنے سے قبل دو حوالہ جات ملاحظہ ہوں۔ پہلے حوالہ میں مرز اقادیانی صراحت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات کا اقرار کرتا ہے، دوسرے حوالہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات آسانوں پر مانتا ہے۔ ان حوالہ جات سے آپ کو یہ فائدہ ہو گا کہ جب کوئی مرز ایسی حیات مسیح پر اشکال کرے کریج علیہ السلام آسانوں پر کیسے گئے تو فوراً آپ کہہ دیں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے۔ وہ پوچھئے عیسیٰ علیہ السلام آسانوں پر کیا کھاتے ہوں گے، آپ کہہ دیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کھاتے ہیں۔ حیات مسیح پر تمام اشکالات کا حل اور ایزامی جواب یہ حوالہ جات ہیں۔ مرز الکھتا ہے:

اب..... ”بل حیات کلیم اللہ ثابت بنص القرآن الکریم

الا تقرء فی القرآن ما قال اللہ تعالیٰ عزو جل فلا تکن فی
 مسیحیة من لقائہ۔ و انت تعلم ان هذه الاية نزلت فی موسیٰ

فہمی دلیل صریح علیٰ حیات موسیٰ علیہ السلام لانہ لقی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والاموات لا یلاقوں
الاحیاء ولا تجد مثل هذه الایات فی شذ عیسیٰ علیہ
السلام نعم جاء ذکر وفاتہ فی مقامات شُتُّی۔“

(حادثۃ البشیر ص ۵۵ روحانی خزانہ ص ۲۲۱ ج ۷)

:۲..... ”هذا هو موسیٰ فتی اللہ الذی اشار اللہ فی کتابه
الی حیاته و فرض علینا ان نؤمن انه حیٰ فی السماء و لم یمت
و ليس من المیتین۔“ (نور الحق ص ۵۰ روحانی خزانہ ص ۲۹ ج ۸)

:۳..... پس جب بھی قادیانی، حیات عیسیٰ پر اشکال کریں آپ اس کا الزامی جواب
دے دیں جو حوالہ جات بالا سے ثابت ہے۔

:۴..... یہ بھی معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی بد نصیب ایسا بدجنت شخص تھا جو ہربات میں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا جہاد جاری ہے، مرزا نے کہا
جہاد حرام ہے۔ آپ نے فرمایا نبوت بند ہے، مرزا نے کہا جاری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ
عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، مرزا نے کہا کہ فوت ہو گئے۔ آپ کی امت کا عقیدہ ہے کہ موسیٰ
علیہ السلام فوت ہو گئے، مرزا کہتا ہے آسمان پر زندہ ہیں، تو جو شخص ہربات میں آپ کی
مخالفت کرے وہ ابلیس سے بھی بڑا کافر ہے۔



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کذب مرزا

سوال: مرزا غلام احمد قادریانی کی زندگی کے مختصر حالات تحریر کریں جس میں اس کے دعویٰ نبوت تک پہنچنے کے تدریجی مراحل کا باحوالہ بیان ہو؟ وضاحت سے لکھیں۔

جواب:

نام و نسب: مرزا غلام احمد قادریانی خود اپنا تعارف کرتے ہوئے لکھتا ہے: ”میرا نام غلام احمد میرے والد صاحب کا نام غلام مرتضیٰ اور دادا صاحب کا نام عطا محمد اور میرے پرداوا صاحب کا نام گل محمد تھا، اور جیسا کہ بیان کیا گیا ہے ہماری قوم مغل بر لاس ہے، اور میرے بزرگوں کے پرانے کاغذات سے جواب تک محفوظ ہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس ملک میں سرفند سے آئے تھے۔“

(کتاب البریہ حاشیہ ص ۱۳۲، روحانی خزانہ ص ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴ اور ج ۱۳)

تاریخ و مقام پیدائش:

مرزا غلام احمد قادریانی کا آبائی وطن قصبه قادریان تھیں میں سے بیان میں سکھوں کے آخري وقت اور تاریخ پیدائش کے سلسلہ میں اس نے یہ وضاحت کی ہے:

”میری پیدائش ۱۸۳۹ء یا ۱۸۴۰ء میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی ہے اور میں ۷۷ء میں سولہ برس کا یا ستر ہوں یہ برس میں تھا۔“

(کتاب البریہ حاشیہ، روحانی خزانہ ص ۷۷، ج ۱۳)

تعلیم:

مرزا غلام احمد قادریانی نے قادریان میں ہی رہ کر متعدد اساتذہ سے تعلیم حاصل کی، جس

کی قدر تفصیل خود اس کی زبانی ملاحظہ ہو:

”بچپن کے زمانہ میں میری تعلیم اس طرح پر ہوئی کہ جب میں چھ سال کا تھا تو ایک فارسی خواں معلم میرے لئے نوکر (استاذ) کا احترام ملاحظہ ہو..... ناقل) رکھا گیا جنہوں نے قرآن شریف اور چند فارسی کتابیں مجھے پڑھائیں اور اس بزرگ کا نام فضل الہی تھا، اور جب میری عمر تقریباً دس کی ہوئی تو ایک عربی خواں مولوی صاحب میری تربیت کے مقرر کے گئے جن کا نام فضل احمد تھا میں خیال کرتا ہوں کہ چونکہ میری تعلیم خدا تعالیٰ کے فضل کی ایک ابتدائی تحریزی تھی، اس لئے ان استادوں کے نام کا پہلا لفظ بھی فضل ہی تھا۔ مولوی صاحب موصوف جو ایک دیندار اور بزرگوار آدمی تھے، وہ بہت توجہ اور محنت سے پڑھاتے رہے اور میں نے صرف کی بعض کتابیں اور کچھ قواعد خوان سے پڑھے اور بعد اس

سال پڑھنے کا اتفاق ہوا، ان کا نام گل علی شاہ تھا، ان کو بھی میرے والد صاحب نے نوکر کر قادیانی میں پڑھانے کے لئے مقرر کیا تھا۔ اور ان آخر الذکر مولوی صاحب سے میں نے سخواں اور منطق اور حکمت وغیرہ علوم مروجہ کو جہاں تک خدا تعالیٰ نے چاہا حاصل کیا اور بعض طباعت کی کتابیں میں نے اپنے والد صاحب سے پڑھیں اور وہ فن طباعت میں بڑے حاذق طبیب تھے اور ان دونوں میں مجھے کتابوں کے دیکھنے کی طرف اس قدر توجہ تھی کہ گویا میں دنیا میں نہ تھا۔“

(کتاب البر یہ براہی ص ۲۹۷، ۳۱۶، ۳۲۳ ارجمندی خزانہ مص ۹۷۸، ۱۸۱ ارجمندی)

جوانی کی رنگ رلیاں اور ملازمت:

مرزا غلام احمد قادیانی نے جب کچھ شعور حاصل کیا اور جوانی میں قدم رکھا تو نادان دوستوں اور احباب کی بدولت آوارہ گردی میں بٹلا ہو گیا، اس کا کچھ اندازہ حسب ذیل واقعہ سے لگایا جاسکتا ہے، چنانچہ مرزا کا اپنا بیٹا بشیر احمد لکھتا ہے:

”بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ ایک دفعہ اپنی جوانی کے زمانہ میں حضرت مسیح موعود (مرزا) تمہارے دادا کی پیشہ وصول کرنے گئے تو چیچھے یچھے مرزا امام الدین بھی چلا گیا، جب آپ نے پیشہ وصول کر لی تو وہ آپ کو پھسلا کر اور دھوکہ دے کر بجائے قادیانی لانے کے باہر لے گیا اور ادھر ادھر پھر اتارا، جب اس نے سارا روپیہ اڑا کر ختم کر دیا تو آپ کو چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا، حضرت مسیح موعود اس شرم سے واپس نہیں آئے اور چونکہ تمہارے دادا کا منشا رہتا تھا کہ آپ کہیں ملازم ہو جائیں، اس لئے آپ سیالکوٹ شہر میں ذپی کمشنز کی پکھری میں قلیل تغواہ پر ملازم ہو گئے۔“

(سیرت المهدی حصہ اول ص ۳۲۹ روایت ص ۳۶۹ مصنف صاحبزادہ بشیر احمد صاحب قادیانی)

مرزا غلام احمد قادیانی کو بہلا کر لے جانے والا مرزا امام الدین کس مقام کا تھا اس کے لئے درجہ ذمیل تصریح ملاحظہ ہو:

”مرزا نظام الدین و مرزا امام الدین وغیرہ پر لے درجہ کے بے دین اور دہری طبع لوگ تھے۔“ (سیرت المهدی حصہ اول ص ۱۱۷ روایت ۱۲۷)

حکومت برطانیہ کا منتظر نظر:

سیالکوٹ میں ملازمت کے دوران مرزا غلام احمد نے یورپیں مشنریوں اور بعض انگریز افسروں سے پینگیں بڑھانی شروع کیں اور مذہبی بحث کی آڑ میں عیسائی پادریوں سے طویل خفیہ ملاقاتیں کیں اور انہیں اپنی حمایت و تعاون کا پورا لقین دلایا چتا نچہ سیرت مسیح موعود مصنف مرزا محمود صفحہ ۱۵ (ربوہ) میں برطانوی انٹلیجنسی سیالکوٹ مشن کے انچارج مسٹر یورنڈ بٹلر کی مرزا سے ملاقات کا ذکر موجود ہے۔ یہ ۱۸۶۸ء کی بات ہے۔ اس کے چند ہی دن بعد مرزا غلام احمد قادیانی نے سیالکوٹ پکھری کی ملازمت ترک کر کے قادیانی میں مستقل سکونت اختیار کر لی اور تصنیف و تالیف کا کام شروع کر دیا۔ مرزا صاحب ”ذپی کمشن سیالکوٹ کی پکھری میں“ ۱۸۶۹ء

سے ۱۸۶۸ء تک چار سال ملازم رہے۔” (سیرت المهدی حصہ اول ص ۱۵۸، ۱۵۹ ملخصہ)

صداقتِ اسلام کے نعروہ سے اسلام کی بخش کنی کا آغاز:

قادیانی پہنچ کر پہلے تو عام مسلمانوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنے کے لئے مرزا غلام احمد قادریانی نے عیسائیوں، ہندوؤں اور آریوں سے کچھ نامکمل مناظرے کئے، اس کے بعد ۱۸۸۰ء سے (براہین احمدیہ) نامی کتاب لکھنی شروع کی، جس میں اکثر مضامین عام مسلمانوں کے عقائد کے مطابق تھے، لیکن ساتھ ہی اس میں مرزا نے اپنے بعض الہامات داخل کر دیئے اور طرفہ تمثیلیہ کہ صداقتِ اسلام کے دعویٰ پر لکھی جانے والی اس کتاب میں انگریزوں کی مکمل اطاعت اور جہاد کی حرمت کا اعلان شد و مدد کے ساتھ کیا۔ مرزا غلام احمد قادریانی نے ۱۸۸۰ء سے ۱۸۸۳ء تک براہین احمدیہ کے ۲۷ حصے لکھے، جب کہ پانچواں حصہ ۱۹۰۵ء میں لکھ کر شائع کیا۔

دعاویٰ مرزا:

۱۸۸۰ء سے مرزا نے مختلف دعاویٰ کا سلسلہ شروع کیا، اس کے چند اہم دعاویٰ یہ ہیں:

۱: ۱۸۸۰ء میں ملہم من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا۔

۲: ۱۸۸۲ء میں مجدد ہونے کا دعویٰ کیا۔

۳: ۱۸۹۱ء میں سُجح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔

۴: ۱۸۹۹ء میں ظلیٰ بروزی نبوت کا دعویٰ کیا۔

۵: ۱۹۰۱ء میں مستقل صاحب شریعت بنی ہونے کا دعویٰ کیا۔

ان کے علاوہ بھی اس نے عجیب و غریب قسم کے دعوے کئے۔

بیت اللہ ہونے کا دعویٰ:

”خدانے اپنے الہام میں میرا نام بیت اللہ بھی رکھا ہے۔“

(اربعین ۲۵ ص ۱۵۸ حاشیہ روحاںی خزانہ ج ۷ اص ۲۲۵)

۱۸۸۲ء مجدد ہونے کا دعویٰ:

”جب تیر ہویں صدی کا اخیر ہوا اور چودھویں کا ظہور ہونے لگا تو

خدا تعالیٰ نے الہام کے ذریعہ سے مجھے خبر دی کہ تو اس صدی کا مجدد
ہے۔” (کتاب البر یہص ۱۸۲ بر حاشیہ، روحاںی خزانہ ج ۱۳ ص ۲۰۱)

۱۸۸۲ء مامور ہونے کا دعویٰ:

”میں خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور ہو کر آیا ہوں۔“

(نصرۃ الحق بر این احمد یہ ج ۵۲ ص ۲۶۱ در در حادی خزانہ ج ۲۱ ص ۶۶)

(کتاب البر یہص ۱۸۲ حاشیہ در در حادی خزانہ ج ۱۳ ص ۲۰۲)

۱۸۸۲ء نذر ہونے کا دعویٰ:

”الرَّحْمَنْ عَلِمَ الْقُرْآنَ لِتَنذِيرِ قَوْمًا مَا انْذَرَ أَبَاؤُهُمْ“ (خدا نے
تجھے قرآن سکھلایا تاکہ تو ان لوگوں کو ڈرائے جن کے باپ دادے
ڈرائے نہیں گئے) (تذکرہ ص ۳۳۳، ضرورة الامام ص ۳۱ در در حادی خزانہ ص ۵۰۲
جلد ۱۳، بر این احمد یہ حصہ ۵۲ ص ۵۲ در در حادی خزانہ ج ۲۱ ص ۶۶)

۱۸۸۳ء آدم، مریم اور احمد ہونے کا دعویٰ:

”يَا آدَمَ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ يَا مَرِيمَ اسْكُنْ أَنْتَ
وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ يَا أَحْمَدَ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ نَفْخْتُ
فِيكُمْ مِنْ لَدْنِي رُوحَ الصَّدْقِ“

ترجمہ: ”ای آدم، اے مریم، اے احمد! تو اور جو شخص تیراتابع اور
رفیق ہے، جنت میں یعنی نجات حقیقی کے وسائل میں داخل ہو جاؤ میں نے
اپنی طرف سے سچائی کی روح تجھیں پھونک دی ہے۔“

(تذکرہ ص ۷۰، بر این احمد یہص ۷۴ در در حادی خزانہ ج ۱۳ ص ۵۹۰ حاشیہ)

تشریح:

”مریم ام عیسیٰ مرا نہیں اور نہ آدم سے آدم ابوالبشر
مرا دے اور نہ احمد سے اس جگہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مرا د
ہیں اور ایسا ہی ان الہامات کے تمام مقامات میں کہ جو مویٰ اور عیسیٰ اور

۲۱۶

داو دو غیرہ نام بیان کئے گئے ہیں، ان ناموں سے بھی وہ انبیاء مراد نہیں ہے بلکہ ہر ایک جگہ یہی عاجز مراد ہے۔“

(مکتوبات احمد یہ جلد اول ص ۸۲ مکتوب بنام میر عباس علی بحوالہ تذکرہ ص ۷۲، ۷۳ حاشیہ)

۱۸۸۳ء رسالت کا دعویٰ:

الہام: ”انی فضلتک علی العالمین قل ارسلت الیکم جمیعاً۔ (میں نے تجوہ کو تمام جہانوں پر فضیلت دی کہ میں تم سب کی طرف بھیجا گیا ہوں)

(تذکرہ ص ۱۲۹ مکتوب حضرت مسیح موعود رضا امور ح ۳۰ دسمبر ۱۸۸۳ء)

اربعین نمبر ۲۶ ص ۷۴ روحاںی خزانہ نج ۷۴ ص ۳۵۳)

۱۸۸۶ء توحید و تفرید کا دعویٰ:

الہام: ”تو مجھ سے ایسا ہے جیسی میری توحید اور تفرید۔“

(تذکرہ ص ۳۸۱ طبع دوم)

”تو مجھ سے اور میں تجوہ سے ہوں۔“ (تذکرہ ص ۳۳۶ ضعیف دوم)

۱۸۹۱ء مثل مسیح ہونے کا دعویٰ:

”اللہ جل شانہ کی وحی اور الہام سے میں نے مثل مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور یہ بھی میرے پر ظاہر کیا گیا ہے کہ میرے بارے میں پہلے سے قرآن شریف اور احادیث نبویہ میں خبر وی گئی ہے اور وحدہ دیا گیا ہے۔“

(تذکرہ ص ۲۷۴ طبع سوم تلخ رسالت نج اص ۱۵۹ مجموعہ اشتہارات نج اص ۷۴)

۱۸۹۱ء مسیح ابن مریم ہونے کا دعویٰ:

الہام: ”جعلناك المسيح بن مریم“ (هم نے تجوہ کو مسیح ابن مریم بنایا) ان کو کہہ دے کہ میں عیسیٰ کے قدم پر آیا ہوں۔“

(تذکرہ ص ۱۸۶ طبع سوم ازالہ اول اص ۳۳۲ در روحاںی خزانہ نج اص ۳۳۲ جلد ۳)

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو

اس سے بہتر غلام احمد ہے

(دافع الملا ص ۳۰ در دروحتی خراں ص ۲۲۰ جلد ۱۸)

۱۸۹۲ء صاحب کن فیکون ہونے کا دعویٰ:

الہام:....."انما امرک اذا اردت شيئاً ان تقول له کن

فیکون۔"

"لیعنی تیری یہ بات ہے کہ جب تو کسی چیز کا ارادہ کرے تو اسے کہے کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گی۔"

(مذکورہ ۲۰۳، طبع سوم بر این احمد یہ حصہ ۵ ص ۹۵ در دروحتی خراں ص ۱۲۳ ج ۲۱)

۱۸۹۸ء مسح اور مہدی ہونے کا دعویٰ:

"بشرنی وقال ان المسيح الموعود الذى يربونه

والمهدى المسعود الذى يتظرون به هوا نت۔"

ترجمہ: "خدا نے مجھے بشارت دی اور کہا کہ وہ مسح موعود اور مہدی مسعود جس کا انتظار کرتے ہیں وہ تو ہے۔"

(مذکورہ ۲۵۷، طبع سوم اتمام الحجہ ص ۳ در دروحتی خراں ج ۲۲۵ ص ۸۵)

۱۸۹۸ء امام زماں ہونے کا دعویٰ:

"سوئیں اس وقت بے دھڑک کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے فضل اور

عنایت سے وہ امام زماں میں ہوں۔"

(ضرورة الامام ص ۲۳۲ در دروحتی خراں ج ۱۳ ص ۳۹۵)

۱۹۰۰ء ظلی نبی ہونے کا دعویٰ:

"جب کہ میں بروزی طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور

بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی مع نبوت محمدیہ کے میرے آئیں ظلیت

میں منعکس ہیں تو پھر کونسا الگ انسان ہوا، جس نے علیحدہ طور پر نبوت کا

(ایک ظلی کا ازالہ ص ۸ در دروحتی خراں ج ۱۸ ص ۲۱) یا۔"

نبوت ورسالت کا دعویٰ:

۱: انا انزلناہ قریباً من القادیان الخ

ترجمہ: ”ہم نے اس کو قادیان کے قریب اتارا ہے۔“

(براہین الحمدیہ حاشیہ ص ۳۹۹ در دروحانی خزانہ ج ۱۸ ص ۵۹۲، الحکم جلد نمبر ۷)

شمارہ نمبر ۳۴۰ مورنی ۲۲/ اگست ۱۹۰۰ء بحوالہ تذکرہ ص ۷۳۶ (طبع سوم)

۲: ”سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول

(وافع البلاء ص ۱۸ در دروحانی خزانہ ج ۱۸ ص ۲۳) بھیجا۔“

۳: ”میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی ہوں یعنی بھیجا گیا بھی اور

خدا سے غیب کی خبر میں پانے والا بھی۔“

(ایک غلطی کا ازالہ ص ۲۱ در دروحانی خزانہ ج ۱۸ ص ۲۱)

۴: ”خدا وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو یعنی اس عاجز کو

ہدایت اور دین حق اور تہذیب اخلاق کے ساتھ بھیجا۔“

(اربعین نمبر ۳۶ ص ۳۶ در دروحانی خزانہ ج ۷ ص ۲۶)

و ضمیر تھہ گولڈ یہ ص ۲۲ در دروحانی ج ۷ ص ۳۷)

۵: ”وہ قادر خدا قادیان کو طاعون کی تباہی سے محفوظ رکھی گئی کہ وہ خدا کا رسول اور فرستادہ

قادیان میں تھا۔“ (وافع البلاء ص ۱۸ در دروحانی خزانہ ج ۱۸ ص ۲۲۶، ۲۲۵)

مستقل صاحب شریعت نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ:

۱: ”قُلْ يَا يَهُوَ النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا إِنِّي مُسْتَقْلٌ

”مُرْسَلٌ مِّنَ اللَّهِ“

ترجمہ: ”اوہ کہہ کے اے لوگو! میں تم سب کی طرف خدا تعالیٰ کا رسول ہو کر آیا ہوں۔“

(اشتہار معیار الاحیاء ص ۲۳ جمود اشتہارات ج ۳ ص ۷۷ منتقل از تذکرہ ص ۳۵۲ (طبع سوم))

۲: ”أَنَا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا

ارسلنا إلی فرعون رسولًا۔“

ترجمہ: ”ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے، اسی رسول کی مانند جو فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا۔“

(حقیقت الوجی ص ۱۰۵ اور روحانی خزانہ ج ۲۲ ص ۱۰۵)

۳:.....”اور اگر کہو کہ صاحب الشریعت افترا کر کے ہلاک ہوتا ہے نہ ہر ایک مفتری تو اول تو یہ دعویٰ بے دلیل ہے۔ خدا نے افترا کے ساتھ شریعت کی کوئی قید نہیں لگائی۔ مساواں کے یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے؟ جس نے اپنی وحی کے ذریعہ سے چند امر اور نبی بیان کئے اور اپنی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا وہی صاحب شریعت ہو گیا، پس اس تعریف کے رو سے بھی ہمارے مخالف ملزم ہیں کیونکہ میری وحی میں امر بھی ہیں اور نبی بھی۔ مثلاً یہ الہام: ”قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُلُوْمِنَ بِأَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْمِنَ فِرْوَاهِمْ ذَالِكَ ازْكَرْ لَهُمْ“ یہ براہین احمدیہ میں درج ہے اور اس میں امر بھی ہے اور نبی بھی اور اس پر تینیں برس کی مدت بھی گزر گئی اور ایسا ہی اب تک میری وحی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نبی بھی، اور اگر کہو کہ شریعت سے وہ شریعت مراد ہے جس میں نئے احکام ہوں تو یہ باطل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ان هذالفی الصحف الاولی صحف ابراهیم و موسیٰ یعنی قرآنی تعلیم توریت میں بھی موجود ہے اور اگر یہ کہو کہ شریعت وہ ہے جس میں باستیفاً امر اور نبی کا ذکر ہو تو یہ بھی باطل ہے، کیونکہ اگر توریت یا قرآن شریف میں باستیفاً احکام شریعت کا ذکر ہوتا تو پھر اجتہاد کی گنجائش نہ رہتی۔“

(اربعین نمبر ۲ ص ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷ ج ۱۷)

۴:.....”یس انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔“

(اے سردار تو خدا کا مرسل ہے راہ راست پر)

(حقیقت الوجی ص ۷۰ اور روحانی خزانہ ج ۲۲ ص ۱۱۰)

۵: ”فَكَلِمْنِي وَنَادَانِي وَقَالَ أَنِي مُرْسَلُكَ إِلَى قَوْمٍ

مُفْسِدِينَ وَأَنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ أَمَامًا وَأَنِي مُسْتَخْلِفُكَ إِكْرَامًا كَمَا

جَرِتْ سَنَتِي فِي الْأَوَّلِينَ۔“ (إنعام آياتهم ص ۹۷ اور روحانی خزانہ ج ۱۱ ص ۹۷)

”هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهَدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَهِّرَهُ عَلَىٰ

الَّدِينِ كُلِّهِ“ (اعجاز الحمدی ص ۷۰ اور روحانی خزانہ ج ۱۹ ص ۱۱۳)

”اَبْ ظَاهِرٌ هُوَ كَمَا اَنْجَمَ مِنْ مَعْرِفَةٍ بَارِبَارٍ بِيَانٍ كَيْاً گیا

ہے کہ یہ خدا کا فرستادہ، خدا کا مامور، خدا کا امین اور خدا کی طرف سے آیا

ہے، جو کچھ کہتا ہے اس پر ایمان لا اور اس کا دشمن جہنمی ہے۔“

(إنعام آياتهم ص ۲۲ اور روحانی خزانہ ج ۲۲ ص ۱۱)

یہ ہیں مرزا غلام احمد کے چند دعاوی جیسا کہ ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں کہ ان سبھی دعاوی کے صرف دو حركات ہیں:

الف: مسلمانوں میں افتراق پیدا کر کے حکومت برطانیہ کی کاسہ لیسی کرنا۔

ب: مالیخواہ مراقب کا اثر ظاہر ہونا۔

نوٹ: ان ہی دو دجوہات کو عوام کے سامنے بیان کر کے مرزا غلام احمد قادریانی کے دعاوی بتدریج بیان کرنے چاہئیں تاکہ عوام کا ذہن اس بات کو با آسانی قبول کرنے پر آمادہ ہو کہ ان بلند بالا گ دعوؤں کی بنیاد روحانیت، عقیقت یا حقیقت پر نہیں بلکہ صرف صرف مادیت پرستی، بد عقلی اور کذب پر ہے۔

سوال ۲: ایمان کی تعریف کریں؟ ضروریات دین

کس کو کہتے ہیں؟ کفر کا کیا معنی ہے؟ ”کفر دون کفر“ کے کہتے ہیں؟

نیز کافر، فلہم، مرتد، زندیق اور منافق ہر ایک کی تعریف کریں اور

بتائیں کہ قادریانی کس زمرہ میں داخل ہیں؟ لزوم کفر اور التزم کفر کو

واضح کرتے ہوئے مرزا نیوں کے جواب دیں کہ قادریانیوں

کی عکفیر کرنے والوں نے آپس میں بھی ایک دوسرے کی عکفیر کی ہے؟

جواب:
ایمان کی تعریف:

لفظ ایمان امکن اور امانت سے مشتق ہے، لغت میں ایمان ایسی خبر کی تصدیق کو کہتے ہیں کہ جس خبر کا ہم نے مشاہدہ نہ کیا ہو اور بعض مخترکی امانت اور صدقافت کے بھروسہ اور اعتماد پر اس کو تسلیم کر لیا ہو، اور اصطلاح شریعت میں اعیانہ کرام علیہم السلام پر اعتماد اور بھروسہ کر کے احکام خداوندی اور غیب کی بخوبی کو ایمان کہتے ہیں مثلاً فرشتوں کو بغیر دیکھنے میں بھروسہ کر کے احکام رسول کے اعتماد پر ماننے کا نام ایمان ہے اور مرتب وقت فرشتوں کو اپنی آنکھ سے دیکھ کر ماننا یہ ایمان نہیں، کیونکہ یہ ماننا اپنے مشاہدہ پر می ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد اور بھروسہ پر نہیں۔ واضح ہو کہ فقط یقینی علم کا نام ایمان نہیں بلکہ اپنے ارادے اور دل سے اس کو ماننا بھی ضروری ہے، جس کو تسلیم کہتے ہیں۔

نوٹ: اس موضوع پر حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیریؒ کی کتاب "اکفارالمحلدین" لا جواب کتاب ہے جس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ مولانا محمد اور لیں کاندھلوی نے اسی سے اکتاب کیا ہے۔ دیکھنے احتساب قادیانیت جلد دوم۔

ضروریات دین کی تعریف:

ضروریات دین اصطلاح شریعت میں ان قطعی اور یقینی امور کو کہا جاتا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بطریق تواتر قطعی طور پر ثابت ہوں اور حد تواتر یعنی شہرت عام کو پہنچ چکے ہوں کہ عام طور پر مسلمان ان امور کو جانتے ہوں۔ ایمان اور اسلام کے لئے ان امور کا تسلیم کرنا لازم اور ضروری ہے۔

تاویل وہاں معتبر ہے جہاں کوئی اشتبہ ہو اور تواعد عربیت اور تواعد شریعت میں اس کی گنجائش ہو یعنی وہ تاویل کتاب و سنت اور اجماع امت کے خلاف نہ ہو اور جو حکم شرعی ایسی دلیل سے ثابت ہوئے جو قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت بھی ہو اس میں تاویل معتبر نہیں

بلکہ ایسے امور میں تاویل کرنا انکار کے ہم معنی ہے۔
کفر کی تعریف:

کفر شریعت میں ایمان کی ضد ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نبی کے بھروسہ اور اعتماد پر ہمیں قطعی اور یقینی طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پہنچی ہو، اس چیز کو نہ ماننے کا نام کفر ہے۔ قطعی اور یقینی کی قید اس لئے لگائی گئی کہ دین کے احکام ہم تک دو طریق سے پہنچے ہیں، ایک بطریق تو اتر اور ایک بطریق خبر واحد، تو اتر اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک علی الاتصال اور مسلسل اس طرح پہنچی ہو کہ ہر دور میں ایک جماعت اس کو روایت کرے اور عہد نبوت سے لے کر اس وقت تک اس لابعد نسل ہر زمانہ کے مسلمان اس کو نقل کرتے چلے آ رہے ہوں۔ ایسی شیء قطعی اور یقینی ہے جس میں احتمال خطأ اور نسیان کا نہیں، ایسے قطعی اور یقینی اور متواتر امور کا انکار کفر ہے، اور جو امور خبر واحد سے ثابت ہوں ان کا انکار کفر نہیں۔

کفر دون کفر:

کفر کا اطلاق کبھی کفر فرعی یعنی غیر اصلی پر بھی ہوتا ہے جیسے: ”سباب المسلم فسوق و قتاله کفر“ اس کو کفر دون کفر کہتے ہیں۔ ایمان کو نور اور کفر کو ظلمت کہا گیا ہے نور کی مثال خالص دن اور کفر کی مثال خالص رات کی ہے۔ اب دن اور رات کے بعد درمیانی حصہ مثلاً صبح صادق وغیرہ نہ تو خالص دن ہے اور نہ خالص رات یہی مثال کفر دون کفر کی ہے۔

لزوم کفر:

غیر ارادی طور پر کہیں ایسی بات کہہ ڈالی جو کفر یہ بات تھی، جیسے داڑھی کا مذاق اڑایا، مگر اسے ایسی بات کا خیال بھی نہیں تھا کہ یہ کفر ہے لیکن اس کے اس فعل سے کفر لازم آ گیا، اسے لزوم کفر کہتے ہیں۔

التزام کفر:

ایک آدمی نے جان بوجھ کر کفر یہ کلمہ کہا جیسے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہے، وہی نبوت جاری ہے، اگر جان بوجھ کر، عقیدۃ وارادۃ کہا تو کفر کا التزام کیا۔ لزوم کفر کم درجہ کا کفر ہے، التزام کفر شدید بلکہ اشد درجہ کا کفر ہے۔ تمام قادریانی ان کفر یہ عقائد و نظریات کا عقیدۃ وارادۃ ارتکاب کر کے التزام کفر کرتے ہیں۔ فاؤنڈنگ ہم الکافرون حقا۔

کافر:

لغت میں کفر انکار کو کہتے ہیں، اصطلاح شریعت میں کسی ایک شرعی قطعی حکم کے انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں۔

ملحد و زندیق:

جو امور بدیہی اور قطعی طور پر دین سے ثابت ہوں ان میں تاویل کرنا اور ان کے ایسے معنی بیان کرنا، جو اجتماعی عقیدہ کے خلاف ہوں، قرآن کریم میں اس کا نام الحاد اور حدیث میں اس کا نام زندقة ہے، اور اصطلاح شریعت میں ملحد اور زندیق اس شخص کو کہتے ہیں جو الفاظ تو اسلام کے کہے، مگر ان کے معنی ایسے بیان کرے جس سے ان کی حقیقت ہی بدل جائے، جیسے صلوٰۃ اور زکوٰۃ میں یہ تاویل کرے کہ قرآن میں صلوٰۃ سے فقط دعا اور ذکر کے معنی مراد ہیں، اور اس خاص ہیئت سے نماز پڑھنا ضروری نہیں، اور زکوٰۃ سے زکیہ نفس مراد ہے، ایک معین نصاب سے مال کی خاص مقدار کا دینا مراد نہیں۔

غرض زندیق وہ ہے جو اپنے کفر پر اسلام کا ملمع کرے اور اپنے کفر کو عین اسلام ثابت کرنے کی کوشش کرے۔

زندیق کا حکم:

زندیق کے بارے میں امام مالک[ؓ]، امام ابو حنفیہ[ؓ] اور ایک روایت میں امام احمد[ؓ] فرماتے ہیں کہ: اس کی توبہ قبول نہیں، کیونکہ اس نے زندقة کے جرم کا ارتکاب کیا ہے، یعنی کفر کو اسلام ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور کتنے کا گوشت بکری کے نام سے فروخت کیا ہے، شراب پر

زمزم کا لیبل چپکایا ہے، یہ جرم ناقابل معافی ہے، اس پر قتل کی سزا ضرور جاری ہوگی۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ قادریانی زندقی ہیں۔ (تحفہ قادریانیت ص ۷۶۸۴۶ ج اول)

مرتد:

ارتدا کے معنی لفظ میں لوٹ جانے اور پھر جانے کے ہیں، اور اصطلاح شریعت میں ایمان اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد کفر کی طرف لوٹ جانے کا نام ارتدا ہے۔ چنانچہ امام راغب اصفہانی "مفردات" میں ارتدا کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "هو الرجوع من الاسلام الى الكفر" (اسلام سے کفر کی طرف پھر جانے کا نام ارتدا ہے)۔

مرتد کا حکم:

چاروں فہلوں کا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ جو شخص اسلام میں داخل ہو کر مرتد ہو جائے یعنی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اسلام سے پھر جائے۔ اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کو تین دن کی مهلت دی جائے۔ اس کے شہادت دور کرنے کی کوشش کی جائے، اور اسے سمجھایا جائے، اگر بات اس کی سمجھ میں آ جائے اور وہ دوبارہ اسلام میں داخل ہو جائے، تو بہت اچھا ورنہ اللہ تعالیٰ کی زمین کو اس کے وجود سے پاک کر دیا جائے، یہ مسئلہ قتل مرتد کا مسئلہ کہلاتا ہے اور اس میں ہمارے انہی دین میں سے کسی کا اختلاف نہیں ہے۔

منافق:

منافق وہ ہے جو اپنے دل کے اندر کفر چھپائے ہوئے ہو اور زبان سے جھوٹ موت اسلام کا اقرار کرتا ہو۔ منافق لوگ عہد نبوت میں ہوتے تھے۔ اب دو ہی صورتیں ہیں یا مومن یا کافر (کیونکہ وحی کا سلسلہ بند ہو چکا، اب کسی کے دل کا حال کیسے معلوم ہو؟)

قادیانیوں کا حکم:

قاداریانی زندقی ہیں، وہ اپنے کفر خالص یعنی قادریانیت کو عین اسلام کہتے ہیں، اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو عین اسلام ہے، اسے عین کفر کہتے ہیں، قادیانیوں کی سو نسلیں بھی بدلتیں تب بھی ان کا حکم زندقی اور مرتد کا رہے گا، ان کا عام کافر کا حکم نہیں ہوگا، اس لئے کہ

ان کا یہ جرم، یعنی کفر کو اسلام اور اسلام کو کفر کہنا، ان کی آئندہ نسلوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ الغرض قادیانی جتنے بھی ہیں، خواہ وہ اسلام چھوڑ کر مرتد ہوئے ہوں، یعنی قادیانی اور زندق بنے ہوں، یا ان کے بقول پیدائشی قادیانی ہوں، قادیانیوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہوں اور یہ کفران کو درست میں ملا ہو۔ ان سب کا ایک ہی حکم ہے، یعنی مرتد اور زندق کا، کیونکہ ان کا جرم صرف یہ نہیں کہ وہ اسلام کو چھوڑ کر کافر بنے ہیں بلکہ ان کا جرم یہ ہے کہ دین اسلام کو کفر کہتے ہیں، اور اپنے دین کفر کو اسلام کا نام دیتے ہیں۔ اور یہ جرم ہر قادیانی میں پایا جاتا ہے، خواہ وہ اسلام کو چھوڑ کر قادیانی بنا ہو یا پیدائشی قادیانی ہو، اس مسئلہ کو خوب سمجھ لجھے کہ بہت سے لوگوں کو قادیانیوں کی صحیح حقیقت معلوم نہیں۔ (تفصیل کیلئے ”کافر کون؟ مسلمان کون؟“ رسالہ از حضرت کاندھلویٰ مندرجہ احتساب قادیانیت جلد دوم ملاحظہ ہو)

مسلمانوں کی باہم تکفیر بازی:

قادیانی اپنے کفر بواح سے توجہ ہٹانے کے لئے مغالطہ دیتے ہیں کہ جو علماء ہم پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں وہ خود آپس میں ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں لہذا ان کے فتوؤں کا اعتبار اٹھ گیا ہے۔ اس مغالطے کے جواب کے لئے درج ذیل امور ملاحظہ ہوں:
 ۱:..... علماء کا کام کافر بنا نہیں کافر بتانا ہے۔ باقی غیر محتاط حضرات کے فتویٰ کے بارے میں عرض ہے کہ امت کے باہمی تکفیر کے یہ تمام فتویٰ اپنے اپنے مکاتب فکر کی مکمل نمائندگی نہیں کرتے، اس کے بجائے ہر مسلمان مکتب فکر میں مختص اور اعتدال پسند علماء نے ہمیشہ اس بے احتیاطی اور عجلت پسندی سے شدید اختلاف کیا ہے، جو اس قسم کے فتوؤں میں روکھی گئی ہے۔ لہذا امداد و دعے چند تشدد دین، عجلت پسند اور غیر محتاط افراد کے چند فتاویٰ کو پیش کر کے یہ تاثر دینا بالکل غلط، بے بنیاد اور گمراہ کن ہے کہ یہ سارے مکاتب فکر ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں۔ اس کے بجائے حقیقت یہ ہے کہ ہر مکتب فکر میں ایک ایسا عصر رہا ہے، جس نے دوسرے مکتب فکر کی مخالفت میں اتنا تشدد رکھا ہے کہ وہ تکفیر کی حد تک پہنچ جائے۔ لیکن اسی مکتب فکر میں بڑی تعداد ایسے علماء کرام کی رہی ہے۔ جنہوں نے ان اخلاقیات کو ہمیشہ اپنی حدود میں رکھا اور ان حدود سے نہ صرف یہ کہ تجاوز نہیں کیا بلکہ اس

کی مذمت کی ہے اور عملاء یہی ہتھاٹ اور اعتدال پسند غضرب غالب رہا ہے۔

۲:..... مسلمان مکاتب فلکر کا باہمی اختلاف و اقعاد کا اختلاف ہے، قانون کا اختلاف نہیں، جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ جب کبھی مسلمانوں کا کوئی مشترکہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے، تو ان تمام مکاتب فلکر کے مل بینیختے میں ان چند متعددین کے باہمی نزاعی فتوے کبھی رکاوٹ نہیں بنے۔ ان مسلمان فرقوں کی باہمی فرقہ بندیوں کا پروپیگنڈہ دنیا بھر میں گلا پھاڑ کھاڑ کر کیا گیا ہے اور ان کے اختلافات کا شور مچا مچا کر قادیانیوں جیسے باطل طبقات نے اپنے کفریہ، باطل نظریات کی دکانیں چمکائی ہیں، ورنہ یہی وہ مسلمان فرقے تھے:

الف:..... جو ۱۹۵۱ء میں پاکستان کی دستوری بنیاد طے کرنے کے لئے جمع ہوئے تو کسی ادنیٰ اختلاف کے بغیر اسلامی دستور کے اساسی اصول طے کر کے اٹھے، جن کو ”بائیس نکات“ کہا جاتا ہے۔

ب:..... ۱۹۵۲ء میں پاکستان کے مجوزہ دستور میں معین اسلامی ترجیحات طے کرنے کا مرحلہ آیا تو انہوں نے اکٹھے ہو کر متفقہ سفارشات پیش کیں، جبکہ یہ کام پہلے سے زیادہ غیر متوقع سمجھا جاتا تھا۔

ج:..... ۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نبوت میں انہی تمام مکاتب نے متفقہ موقف اختیار کیا۔

د:..... ۱۹۷۲ء میں دستور پاکستان (جو ۱۹۷۳ء میں نافذ ہوا) میں اسلامی شقون کو درج کرنے کے لئے یہ تمام مکاتب فلکر اکٹھے ہوئے۔

۵:..... ۱۹۷۳ء اور ۱۹۸۳ء کی تحریک ہائے ختم نبوت اور ۱۹۷۴ء کی تحریک نظامِ مصطفیٰ میں یہ تمام مکاتب فلکر یک جان و یک زبان متفق و متحد نظر آتے ہیں، اس طرز عمل پر غور کرنے سے چند باتیں کھل کر سامنے آتی ہیں:

اول:..... یہ کہ باہم ایک دوسرے کی تکفیر کے فتوے ان متعددین کی انفرادی رائے کی حیثیت رکھتے ہیں کسی مکتب فلکر کی نمائندہ حیثیت نہیں ورنہ یہ مکاتب فلکر کبھی بحیثیت مسلمان جمع نہ ہوتے۔

دوم:..... یہ کہ ہر مکتب فلکر میں غالب غضروہی ہے جو ان اختلافات کو اپنے دائرے

میں رکھتا ہے۔ اور آپس کے اختلافات کو تکفیر کا ذریعہ نہیں بنتا، ورنہ اس قسم کے تمام مکاتب فکر کے باہمی اجتماعات کو بقول عام حاصل نہ ہوتا۔

سوم: یہ کہ اسلام کے وہ بنیادی عقائد جو واقعتاً کفر و ایمان میں حد فاصل کی حیثیت رکھتے ہیں، ان میں یہ سب لوگ متفق ہیں۔

۳: اگر کچھ حضرات نے تکفیر کے سلسلہ میں غلو اور تشدید کی روشن اختیار کی تو اس سے یہ نتیجہ کیسے نکالا جاسکتا ہے کہ اب دنیا میں کوئی شخص کافر ہو ہی نہیں سکتا؟ اور اگر یہ سب لوگ مل کر بھی کسی کو کافر کہیں تو وہ کافر نہیں ہو گا؟

کیا دنیا میں عطائی قسم کے لوگ علاج کر کے انسانوں پر مشق ستم نہیں کرتے؟ اور کیا ماہر سے ماہر ڈاکٹر سے کبھی غلطی نہیں ہو جاتی؟ لیکن کیا کبھی کوئی انسان بشر طیکہ وہ عقل سے بالکل ہی معدود نہ ہوئی کہہ سکتا ہے کہ: ان انفرادی غلطیوں کی سزا کے طور پر ڈاکٹروں کے طبقے کی کوئی بات قابل قبول نہیں ہوئی چاہئے؟ کیا عدالتوں کے فیصلوں میں جوں سے غلطیاں نہیں ہوتیں؟ لیکن کیا کبھی کسی نے سوچا ہے کہ ان انفرادی غلطیوں کی وجہ سے عدالتوں کو تالے لگا دیئے جائیں، یا جوں کافیصلہ ہی نہ مانا جائے؟ کیا مکاتبات اور سڑکوں کی تغیرات میں انجینئر زلطی نہیں کرتے؟ لیکن کبھی کسی ذی ہوش نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ ان غلطیوں کی بنا پر تغیر کا ٹھیکہ انجینئروں کی بجائے گورکنوں کو دے دیا جائے؟ پھر یہ کہ اگر چند جزوی نوعیت کے فتوؤں میں بے احتیاطیاں ہوئیں تو اس کا یہ مطلب کہاں سے نکل آیا کہ اب اسلام و کفر کے فیصلے قرآن و سنت کی بجائے مرزاںی تحریفات کی بنیاد پر کرنے چاہئیں۔ علامہ اقبال نے مرزاںیوں کو اقلیت قرار دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کیا خوب بات کہی کہ:

”مسلمانوں کے بے شمار فرقوں کے مذہبی تنازعوں کا ان بنیادی مسائل

پر کچھ اخراجیں پڑتا جن مسائل پر سب فرقے متفق ہیں، اگرچہ وہ دوسرے پر

الحاد کے فتوے ہی دیتے ہوں۔“ (حروف اقبال ص ۱۷۲ مطبوعہ المنار اکادمی لاہور ۱۹۷۴)

سوال ۳:قادیانیوں کی وجہ تکفیر کون کون سی ہیں؟
 کیا قادیانی اہل قبلہ شمار ہوتے ہیں، نیز بتائیں کہ قادیانی اور
 دوسرے کافروں میں کیا فرق ہے؟ قادیانیوں کا حکم کیا ہے؟
 قادیانی اگر بعد باشیر، بالمانوں کے قبرستان میں اپنا مردہ
 دفن کریں تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟

جواب:

قادیانیوں کی وجہ تکفیر:

شہرہ آفاق مقدمہ بہاولپور میں حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیریؒ نے مرزا قادیانی
 اور اس کے پیروکاروں کے چھو جوہ کفر متعین فرمائے تھے:
 ۱: ختم نبوت کا انکار۔

۲: دعویٰ نبوت، اور اس کی اصرائی کا ایسی ہی نبوت مراد ہے جیسے پہلے اعبیا کی تھی۔

۳: ادعائے وحی، اور اپنی وحی کو قرآن کی طرح واجب الایمان قرار دینا۔

۴: عیسیٰ علیہ السلام کی توہین۔

۵: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین۔

۶: عام امت محمدیہ کی تکفیر۔ (روئید امداد مقدمہ مرزا یہ بہاولپور ص ۷۴ ج ۱)

مرزا غلام احمد قادیانی کی تمام تحریرات کفر کا ذہیر ہیں، جس میں ہزاروں کفر موجود ہیں، اس کی ایک ایک عبارت مرقع کفر ہے، یہی وجہ ہے کہ: "حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ: مسلمه کذاب اور مسلمه پنجاب (مرزا) کا کفر فرعون کے کفر سے بڑھ کر ہے۔"
 (اصل قادیانیت ج ۲ ص ۱۱)

اب ہم ذیل میں حضرت شاہ صاحبؒ کی طرف سے متعین کردہ وجہ کفر و ارتداو
 قادیانیت پر مختصر ادلال عرض کرتے ہیں:

۱: ختم نبوت کا انکار:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت قرآن کریم کی نصوص قطعیہ، احادیث کے

تو اتر اور امت کے اجماع سے ثابت ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتضیٰ قادریانی کا دعویٰ نبوت کرنا انکار ختم نبوت کی صریح دلیل ہے، جبکہ ختم نبوت کا منکر قطعی کافر ہے، اس سلسلہ میں ایک حوالہ پر اکتفاء کیا جاتا ہے:

”وَكَوْنَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمُ النَّبِيِّنَ مَا نَطَقَ بِهِ
الْكَلَابُ وَصَدَعَتْ بِهِ السَّنَةُ، وَاجْمَعَتْ عَلَيْهِ الْأَمْمَةُ فِي كُفْرِ مَدْعِيِّ
خَلْفَهُ وَيُقْتَلُ أَنْ أَصْرَ.“ (روح المعانی ج ۸ ص ۳۹ زیر آیت خاتم النبیین)
ترجمہ: ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر کتاب
اللہ ناطق ہے اور احادیث نے کھول کر سنادیا اور اس پر امت کا اجماع
ہے، پس اس کے خلاف جو دعویٰ کرے کافر ہو جائے گا، اور اگر اصرار
کرے تو قتل کیا جائے گا۔“

۲:.....مرتضیٰ قادریانی کا دعویٰ نبوت:

۱:.....”سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادریان میں اپنے رسول بھیجا۔“

(دفع البلاعہ ص الخزانہ ج ۱۸ ص ۲۳۱)

۲:.....”ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں۔“

(ملفوظات ج ۱۰ ص ۱۲۷)

۳:.....”صریح طور پر مجھے نبی کا خطاب دیا گیا۔“

(حقیقت الوجی ص ۵۰ الخزانہ ج ۱۵۳ ص ۲۲)

۴:.....”قل یا ایہا الناس انی رسول الله الیکم جمیعا۔“

(تمذکرہ ص ۳۵۲ مجموع الہامات مرزا)

۵:.....”اٹا ارسلنا الیکم رسولًا شاهدًا کما ارسلنا الی

فرعون رسولًا۔“ (مجموع الہامات مرزا تذکرہ ص ۶۱۰)

۶:.....ادعائے وحی اور اپنی وحی کو قرآن کی طرح قرار دینا:

۷:.....”میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان الہامات پر

اسی طرح ایمان لاتا ہوں جیسا کہ قرآن شریف پر اور خدا کی دوسری کتابوں پر، اور جس طرح میں قرآن شریف کو یقینی اور قطعی طور پر خدا کا کلام جانتا ہوں، اسی طرح اس کلام کو بھی جو میرے پر نازل ہوتا ہے، خدا کا کلام یقین کرتا ہوں۔“ (حقیقت الوقی ص ۲۲۰ ج ۲۲۰ خزانہ مصادر ۲۲۰)

۲:”آنچہ من بشnom زوجی خدا

بخدا پاک دائمش رخطاء

پھول قرآن منزله اش دائم

از خطاباً همین است ایمانم

بخدا ہست ایس کلام مجید

از دہان خدائے پاک و وحید

و آن یقین کلیم بر تورات

آن یقین ہائے سید سادات

کم نیم زال ہمہ بروئے یقین

ہر کہ گوید دروغ ہست لعین“

ترجمہ: ”جو کچھ میں اللہ کی وجی سے سنتا ہوں، خدا کی قسم اسے ہر قسم کی خطاب سے پاک سمجھتا ہوں، قرآن کی طرح میری وجی خطاؤں سے پاک ہے، یہ میرا ایمان ہے، خدا کی قسم یہ کلام مجید ہے جو خدائے پاک یکتا کے منہ سے نکلا ہے جو موئی علیہ السلام کو تورات پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید پر تھا، میں از روئے یقین ان سب سے کم نہیں ہوں، جو جھوٹ کہے وہ لعنتی ہے۔“

(نژول الحج ص ۹۹، خزانہ مصادر ۷۷ ج ۱۸، از مرزا قادریانی)

۳:”تائیدی طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جو قرآن شریف کے مطابق ہیں اور میری وجی کے معارض نہیں اور دوسری

حدیثوں کو ہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں۔“

(اعجاز احمدی ص ۳۰، خزانہ مص ۱۲۰ ج ۱۹ از مرزا قادریانی)

یہاں پر مرزا قادریانی کے دعویٰ نبوت پر صرف تین حوالوں پر اکتفا کیا گیا ہے، اور تیرے حوالہ میں مرزا قادریانی نہ صرف اپنی وحی کو قرآن کی سطح پر لایا ہے بلکہ اس نے احادیث کی بھی توہین کا ارتکاب کیا ہے۔

۳: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین:

۱: ”خدا نے اس امت میں سے مسح موعود بھیجا جو اس پہلے سعی
سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے اور اس نے اس دوسرے مسح کا
نام غلام احمد رکھا۔“ (دفع البلاعہ ص ۱۳، خزانہ مص ۲۳۲ ج ۲۳۸ از مرزا قادریانی)

۲: ”خدا نے اس امت میں سے مسح موعود بھیجا جو اس پہلے سعی
سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے مجھے قسم ہے اس ذات کی
جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ اگر سعی بن مریم میرے زمانہ میں
ہوتا تو وہ کام جو میں کر سکتا ہوں، وہ ہر گز نہ کر سکتا، اور وہ نشان جو مجھ سے
ظاہر ہو رہے ہیں، وہ ہر گز نہ دکھلا سکتا۔“

(حقیقت الوجی ص ۱۳۸ اردو حادی خزانہ ج ۲۲ ص ۱۵۲)

۳: ”اور مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری
جان ہے کہ اگر سعی بن مریم میرے زمانہ میں ہوتا تو وہ کام جو میں کر سکتا
ہوں، وہ ہر گز نہ کر سکتا، اور وہ نشان جو مجھ سے ظاہر ہو رہے ہیں وہ ہر گز نہ
دکھلا سکتا۔“ (کشتنی نوح ص ۵۶ اردو حادی خزانہ ج ۱۹ ص ۶۰)

۴: ”خدا تعالیٰ نے براہین احمدیہ حص ساقیہ میں میرا نام عیسیٰ
رکھا اور جو قرآن شریف کی آیتیں پیشگوئی کے طور پر حضرت عیسیٰ کی طرف
منسوب تھیں وہ سب آیتیں میری طرف منسوب کر دیں، اور یہ بھی فرمادیا

کہ تمہارے آنے کی خبر قرآن و حدیث میں موجود ہے۔“

(براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۸۵ روحاںی خزانہ آن ج ۲۱ ص ۱۱۱)

آخری حوالہ میں عبارت کے اس حصہ پر بھی توجہ فرمائیں کہ: ”خدا تعالیٰ نے براہین احمدیہ حصہ سابق میں میرا نام عیسیٰ رکھا“ کیا نعوذ باللہ مرزا کی کتاب براہین احمدیہ خدا تعالیٰ کی کتاب تھی؟ ایسا کہنا بذات خود مستقل کفر ہے۔

۵:..... آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین:

مرزا نے اپنی تقسیفات میں تقریباً تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی توہین و تنقیص کی ہے۔ ذیل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیوں اور توہین پر مشتمل مرزا کے چند حوالے ملاحظہ ہوں:

۱:..... ”میں بارہ بتلا چکا ہوں کہ میں بوجب آیت: ”وَآخْرِينَ

منهُم لَمَا يَلْحِقُوا بِهِمْ“ بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں اور خدا نے آج سے میں برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام ”محمد“ اور ”احمد“ رکھا ہے اور مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود قرار دیا ہے، پس اس طور سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت سے کوئی تزلیل نہیں آیا، کیونکہ علی اپنے اصل سے علیحدہ نہیں ہوتا۔“

(ایک غلطی کا ازالہ ص ۸ خزانہ آن ج ۲۱ ص ۱۸)

۲:..... ”اس نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) کے لئے چاند کے خسوف کا نشان ظاہر ہوا اور میرے لئے چاند اور سورج دونوں کا، اب کیا تو انکار کرے گا۔“

(اعجاز احمدی ص ۱۷ خزانہ آن ج ۱۹ ص ۱۸۳)

۳:..... ”مگر تم خوب توجہ کر کے سن لو کہ اب اسم محمد کی جگلی ظاہر کرنے کا وقت نہیں، یعنی اب جلالی رنگ کی کوئی خدمت باقی نہیں، کیونکہ مناسب حد تک وہ جلال ظاہر ہو چکا ہے، سورج کی کرنوں کی اب برداشت نہیں، اب چاند کی ٹھنڈی روشنی کی ضرورت ہے اور وہ احمد کے رنگ میں

ہو کر میں (مرزا) ہوں۔” (اربعین نمبر ۲۳ ص ۲۴، ۲۴۵ ص ۲۴۶، ۲۴۷ ج ۱۷)

۳:..... ” اور خدا نے مجھ پر اس رسول کریم کا فیض نازل فرمایا اور اس کو کامل بنایا اور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لطف اور وجود کو میری طرف کھینچا، یہاں تک کہ میرا (مرزا) وجود اس (آنحضرت) کا وجود ہو گیا۔ پس وہ جو میری جماعت میں داخل ہوا درحقیقت میرے سردار خیر المرسلین کے صحابہ میں داخل ہوا اور یہی معنی: آخرین منہم کے لفظ کے بھی ہیں۔ جیسا کہ سوچنے والوں پر پوشیدہ نہیں اور جو شخص مجھ میں اور مصطفیٰ میں تفریق کرتا ہے اس نے مجھے نہیں دیکھا ہے اور نہیں پہچانا ہے۔ ”

(خطبہ الہامیہ میں اے اخزاں ص ۲۵۸، ۲۵۹ ج ۱۶)

۴:..... مرزا قادریانی کا دعویٰ ہے کہ وہ (نعوذ بالله) محمد رسول اللہ ہے، چنانچہ وہ لکھتا ہے: ” محمد رسول اللہ والذین معا اشداء علی الکفار ” اس وجہ میں میرا (مرزا) کا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی۔ ”

(ایک غلطی کا ازالہ میں ۲ روحاںی خزاں ص ۷۰ ج ۱۸)

۶:..... امت محمدیہ کی تکفیر:

(۱)..... ” خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔ ” (ذکرہ جموعہ الہامت ص ۷۰ طبع سوم از مرزا قادریانی)

(۲)..... ” کفر دو قسم پر ہے اول یہ کہ ایک شخص اسلام سے ہی انکار کرتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول نہیں مانتا، دوم یہ کہ مثلاً وہ سچ مسعود (مرزا) کو نہیں مانتا اور اس کو باوجود اتمام جنت کے جھونٹا جانتا ہے جس کے مانے اور سچا جانے کے بارے میں خدا اور رسول نے تاکید کی ہے، اور پہلے نبیوں کی کتابوں میں بھی تاکید پائی جاتی ہے، پس اس لئے کہ وہ خدا اور رسول کے فرمان کا منکر ہے کافر ہے۔ اور اگر غور

سے دیکھا جائے تو یہ دونوں کفر ایک ہی قسم میں داخل ہیں۔“

(ہدایت اللہی ص ۹۷، اخراج ص ۱۸۵، ۲۲)

اسی طرح مرزا محمود اور مرزا بشیر احمد غلام احمد قادریانی کے نہ مانے والوں کے بارے میں لکھتا ہے:

(۳) ”کل مسلمان جو حضرت پنج موعود (مرزا قادریانی) کی

بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت پنج موعود (مرزا
قداریانی) کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔“

(آنینہ صداقت ص ۳۵، از مرزا محمود ابن مرزا قادریانی)

(۴) ”ہر ایک ایسا شخص جو موی کوتا مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا
یا عیسیٰ کو مانتا ہے مگر محمد کو نہیں مانتا اور یا محمد کو مانتا ہے پر پنج موعود (مرزا) کو
نہیں مانتا وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔“

(کلمۃ الفصل ص ۱۰، از مرزا بشیر احمد ایم اے ابن مرزا قادریانی)

قاداریانی اور اہل قبلہ:

اہل قبلہ کا لفظ اصطلاح میں اہل ایمان کے لئے بولا جاتا ہے، اور شریعت میں اہل قبلہ
وہی لوگ کہلاتے ہیں جو تمام ضروریات دین پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اہل قبلہ کو اس وقت تک
کافرنہیں کہتے جب تک کہ وہ کسی موجب کفر قول یا فعل کا ارتکاب نہ کریں جو لوگ
ضروریات دین کے مکر ہوں مثلاً ختم نبوت کے مکر ہوں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
بعد مدعا نبوت کو سچا مانتے ہوں، وہ شریعت میں اہل قبلہ نہیں، اہل قبلہ کا ہرگز یہ معنی نہیں کہ جو
شخص فقط قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھتا ہو، وہ اہل قبلہ ہے، چاہے وہ کسی قطعی حکم کا مکر بھی کیوں نہ
ہو، کیونکہ قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز تو مسیلمہ کذاب بھی پڑھتا تھا۔ لہذا اہل قبلہ وہ کہلائیں
گے جو تمام ضروریات دین پر ایمان رکھتے ہوئے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہوں
وہ اہل قبلہ ہیں۔

قادیانی اور دوسرے کافروں میں فرق:

جو لوگ دین اسلام کے منکر ہیں، وہ کافر ہیں جیسے عیسائی، یہودی لیکن قادیانیوں اور عیسائیوں، یہودیوں اور قادیانیوں کے کفر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ موجودہ عیسائی خود جھوٹے ہیں، مگر ان کے نبی عیسیٰ علیہ السلام پچ نبی ہیں، موجودہ یہودی خود جھوٹے ہیں مگر ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام پچ نبی ہیں، قادیانی خود بھی جھوٹے ہیں ان کا نبی بھی جھوٹا تھا، اسلام پچ نبی کے جھوٹے پیر و کاروں کے وجود کو بطور الٰہ کتاب یا ذی کے تسلیم کرتا ہے۔ اسلام نہ جھوٹے نبی کو قبول کرتا ہے اور نہ اس کے پیر و کاروں کو۔ جھوٹے نبی کے پیر و کاروں کا وہی حکم ہے جو صدقیق اکبرؒ نے یمامہ کے میدان میں مسلمہ کذاب کے پیر و کاروں کے لئے تجویز فرمایا تھا۔ عام کافروں پر قادیانیوں کو قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے کہ قادیانی زندقی ہیں اور زندقی کا وجود اسلام کو قبول نہیں ہے۔ (تفصیل کیلئے ”قادیانیوں اور دوسرے کافروں میں فرق“ مندرجہ تھنہ قادیانیت جلد اول از حضرت لدھیانوی شہید کامطالعہ کریں)

قادیانی عبادات گاہ:

مسجد مسلمانوں کی عبادات گاہ کا نام ہے۔ منافقین نے عہد نبوت میں مسجد کے نام پر ایک اڈہ قائم کیا تھا۔ جسے اسلام نے مسجد ضرار قرار دیا۔ آنحضرتؐ نے اس کے انہدام و احراق کا حکم دیا تھا۔ جب اسلام نے منافقین کی عبادات گاہ کو مسجد تسلیم نہیں کیا تو قادیانی زندیقوں کی عبادات گاہوں کو کیسے مسجد تسلیم کیا جاسکتا ہے؟ نہ ان کی اذان کو شرعاً اذان قرار دیا جاسکتا ہے۔ (تفصیل کے لئے دیکھئے رسالہ ”قادیانی اور تعمیر مسجد“ مؤلفہ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہیدؒ مندرجہ تھنہ قادیانیت جلد اول)

مسلم قبرستان میں قادیانی مردوں کی مدفن کا حکم:

جس طرح کسی ہندو، یہودی، عیسائی اور چوڑھے چمار کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا شرعاً جائز نہیں۔ اسی طرح کسی قادیانی مردہ کا مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی جائز نہیں، اگر وہ چوری چھپے دفن کر دیں تو اسے مسلمانوں کے قبرستان سے نکال باہر کرنا ضروری

ہے۔ (تفصیل کے لئے دیکھئے ”قادیانی مردہ“ تحقیقہ قادیانیت جلد اول) حضرت مولانا محمد اور لیں کاندھلویؒ قادیانیوں اور دوسرے کافروں کے احکام لکھتے ہوئے فرماتے ہیں:

کفر کے دینیوی احکام:

۱: ایمان کی پہلی شرط یہ ہے کہ کفر اور کافروں سے تبری اور بیزاری ہو، یعنی کافروں کو خدا کا دشمن سمجھے اور کوئی دوستانہ تعلق ان سے نہ رکھے۔ کافروں سے موالات یعنی دوستانہ تعلقات کی ممانعت اور حرمت صراحتاً نہ کوئی ہے اور علماء نے کافروں سے ترک موالات پر مستقل سکتا ہیں لکھیں ہیں۔

۲: کافروں کو بچی دینا حرام ہے۔ اہل کتاب کے علاوہ کافروں سے بچی لینا حرام ہے۔

۳: کافر، مسلمان کا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں۔

۴: کافر کی نماز جنازہ میں شریک ہونا یا اس کی قبر پر جانا بھی جائز نہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

”لَا تَنْصُلْ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ إِبْدَأْ وَلَا تَنْقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كُفَّارٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا تَوَلَّ وَهُمْ فَاسِقُونَ“

ترجمہ: ”اور نماز نہ پڑھان میں سے کسی پر جو مر جائے کبھی اور نہ کھڑا ہواں کی قبر پر وہ مکنکر ہوئے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور وہ مر گئے نافرمان۔“

۵: مسلمان کے جنازہ میں کافر کو شرکت کی اجازت نہیں، وہ وقت طلب رحمت کا ہے اور کافر سے لعنت آتی ہے۔

۶: مردہ کافروں کے لئے دعائے مغفرت جائز نہیں اگرچہ قرآنی رشتہ دار ہوں، چنانچہ ارشادِ الہی سے:

”ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى الا ية“

ترجمہ: ”لائق نہیں نبی کو اور مسلمانوں کو کہ بخشش چاہیں مشرکوں کی اور اگر چہ وہ ہوں قرابت والے۔“

۷: کافر کا ذبیحہ اور شکار مسلمان کے لئے حلال نہیں۔

۸: کافر کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں۔

۹: جو کافر دار الاسلام میں مسلمانوں کی رعایا ہوں، ان کو فوج میں بھرتی کر کے جہاد میں ساتھ لے جانا جائز نہیں۔

۱۰: جو کافر اسلامی حکومت میں رہتے ہوں ان سے جزیہ لیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے: ”لا اکرمهم اذا اهانهم الله ولا اعزهم اذا اذلهم الله ولا ادنیهم اذا اقصاهم الله تعالى۔“ (اقتفاء الصراط المستقیم)

ترجمہ: ”فاروق اعظم نے فرمایا خدا کی قسم میں ان لوگوں کا ہرگز اعزاز اور اکرام نہ کروں گا جن کو خدا نے ذلیل اور حقیر قرار دیا، ان لوگوں کی ہرگز عزت نہ کروں گا جن کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا ہے اور ان لوگوں کو ہرگز اپنے قریب جگہ نہ دوں گا، جن کو اللہ تعالیٰ نے دور رکھنے کا حکم دیا۔“

(تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو ”مسلمان اور کافر“ مؤلفہ حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی حصہ ۳۲۹، ۳۳۱، ۳۳۲ مخصوص احصاب قادیانیت ج ۲)

سوال ۳: خصوصیات اوصاف نبوت کیا کیا ہیں؟
مرزا قادیانی کی زندگی اور اوصاف نبوت میں تضاد کو واضح کریں؟ نیز ان اوصاف کا مرزا قادیانی کی زندگی سے موازنہ

کریں اور ثابت کریں کہ مرزا قادیانی میں ان اوصاف میں سے کسی بھی وصف کی کوئی ادنیٰ جھلک پائی جاتی تھی؟

جواب:

حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ بہت سی خصوصیات و اوصاف سے نوازتے ہیں جن میں سے چند ایک کو ذکر کر کے ہم موازنہ پیش کرتے ہیں:

۱:.....نبی کے لئے ضروری ہے کہ وہ کامل اعقل ہو بلکہ اکمل اعقل ہوتا کہ وحی الہی کے سمجھنے میں غلطی نہ کرے، وہ عقل و فہم میں اس درجہ بلند ہو کہ اس زمانہ میں کوئی اس کی نظریہ ہو، ناممکن ہے کہ کسی امتی کی عقل کسی نبی کے عقل سے بڑھ کر ہو، عقل اور دناتی میں نبی اتنا برتر و بالاتر ہوتا ہے کہ کسی بڑے سے بڑے عاقل کی عقل اس کے ہم پلہ اور پاسنگ نہیں ہو سکتی جبکہ مرزا قادیانی ”دائیں اور بائیں“ جوتے کی تمیز نہیں کر سکتا تھا۔

(سیرت المهدی ج ۱ ص ۲۷ روایت ۸۳)

۲:.....نبوت کا دوسرا وصف یہ ہے کہ اس کا حافظہ صحیح اور درست ہو، نہ صرف یہ بلکہ کامل الحفظ اور اکمل الحفظ ہو، جبکہ مرزا قادیانی کا اقرار ہے کہ ”مجھے مراق ہے۔“

(ملفوظات ج ۸ ص ۲۳۵)

نبی یہ کہ اس نے اپنے ایک مرید کو خط لکھا کہ:

”میرا حافظہ بہت خراب ہے، اگر کئی دفعہ کسی سے ملاقات ہو تو توب

بھی بھول جاتا ہوں۔ حافظہ کی یہ ابتری (یعنی بدترین حالت) ہے کہ

بیان نہیں کر سکتا۔“ (مکتوبات ج ۵ نمبر ۳۱ ص ۲۱)

۳:.....نبوت کا تیسرا وصف یہ ہے کہ نبی ایسا کامل اور اکمل اعلم ہو کہ امت کے حیطے اور اک سے بالا اور برتر ہو، مرزا کے علم کا یہ عالم تھا کہ ”وہ ماہ صفر کراسلام کا چوتھا مہینہ قرار دیتا ہے۔“ (تربیق القلوب ص ۳۲ روحانی خزانہ ص ۱۵ ج ۲۱۸)

۴:.....نبوت کا چوتھا وصف یہ ہے کہ وہ عصمت کاملہ و مستقرہ رکھتا ہو، مرزا قادیانی

کے متعلق خود اس کے مریدوں کا اقرار ہے کہ ”وہ کبھی کبھی زنا کر لیا کرتا تھا۔“

(خطبہ مرزا محمود صاحب مندرجہ اخبار الفضل ۳۱ / اگست ۱۹۳۸ء)

مرزا قادیانی ”غیر محروم عروتوں سے پاؤں دبوایا کرتا تھا۔“

(سیرت المہدی ص ۲۱۰ ج ۳ روایت ۷۸۰)

۵:.....نبوت کا پانچواں وصف یہ ہے کہ نبی صادق اور امین ہو، جبکہ مرزا قادیانی پر لے درجے کا کذاب اور بد دینات تھا۔ اس نے پچاس کتابیں لکھنے کا وعدہ کیا، پچاس کی رقم میں، پانچ کتابیں لکھ کر اعلان کر دیا کہ: ”پانچ سے پچاس کا وعدہ پورا ہوا“ اس لئے کہ پچاس میں اور پانچ میں ایک نقطہ کا فرقہ ہے۔ ”(براہین احمدیہ حصہ بیجمص روحانی خزانہ ص ۹ ج ۲۱)۔ چنانچہ مرزا نے جھوٹ بولा اور بد دینات سے لوگوں کا مال کھایا۔ ان کی دروغ گوئی کا نمونہ ملاحظہ ہو:

مرزا صاحب کی دروغ گوئی کا نمونہ:

یہ بات ذہن میں رہے کہ ”راست بازی“ نبی کے لئے وصف لازم کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی لئے جو قریش مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں رکھتے تھے وہ بھی آپؐ کے سچ بولنے (صدق و امانت) کا اعتراف کئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ ما جر بنا علیہ الا صدقۃ۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”فَإِنْهُمْ لَا يَكْذِبُونَكُو وَلَكِنَ الظَّالِمِينَ بِإِيَّاكُمْ“ مگر مرزا صاحب کا یہ حال ہے کہ متعدد جگہ وہ اپنے بارے میں وحی نقل کرتے ہیں کہ: ”وَمَا يَنْطَقُ عَنِ الْهَوَى إِنَّهُ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ“ (اربعین نمبر ۴ ص ۳۹) اس کے باوجود وہ عرب کے نام دروغ گو ایواحیں کذاب کو مات دے جاتے ہیں۔ ان کی کذب بیانی اور دروغ گوئی کا نمونہ ملاحظہ ہو:

ا:.....”ضرور تھا کہ قرآن شریف اور احادیث کی وہ پیش

گویاں پوری ہوئیں جن میں لکھا تھا کہ مسیح موعود جب ظاہر ہو گا تو اسلامی علماء کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا، وہ اس کو کافر قرار دیں گے

اور اس کے قتل کے لئے فتوے دیئے جائیں گے اور اس کی سخت تر ہیں
کی جائے گی اور اس کو دائرہ اسلام سے خارج اور دین کا تباہ کرنے
والا خیال کیا جائے گا۔” (اربعین نمبر ۳۴ ص ۲۱۲)

بتائیے یہ پیش گویاں قرآن مجید میں کہاں ہیں؟ اور حدیث کی کون سی کتاب میں
ہیں؟ مرزا صاحب نے تین طروں میں پانچ جھوٹ بول دیئے۔

۱:..... یہ بھی یاد رہے کہ قرآن شریف میں بلکہ توریت کے
بعض صحیفوں میں بھی یہ خبر موجود ہے کہ مسیح موعود کے وقت طاعون
پڑے گی بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی انجلی میں یہ خبر دی ہے
اور ممکن نہیں کہ نبیوں کی پیش گویاں ٹل جائیں۔” (کشی نوح ص ۹)

۲:..... ”وَهُوَ خَلِيفَةُ جِسْكَ الْمُسْتَبْدَلِ مِنْ لَكَهَا ہے کہ آسمان
سے آواز آئے گی کہ: ”هذا خليفة الله المهدى“ اب سوچو کہ یہ
حدیث کس مرتبہ کی ہے جو ایسی کتاب میں درج ہے جو ”اصح
الكتب بعد کتاب الله“ ہے۔” (شهادۃ القرآن ص ۲۱)

بخاری شریف کا جو نسخہ ہندو پاک میں رائج ہے وہ ۱۱۲۹ صفحات پر مشتمل ہے۔ کوئی
ہمیں بتائے کہ بخاری شریف کے کون سے صفحہ پر اور کس عنوان کے تحت یہ حدیث درج
ہے؟

۳:..... ”صَحْقَ بَخَارِيِّ يَوْمِ الْكِتَابِ ہے جس میں صاف طور پر
لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے۔“
(کشی نوح ص ۸۷)

جی کون صفحہ؟ کون سا باب؟

۴:..... ”میری نسبت اور میرے زمانہ کی نسبت توریت اور
انجلی اور قرآن شریف میں خبر موجود ہے کہ اس وقت (یعنی مسیح موعود
کی آمد کے وقت) آسمان پر خسوف کسوف ہو گا اور زمین پر سخت
طاعون پڑے گی۔“ (دافتہ البلاص ص ۳۷)

توريت اور انجل تودور کی بات ہے، قرآن پاک مسلمانوں کے گھر گھر میں موجود ہے۔ چلے اس میں کوئی دکھادے کہ یہ خبر کس جگہ موجود ہے؟
۶: نبوت کا چھٹا وصف یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی اس کا وارث نہ ہو۔ حدیث متواتر سے ثابت ہے:

”لا نورث ماتر کنا فهو صدقة“ (بخاری حاص ۵۲۶)

نوث: حضرت امام بخاریؓ نے اس حدیث کو گیارہ بار اپنی جمیع میں ذکر فرمایا ہے مزید تفصیلی حوالہ جات کی فہرست کے لئے موسوعہ اطراف الحدیث ج ۷ ص ۲۹۱ دیکھئے۔ بیشوں حدیث کی کتب میں یہ روایت موجود ہے۔

البداية والنهاية کی ح ۳۰۲ پر نحن عشر الانبياء لا نورث ماتر کناه فهو صدقة ہے جبکہ مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ نے اپنے رسالہ شرائط نبوت ص ۱۲ پر نحن عشر الانبياء لا نرث ولا نورث ماتر کنا فهو صدقة روایت نقل کر کے اسے متواترات میں شمار کیا ہے جبکہ مرزا قادیانیؒ نہ صرف اپنے آباؤ اجداد کی جائیداد کے حصول کے لئے انگریزی عادات میں مقدمے لڑتا رہا، اور مرزا کی اولاد اس کی جائیدا کی وارث بھی ہوتی۔ (تفصیل کے لئے دیکھئے ریمیں قادریان)

۷: نبوت کی ایک شرط زہد ہے، یعنی دنیا کی شہوات ولذات سے بے تعلقی، نبوت کا مقصد بندوں کو خدا تک پہنچانا ہے، ظاہر ہے کہ جو خود لذات پرست ہو وہ دنیا کو خدا پرست کیسے بناسکتا ہے؟ جبکہ مرزا قادیانیؒ ”کخبریوں کے مال پر بھی ہاتھ صاف کرنے کے لئے مستعد نظر آتا ہے۔“ (سیرت المہدی ص ۲۶۱ ح ۲۷۲) اور اس نے اسے استعمال میں لانے کے لئے دلیل بھی گھر لی۔ (آئینہ کمالات اسلام ص ۷۰، خزانہ رنج ۵ ص ایضاً) اسی طرح مرزا قادیانیؒ نے بہشتی مقبرہ کے نام پر مردہ فروشی کی تجارت کو فروغ دیا جو آج بھی قادریانی جماعت کی عقل و خرد پر ماتم کر رہی ہے۔

اسی طرح مرزا قادریانی کھاؤ پیو تھا، چنانچہ اس کی خوارک کیا تھی؟ اس پر ایک حوالہ ملاحظہ ہو ”ساملم مرغ کا کباب، گوشت مونگرے، گوشت کی بھنی ہوتی بوٹیاں، سوپ، میٹھے

اول، اور پتہ نہیں کیا کیا کھاتا تھا۔ (سیرت المهدی حصہ اول ص ۱۸۳، ۱۸۲) جبکہ مرزا ادیانی کا ایک الہامی نسخہ زوجام عشق ہے جس میں ”زغفران، مشک اور افیون بھی پڑتا تھا۔“ (سیرت المهدی ص ۱۵۷ ج ۳ روایت ۵۶۹)۔ مرزا قادریانی ”شراب اپنے مریدوں سے نگوای کرتا تھا،“ ملاحظہ ہو ”خطوط امام بنام غلام“ (ص ۵ کالم ۱)۔ مرزا ”مشک اور عبر استعمال کیا کرتے تھے۔“ (سیرت المهدی حصہ دوم ص ۱۳۷ روایت ۳۳۲)

۸:نبوت کا ایک وصف یہ ہے کہ نبی حسب ونسب کے اعتبار سے اعلیٰ و برتر ہوتا ہے۔ مرزا قادریانی مغل بچہ تھا، اور اس کا خاندان انگریز کا ٹوڈی خاندان تھا، جیسا کہ مرزا قادریانی خود لکھتا ہے:

”میں ایک ایسے خاندان سے ہوں کہ جو اس گورنمنٹ (انگریز) کا پکا خیرخواہ ہے، میرا والد مرزا غلام مرتضی گورنمنٹ کی نظر میں وفادار اور خیرخواہ آدمی تھا، جن کو دربار گورنریزی میں کری ملکی تھی اور جن کا ذکر مسٹر گریفن صاحب نے ریسان چنگاپ میں کیا ہے، اور ۱۸۵۷ء میں انہوں نے اپنی طاقت سے بڑھ کر سرکار انگریزی کو مدد دی تھی، یعنی چپاس سوار اور گھوڑے بہم پہنچا کر یعنی زمانہ غدر (جنگ آزادی) کے وقت سرکار انگریز کی اہمادی میں دیئے تھے۔“ (کتاب البریم ۲ روحاںی خزانہ ص ۲ ج ۱۳)

۹:نبی مرد ہوتا ہے، جیسا کہ نص قرآنی ہے:

”وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجُالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ“

جبکہ مرزا قادریانی کو ”مریم ہونے کا اور حاملہ ہونے کا دعویٰ بھی تھا۔

(کشی نوح ص ۷۷ روحاںی خزانہ ج ۱۹ ص ۵۰)

۱۰:نبی خلق عظیم کا مظہر اتم ہوتا ہے، جبکہ مرزا قادریانی ماں بہن کی گالیوں سے بھی دربغ نہیں کرتا تھا پچھہ وہ لکھتا ہے:

الف:”جو شخص میری فتح کا قائل نہیں ہو گا تو صاف سمجھا جائے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زادہ نہیں۔“

(انوار اسلام ص ۳۰ رو حاتی خزانہ ص ۳۷ ج ۹)

ب..... ”وہمن ہمارے بیبانوں کے خزیر ہو گئے اور ان کی

عورتیں کتیوں سے بڑھ گئیں۔“ (جم الہدی ص ۵۳ رو حاتی خزانہ ص ۵۲ ج ۱۲)

نیز یہ کہ الف سے یا تک کوئی ایسی گالی نہیں جو مرزا قادیانی نے نہ کی ہو، لکھنؤ کی
بھٹیارن سے بھی زیادہ بذبانت اور بد اخلاق تھا۔ (تفصیل کے لئے دیکھئے مخالفات مرزا
مولفہ مولانا نور محمد خان)

سوال ۵: دلائل سے ثابت کریں کہ مرزا انگریز کا

ایجنت تھا اور انگریز نے اپنے مخصوص مفاوat کے حصول کے
لئے اس کو مدھب کا لبادہ اوڑھایا، واضح ہو کہ انگریز مسلمانوں
کے جذبہ جہاد سے خائف تھا اور چاہتا تھا کہ مسلمانوں سے یہ
جذبہ ختم ہو جائے، آپ واضح کریں کہ مرزا نے انگریز کی
خواہش کی تکمیل کس طرح کی؟

جواب: مرزا قادیانی جدی طور پر انگریز کا خود کاشتہ پودا تھا، انگریز نے جب
متحدہ ہندوستان پر قبضہ کیا تو اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے لئے اور مسلمانوں سے جذبہ جہاد
مٹانے کے لئے مرزا غلام احمد قادیانی کی خدمات حاصل کیں۔ مرزا قادیانی کی تحریرات
سے ہمارے موقوف کی صداقت ملاحظہ ہو:

ا: ”یہ انتہا ہے کہ سرکار دولتمدار (انگریز گورنمنٹ) ایسے

خاندان کی نسبت جس کو پچاس برس کے متواتر تجربے سے ایک وفادار جان

شارخاندان ثابت کر چکی ہے..... اس خود کاشتہ پودہ کی نسبت نہایت جزم

اور اختیاط اور تحقیق و توجہ سے کام لے..... ہمارے خاندان نے سرکار

انگریزی کی راہ میں اپنے خون بہانے اور جان دینے سے فرق نہیں کیا اور

نہاب فرق ہے۔” (کتاب البریع ص ۳۵۰ روحانی خزانہ ج ۳۵۰ ج ۱۳)

۲:..... ”سب سے پہلے میں یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ میں ایک ایسے خاندان میں سے ہوں جس کی نسبت گورنمنٹ (انگریزی) نے ایک مدت دراز سے قبول کیا ہوا ہے کہ وہ خاندان اول درجہ پر سرکار دولتمدار انگریزی کا خیرخواہ ہے..... ان تمام تحریرات سے ثابت ہے کہ میرے والد صاحب، میرا خاندان ابتداء سے سرکار انگریزی کے بدل و جان ہوا خواہ اور وفادار ہے۔“ (مجموعہ اشتہارات ص ۹ ج ۱۰)

۳:..... ”میں ابتدائی عمر سے اس وقت تک جو قریب اسائش بر س کی عمر تک پہنچا ہوں اپنی زبان اور قلم سے اس اہم کام میں مشغول ہوں کہ تاکہ مسلمانوں کے دلوں کو گورنمنٹ انگلشیہ کی پچی محبت اور خیرخواہی اور ہمدردی کی طرف پھیروں اور ان کے بعض کم فہموں کے دلوں سے غلط خیال جہاد وغیرہ کے دور کروں۔“ (مجموعہ اشتہارات ص ۱۱ ج ۳)

۴:..... ”اور میں نے نہ صرف اسی قدر کام کیا کہ برش اٹھیا کے مسلمانوں کو گورنمنٹ انگلشیہ کی پچی اطاعت کی طرف جھکایا۔“

(مجموعہ اشتہارات ص ۱۱ ج ۳)

۵:..... ”میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت انگریزی کی تائید اور حمایت میں گزرا ہے اور میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارہ میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں اور اشتہارات شائع کئے ہیں کہ اگر وہ رسائل اور کتابیں اکٹھی کی جائیں تو پچاس الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں۔ میں نے ایسی کتابوں کو تمام ممالک عرب اور مصر اور شام اور کابل اور روم تک پہنچا دیا ہے۔ میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے پچے خیرخواہ ہو جائیں اور مہدی خونی اور مسیح خونی کی بے اصل روایتیں اور جہاد کے جوش دلانے والے مسائل جو احتقنوں کے دلوں کو

خراب کرتے ہیں ان کے دلوں سے معدوم ہو جائیں۔“

(تربیق القلوب ص ۱۵۵، روحانی خزانہ ص ۱۵۶، ۱۵۷ ج ۱۵۵)

۶:.....”سویں نے نہ کسی بناوٹ اور ریا کاری سے بلکہ محض اس اعتقاد کی تحریک سے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے میرے دل میں ہے بڑے زور سے بار بار اس بات کو مسلمانوں میں پھیلایا ہے کہ ان کو گورنمنٹ برطانیہ کی، جو درحقیقت ان کی محسن ہے، پچی اطاعت اختیار کرنی چاہئے اور وفاداری کے ساتھ اس کی شکرگزاری کرنی چاہئے ورنہ خدا تعالیٰ کے گناہ گار ہوں گے۔“
(مجموعہ اشتہارات ص ۱۱ ج ۳)

۷:.....”میں سچ سچ کہتا ہوں کہ محسن کی بدخواہی کرنا ایک حرامی اور بد کار آدمی کا کام ہے، سو میرانہ ہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں یہ ہی ہے کہ اسلام کے دو حصے ہیں، ایک یہ کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کریں، دوسرے اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا ہو، جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سایہ میں ہمیں پناہ دی ہو، سو وہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے..... سو اگر ہم گورنمنٹ برطانیہ سے سرکشی کریں تو گویا اسلام اور خدا اور رسول سے سرکشی کرتے ہیں۔“

(شهادۃ القرآن ص ”ج، د“ روحانی خزانہ ص ۳۸۰، ۳۸۱ ج ۲)

۸:.....”جہاد یعنی دینی لڑائیوں کی شدت کو خدا تعالیٰ آہستہ آہستہ کم کرتا گیا ہے، حضرت موسیٰ کے وقت میں اس قدر شدت تھی کہ ایمان لانا بھی قتل سے بچانہیں سکتا تھا اور شیر خوار بچے بھی قتل کئے جاتے تھے، پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بچوں اور بڑھوں اور عورتوں کا قتل کرنا حرام کیا گیا، اور پھر بعض قوموں کے لئے بجائے ایمان کے صرف جزیہ دے کر موافقہ سے نجات پانा قبول کیا گیا اور پھر مسح موعود کے وقت قطعاً جہاد کا حکم موقوف کر دیا گیا۔“

(اربعین نمبر ۳ ص ۳، حاشیہ روحانی خزانہ ص ۸۳۳ ج ۱۷)

۹..... اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال
 دیں کے لئے حرام ہے اب جنگ اور قاتل
 اب آگیا سچ جو دیں کا امام ہے
 دیں کی تمام جنگوں کا اب انتقام ہے
 اب آسمان سے نور خدا کا نزول ہے
 اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے
 دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد
 منکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد

(ضمیر تفہیم گلزاری ص ۳۱، ۳۲، ۳۳ روحانی خزانہ ص ۷۷، ۷۸، ۷۹ ج ۱۷)

سوال ۶:..... جن الفاظ کی بنا پر مرزا کی تکفیر کی گئی ہے،
 اس طرح کے الفاظ بعض اولیاً سے بھی منقول ہیں اگر مرزا نے
 ایسے الفاظ لکھ دیئے تو صرف اسی پر فتویٰ کفر کیوں؟ الغرض
 قادریانی بعض اولیاً کی جن عبارتوں سے اپنے موقف کو ثابت
 کرتے ہیں، ان کا شافی جواب تحریر کریں؟

جواب:..... سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ دین کا اصل سرچشمہ کتاب و سنت اور
 اجماع امت ہے۔ مرزا یوں نے بہت سے مسائل میں ان کوٹھکرایا ہے۔ اب بہم اور محمل
 اقوال سے استدلال کر کے عقیدہ ثابت کرنا چاہتے ہیں جو بالکل غلط ہے۔ نیز واضح ہو کہ:
 ا:..... اس ضمن میں مرزا ای جو عبارات پیش کرتے ہیں، وہ عموماً دو قسم کی ہیں: ایک
 خواب اور دوسرا سے شلختیات۔

یاد رہے کہ آج تک جس شخص نے جوبات خلاف شرع کہی ہے، وہ دو حال سے

خالی نہیں یا تو جان بوجھ کر اس نے خلاف شرع کہا اگر ایسے ہے تو کہنے والا کافر ہے۔ چاہے کوئی بھی ہوا اگر حالت سکر میں کہا ہو تو وہ معدور ہے۔ مرزا قادیانی کے متعلق قادریانی بتائیں کہ وہ کافر تھا معدور؟ ان دونوں حالتوں میں وہ نبوت کے قابل نہیں۔

۲: بزرگوں کے خوابوں کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں، بالخصوص عقائد کے باب میں تو صفر کے برابر بھی نہیں۔ مرزا قادیانی کے خوابوں کے جواب میں بزرگوں کے خواب پیش کر دینا دیانت کے خلاف ہے، اس لئے کہ مرزا نبوت کا مدعا تھا اور اعیا کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں، جبکہ بزرگوں کے خوابوں کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں۔

۳: اگر کسی شخص نے حالت سکر میں کوئی بات کہی، جب بعد میں اسے بتایا گیا کہ آپ نے فلاں بات خلاف شرع کہی تو اس نے جواب میں کہا کہ تم نے اس وقت مجھے قتل کیوں نہ کر دیا، دیکھو پھر اگر میں کوئی بات خلاف شرع کہوں تو مجھے قتل کر دیا جائے۔ خلاف مرزا کے کہ یہ تو ان خلاف شرع باتوں کو کتابوں میں شائع کرتا ہے اور بڑی آب و تاب سے ان کی اشاعت کرتا ہے اور ان پر فخر و مبارکات کرتا ہے۔

۴: اکثر ویشنتر قادریانی ان عبارتوں کو پیش کرتے ہیں کہ فلاں نے لکھا ہے کہ فلاں بزرگ نے یہ خواب دیکھا، جس بزرگ کا نام لیا جا رہا ہے وہ کتاب ان کی اپنی کتاب نہیں، اور کسی دوسرے کے لکھنے کی ان بزرگوں پر ذمہ داری کیسے؟ جبکہ مرزا کی تمام کفریات اس کی اپنی کتب میں پائی جاتی ہیں۔

۵: مرزا قادیانی خود تسلیم کرتا ہے:

”اقوال سلف وخلف در حقیقت کوئی مستقل جھٹ نہیں۔“

(از الادب امام ص ۲۶۹ حصہ دوم خدا آن ص ۳۸۹ ج ۳)

۶: تصوف میں شطحیات وغیرہ کے متعلق یاد رکھیں کہ ہر علم و فن کا موضوع اور اس کے ماہرین علیحدہ ہوتے ہیں۔ تفسیر حدیث، فقہ، عقائد اور تصوف میں سے ہر ایک علم کا وظیفہ اور اس کی اصطلاحات علیحدہ ہیں۔ ان علوم میں سب سے دیقان اور پیچیدہ تغیرات تصوف کی ہیں، کیونکہ ان کتابوں کا تعلق نظریات اور ظاہری اعمال کی بجائے ان باطنی

تجربات اور ان واردات و کیفیات سے ہے جو صوفیاء پر اپنے اشغال کے دوران طاری ہوئیں اور معروف الفاظ کے ذریعہ ان کی تعبیر دشوار ہوتی ہے۔ عقائد عملی احکام، علم تصوف کا موضوع نہیں، اس نے بعض صوفیاء کی کوئی بات از قسم شطحیات عقائد و اعمال میں کوئی محبت نہیں۔ الحمد للہ! محقق صوفیاء کرام جیسے ہمارے حضرات اکابر ہیں ان کا کلام اس قسم کے امور سے خالی ہوتا ہے۔ تاہم اس موضوع پر مولانا اللال حسین اختر کا رسالہ "ختم نبوت اور بزرگان امت" مندرجہ "اصفاب قادریانیت" جلد اول، ملاحظہ فرمائیں۔

سوال:نبی جب کوئی پیش گوئی کرتے ہیں تو اللہ پاک اس کو ضرور پورا فرماتے ہیں، مگر مرزا کی ایک پیش گوئی بھی پوری نہ ہوئی۔ کم از کم تین مثالیں دیں؟

جواب:

مرزا کی زبانی پیش گوئیوں کی نسبت معیار صداقت ہونا ملاحظہ ہو:
"اگر ثابت ہو جائے کہ میری سو پیش گوئیوں میں سے ایک بھی جھوٹی نکلی تو میں اقرار کروں گا کہ میں کاذب ہوں۔"

(حاشر اربعین نمبر ۳۰ ص ۳۰)
"ممکن نہیں کہ نبیوں کی پیش گوئیاں ثل جائیں۔"

(کشتی نوح ص ۹)

پہلی پیش گوئی: مرزا کی موت سے متعلق:

مرزا قادریانی نے اپنی موت سے متعلق یہ پیش گوئی کی کہ ہم مکہ میں مرسیں گے یا مدینہ میں۔ (تذکرہ ص ۵۹۱ طبع سوم)

ہمارا دعویٰ ہے کہ مکہ، مدینہ میں مرتنا تو درکنار مرزا قادریانی کو مکہ اور مدینہ دیکھنے کی سعادت بھی نصیب نہ ہوئی، اور خود اپنی پیش گوئی کے بموجب ذلیل و رسوآ ہوا اور جھوٹا قرار

پایا۔ مرزا قادیانی کی پیش گوئی ملاحظہ فرمائیں:

”ڈاکٹر میر محمد امیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حج نہیں کیا اور اعتکاف نہیں کیا اور زکوٰۃ نہیں دی، تسبیح نہیں رکھی، میرے سامنے خب طینی گوہ کھانے سے انکار کیا۔“

(سیرۃ المہدی حصہ سوم ص ۱۹ اردو ایت نمبر ۲۷۲)

اسی طرح سیرۃ المہدی حصہ اول ص ۱۱ میں لکھا ہے کہ مرزا کی موت لاہور میں تھے اور اسہال کی حالت میں دستوں والی جگہ ہوئی لہذا مکہ یا مدینہ میں مرنے کی بابت مرزا کی پیش گوئی سراسر جھوٹی ثابت ہوئی۔ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔

دوسری پیش گوئی: زلزلہ اور پیر منظور محمد کے لڑکے کی پیش گوئی:
پیر منظور محمد، مرزا قادیانی کا بڑا خاص مرید تھا۔ مرزا کو معلوم ہوا کہ اس کی بیوی حاملہ ہے تو مرزا نے ایک پیش گوئی کر دی کہ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا۔ اس کی پیش گوئی کے الفاظ یہ ہیں:

”پہلے یہ وجہ الہی ہوئی تھی کہ وہ زلزلہ جو نمونہ قیامت ہوگا، بہت جلد آنے والا ہے اور اس کے لئے یہ نشان دیا گیا تھا کہ پیر منظور محمد لدھیانوی کی بیوی محمدی بیگم کو لڑکا پیدا ہوگا اور وہ لڑکا اس زلزلے کے لئے ایک نشان ہوگا اس لئے اس کا نام بشیر الدولہ ہوگا۔“

(حقیقتہ الوجی حاشیہ درود حافظی خزانہ مص ۱۰۳ حج ۲۲)

مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ بجاۓ لڑکے کے لڑکی پیدا ہوئی، تو مرزا قادیانی نے یہ کہا کہ اس سے یہ تھوڑی مراد ہے کہ اسی حمل سے لڑکا پیدا ہوگا، آئندہ بھی لڑکا پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اتفاق سے وہ عورت ہی مرگی، اور دوسری پیش گوئیوں کی طرح یہ پیش گوئی بھی صاف جھوٹی نکلی۔ نہ اس عورت کے لڑکا پیدا ہوا، اور نہ وہ زلزلہ آیا، اور مرزا ذیل ورسا ہوا۔

تیسرا پیش گوئی: ریل گاڑی کا تین سال میں چلتا:

امام مہدی اور شہزادون مدعاۃ درشتیاں بیت برے: دو مرزا قادیانی نے ایک نشانی یہ بیان کی ہے کہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں تین سال کے اندر ریل گاڑی (TRAIN) چل جائے گی۔ عبارت ملاحظہ فرمائیں:

”یہ پیش گوئی اب خاص طور پر مکملہ معظمه اور مدینہ منورہ کی ریل تیار ہونے سے پوری ہو جائے گی کیونکہ وہ ریل جودمشق سے شروع ہو کر مدینہ آئے گی وہی مکہ معظمه میں آئے گی، اور امید ہے کہ بہت جلد اور صرف چند سالوں تک یہ کام تمام ہو جائے گا، تب وہ اونٹ جو تیرہ سو برس سے حاجیوں کو لے کر مکہ سے مدینہ کی طرف جاتے ہیں یک دفعہ بے کار ہو جائیں گے اور ایک عظیم انقلاب عرب اور بلا دشام کے سفروں میں آجائے گا۔ چنانچہ یہ کام بڑی سرعت سے ہو رہا ہے اور تعجب نہیں کہ تین سال کے اندر اندر یہ مکڑا مکہ مکرمہ اور مدینہ کی راہ کا تیار ہو جائے اور حاجی لوگ ہجائے بدوسوں کے پھر کھانے کے طرح طرح کے میوے کھاتے ہوئے مدینہ منورہ میں پہنچا کریں۔“ (تحفہ لورڈ میں ۳۰، اردو حملہ خزانہ ص ۱۹۵۷ء)

اب قادیانی بتائیں کہ کیا ریل گاڑی (TRAIN) مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان چل گئی ہے؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو کیا یہ پیش گوئی جھوٹی ہو کر مرزا غلام احمد قادیانی کی ذلت و رسائی کا باعث ہوئی یا نہیں؟ یاد رہے کہ یہ کتاب ۱۹۰۲ء کی تصنیف ہے۔ مرزا صاحب کی پیش گوئی کے مطابق ۱۹۰۵ء میں یہ ریل گاڑی چل جانی چاہئے تھی۔ ۹۲ سال اوپر گزر گئے ہیں مگر وہ ریل گاڑی ابھی تک نہ چل سکی بلکہ جو گاڑی شام سے مدینہ منورہ تک چلتی تھی وہ بھی اس جھوٹے مسح کی خوبست کی وجہ سے بند ہو گئی۔

چوتھی پیش گوئی: غلام حلیم کی بشارت:

مرزا صاحب نے اپنے چوتھے لڑکے مبارک احمد کی کوصلخ موعود، عمر پانے والا،

کان اللہ نزل من السماء (گویا خدا آسمان سے اتر آیا) وغیرہ الہامات کا مصدقہ بتایا تھا اور وہ نابالغی کی حالت میں ہی مر گیا۔ اس کی وفات کے بعد ہر چار طرف سے مرزا صاحب پر طامتوں کی بوجھاڑ اور اعتراضات کی بارش ہوئی تو انہوں نے پھر سے الہامات گھڑنے شروع کئے تاکہ مریدوں کے جلے بھنے کلیبوں کو ٹھنڈک پہنچے۔ ۱۶ ستمبر ۱۹۰۷ء کو الہام سنایا:

”انا نبشرك بغلام حليم۔“ (البشری ص ۱۳۳ ج ۲)

اس کے ایک ماہ بعد پھر الہام سنایا:

”آپ کے لڑکا پیدا ہوا ہے یعنی آئندہ کے وقت پیدا ہوگا: انسا نبشرك بغلام حليم۔ ہم تجھے ایک حليم لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ ینzel منزل المبارک۔ وہ مبارک احمد کی شیبہ ہوگا۔“ (البشری ص ۱۳۶ ج ۲)

چندوں کے بعد پھر الہام سنایا:

”صاحب لک غلاماً ز کیا۔ رب هب لی ذریة طيبة۔ انا نبشرك بغلام اسمه سعین۔ میں ایک پاک اور پاکینہ لڑکے کی خوشخبری دیتا ہوں۔ میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش۔ تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے۔“ (البشری ص ۱۳۶ ج ۲)

ان الہامات میں ایک پاکیزہ لڑکے مسٹی بھی جو مبارک احمد کا شیبہ اور قائم مقام ہونا تھا، کی پیش گوئی مرقوم ہے۔ اس کے بعد مرزا کے گھر کوئی لڑکا پیدا ہی نہ ہوا، اس لئے یہ سب کے سب الہامات افتراق علی اللہ ثابت ہو گئے، جبکہ انہیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ معجزات کا شرف نصیب فرماتے ہیں، جن سے وہ مخالفین کو چیلنج کرتے ہیں۔ معجزہ خرق عادت ہوتا ہے مگر جھوٹے مدعا نبوت کے ہاتھ پر کوئی خرق عادت کا نہیں ہوتا تاکہ حق و باطل میں تلبیس نہ ہو۔ اس لئے بطور خرق عادت مرزا کی کوئی بات یا پیش گوئی پوری نہیں ہوئی۔

سوال: ۸ محمدی بیگم کے نکاح کے بارے میں مرزا قادری کے متفاہد عوویں کو واضح کریں؟ نیز واضح کریں کہ نبی

کے کلام میں تضاد نہیں ہوتا، بلکہ مرزا کا کلام تضادات کا مجموعہ ہے؟ کم از کم تین مثالیں دیں؟

جواب: محمدی بیگم سے متعلق:

محمدی بیگم مرزا قادیانی کے ماموں زاد بھائی مرزا احمد بیگ کی نو عمر لڑکی تھی، مرزا قادیانی نے اس کو زبردستی اپنے نکاح میں لانے کا ارادہ کیا، اتفاق ایسا ہوا کہ ایک زمین کے ہبہ نامہ کے سلسلہ میں مرزا احمد بیگ کو مرزا قادیانی کے دستخط کی ضرورت پڑی چنانچہ وہ مرزا قادیانی کے پاس گیا اور اس سے کاغذات پر دستخط کرنے کی درخواست کی، مرزا قادیانی نے اپنی مطلب برآئی کے لئے اس موقع کو غیمت سمجھا اور احمد بیگ سے کہا کہ استخارہ کرنے کے بعد دستخط کروں گا جب کچھ دن کے بعد دوبارہ احمد بیگ نے دستخط کرنے کی بات کی تو مرزا نے جواب دیا کہ دستخط اسی شرط پر ہوں گے کہ اپنی لڑکی محمدی بیگم کا نکاح میرے ساتھ کر دو خیریت اسی میں ہے، اس کی دھمکی کے الفاظ یہ ہیں:

”اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل کی کہ اس شخص یعنی احمد بیگ کی

بڑی لڑکی کے نکاح کے لئے پیغام دے اور اس سے کہہ دے کہ پہلے وہ تمہیں دامادی میں قبول کر لے اور تمہارے نور سے روشنی حاصل کرے اور کہہ دے کہ مجھے اس زمین کے ہبہ کرنے کا حکم مل گیا ہے جس کے تم خواہش مند ہو بلکہ اس کے ساتھ اور زمین بھی وہی جائے گی اور وہ گر مزید احسانات تم پر کئے جائیں گے، بشرطیکہ تم اپنی لڑکی کا مجھ سے نکاح کر دو، میرے اور تمہارے درمیان یہی عہد ہے تم مان لو گے تو میں بھی تسلیم کرلوں گا اگر تم قبول نہ کرو گے تو خبردار رہو مجھے خدا نے یہ بتایا ہے کہ اگر کسی شخص سے اس لڑکی کا نکاح ہو گا تو نہ اس لڑکی کے لئے یہ نکاح مبارک ہو گا اور نہ تمہارے لئے۔“ (آنینکملاتِ اسلام در خزانہ ائمہ ج ۵۷۲، ۵۷۳)

ان دھمکیوں وغیرہ کا منفی اثر یہ ہوا کہ مرزا احمد بیگ اور اس کے خاندان والوں نے محمدی بیگم کا نکاح مرزا قادیانی کے ساتھ کرنے سے صاف انکار کر دیا، مرزا نے خطوطِ لکھ کر اشتہار شائع کر دا کر، اور پیش گوئیاں کر کے حتیٰ کہ منت سماجت کے ذریعہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ کسی طرح اس کی آرزو پوری ہو جائے لیکن محمدی بیگم کا نکاح ایک دوسرے شخص مرزا اسلطان

احمد سے ہو گیا اور مرزا قادیانی کے مرتبے دم تک بھی محمدی بیگم اس کے نکاح میں نہ آئی۔ اس سلسلہ میں مرزا قادیانی نے جو جھوٹی پیش گوئی کی تھی اس کے الفاظ حسب ذیل ہیں:

”خد تعالیٰ نے اس عاجز کے خلاف اور منکر رشتہ داروں کے حق میں نشان کے طور پر یہ پیشگوئی ظاہر کی ہے کہ ان میں سے جو ایک شخص احمد بیگ نام کا ہے اگر وہ اپنی بڑی لڑکی (محمدی بیگم) اس عاجز کو نہیں دے گا تو تین برس کے عرصہ تک بلکہ اس سے قریب فوت ہو جائے گا اور وہ جو نکاح کرے گا وہ روز نکاح سے اڑھائی برس کے عرصہ میں فوت ہو گا اور آخروہ عورت اس عاجز کی بیویوں میں داخل ہو گی۔“

(اشتہار ۲۰ / فروری ۱۸۸۶ء تبلیغ رسالت ج ۱ ص ۶۱)

مندرجہ مجموعہ اشتہارات ج ۱ ص ۱۰۲ (احاشیہ)

اس پیشگوئی کی مزید تشریح کرتے ہوئے مرزا قادیانی نے کہا:

”میری اس پیشگوئی میں نہ ایک بلکہ چھوٹے ہیں اول نکاح کے وقت تک میرا زندہ رہنا، دوم نکاح کے وقت تک اس لڑکی کے باپ کا یقیناً زندہ رہنا، سوم پھر نکاح کے بعد اس لڑکی کے باپ کا جلدی سے مرننا جو تین برس تک نہیں پہنچے گا، چہارم اس کے خاوند کا اڑھائی سال کے عرصہ تک مر جانا، پنجم اس وقت تک کہ میں اس سے نکاح کروں اس لڑکی کا زندہ رہنا، ششم پھر آخر یہ یہو ہونے کی تمام رسماں کو توڑ کر باوجود دستخط مختلف اسکے اقارب کے نیزے نکاح میں آ جانا۔“

(آئینہ کمالات اسلام در روحانی خزانہ ج ۵ ص ۳۲۵)

اس بارے میں عربی الہام اس طرح ہے:

”کذبوا بایتنا و کانوا بها یستهزئون فسيكفيکهم الله“

ویردها اليك لا تبدل لکلمت الله ان ربک فعل لما يريده، انت

معي وانا معك عسى ان یبعثك ربک مقاماً محموداً۔“

(آئینہ کمالات اسلام در روحانی خزانہ ج ۵ ص ۳۲۶، ۳۲۷)

علاوہ ازیں انجام آنکھم ص ۳۱ اور تذکرہ میں متعدد جگہ یہ پیش گوئی مختلف الفاظ میں مذکور ہے اور اللہ کی قدرت کے ہر اعتبار سے مرزا قادیانی کی یہ پیشگوئی جھوٹی نکلی کوئی ایک بھی دعویٰ سچا نہیں ہوا، محمدی بیگم کا خاوند اڑھائی سال میں تو کیا مرتا مرزا کے مرنے کے چالیس سال بعد تک زندہ رہا اور ۱۹۳۸ء میں وفات پائی اور خود محمدی بیگم بھی ۱۹۶۶ء تک زندہ رہ کر مرزا قادیانی کے کذاب اور دجال ہونے کا اعلان کرتی رہی اور ۱۹ نومبر ۱۹۶۶ء کو لا ہوئیں۔ بحالت اسلام اس کی موت واقع ہوئی۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس پیشگوئی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے مرزا کے ذلیل و رسوا اور خائب و خسر ہونے کا بہترین انتظام فرمادیا۔ آج کوئی بھی صاحب عقل محمدی بیگم کے واقعہ کو دیکھ کر مرزا کے جھوٹے اور دباش ہونے کا باسانی یقین کر سکتا ہے۔ فاتحہ اللہ علی ذلک

مرزا قادیانی کے مریدوں کا موقف:

سب م: ۲۰۱۴ء کو ۱۹۰۸ء میں بہرض ہیضد آنجمنی ہو گیا اور محمدی بیگم سے نکاح نہ ہونا تھا نہ ہوا، تو قادیانیوں نے جواب گھڑا کہ نکاح جنت میں ہو گا۔ اس پر کہا گیا کہ محمدی بیگم مرزا پر ایمان نہ لائی تھی، تو مرزا کا کہنا تھا کہ میرے منکر جہنم میں جائیں گے، تو کیا مرزا جہنم میں براءت لے کر جائے گا، تو اس پر مرزا نیوں نے جواب تیار کیا کہ یہ پیشگوئی مشاہدات میں سے ہے، غالباً قادیانیوں کو یہی معلوم نہیں کہ پیش گوئی رب کا وہ وعدہ ہوتا ہے جس کا نبی تحدی سے اعلان کرتا ہے، جو ضرور پورا ہوتا ہے مگر (معاذ اللہ) مرزا کا خدا بھی مرزا سے جھوٹے وعدے کرتا تھا۔

تضادات مرزا:

ایک سچا نبی جو کچھ کہتا ہے وہ وحی الہی کے تحت کہتا ہے، اس لئے اس کا کلام تضاد بیانی کے عیب سے بالکل پاک ہوتا ہے۔ تضاد بیانی خود اس بات کی دلیل ہے کہ کہنے والا جو کچھ کہہ رہا ہے وہ منجانب اللہ نہیں ہے بلکہ اس کے اپنے ذہن کی اختراع اور من گھڑت ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے: ”لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَوْ جَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كثیرًا۔“ اس اصول کے تحت جب ہم مرزا صاحب کے کلام کو پر کھٹتے ہیں تو وہ مھکلے خیز تضادات سے پُر نظر آتا ہے۔ چند مثالیں درج ذیل ہیں:

۱:.....”مرزا صاحب سے سوال ہوا کہ آپ نے فتح اسلام میں
دعوائے نبوت کیا ہے جواب دیا کہ نبوت کا دعویٰ نہیں، بلکہ محدث شیعہ کا دعویٰ
ہے جو خدا تعالیٰ کے حکم سے کیا گیا ہے۔“

(ازالہ ادیام حصہ اول، ۳۲۱، ۳۲۲، روحانی خزانہ ص ۳۲۰ ج ۳)

اس کے برخلاف دوسری جگہ کہتا ہے کہ:
”اگر خدا تعالیٰ سے غیب کی خبریں پانے والا نبی کا نام نہیں رکھتا تو
پھر بتلا د کس نام سے اس کو پکارا جائے، اگر کہ اس کا نام محدث رکھنا چاہئے
تو میں کہتا ہوں تحدیث کے معنی کسی لغت کی کتاب میں اظہار غیب نہیں۔“

(ایک غلطی کا زالہ ص ۵، روحانی خزانہ ص ۲۰۹ ج ۱۸)

۲:..... ”ختم المرسلین کے بعد میں کسی دوسرے مدعا رسالت و
تجویز کو کاذب اور کافر جانتا ہوں، میرا یقین ہے کہ وحی رسالت حضرت
آدم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔“

(مجموعہ استخارات ص ۲۳۰ ج ۱)

اس کے برخلاف مفہومات میں کہتا ہے:

”ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں۔“ (مفہومات ص ۷۷ ج ۱۰)

۳:..... ”یہ توقع ہے کہ مجھ اپنے وطن گلیل میں جا رفت بوجیا،
لیکن یہ ہرگز صحیح نہیں کروہی جسم جو فن ہو چکا تھا پھر زندہ ہو گیا۔“

(ازالہ ادیام ص ۲۷۲ روحانی خزانہ ص ۳۵۲ ج ۲)

اس کے برخلاف ست پنج میں کہتا ہے:

”اور حضرت مجھ اپنے ملک سے نکل گئے، اور جیسا کہ بیان کیا گیا
ہے، کشمیر میں جا کر وفات پائی اور اب تک کشمیر میں ان کی قبر موجود ہے۔“

(ست پنچ حاشیہ ۱۶۳ اردو حانی خزانہ ص ۳۰ ج ۱۰)

۴:..... ”میں نے صرف مثالی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور میرا یہ بھی دعویٰ نہیں کہ صرف مثالی ہونا میرے پر ہی ختم ہو گیا، بلکہ میرے نزدیک ممکن ہے کہ آئندہ زمانوں میں میرے بھی اور دس ہزار بھی مثالی متع آ جائیں۔“ (ازالہ ابہام ص ۱۹۹ اردو حانی خزانہ ص ۷۶ ج ۳)

اس کے برخلاف دوسری جگہ کہتا ہے کہ:

”اگر قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں۔“

(تحفۃ الندوہ ص ۵ اردو حانی خزانہ ص ۹۸ ج ۱۹)

۵:..... ”اس جگہ کسی کو یہ وہم نہ گزرے کہ اس تقریر میں اپنے نفس کو حضرت مسیح پر فضیلت دی ہے کیونکہ یہ ایک جزوی فضیلت ہے، جو غیر بنی کو نبی پر ہو سکتی ہے۔“ (تریاق القلوب ص ۷۵ اردو حانی خزانہ ص ۲۸۱ ج ۱۵)

اس کے برخلاف ایک اور جگہ لکھتا ہے کہ:

”خدا نے اس امت میں مسیح موعود بھیجا جو اس پہلے مسیح سے اپنی

تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے۔“

(ربیو آف بلجیم نمبر ۶ ص ۲۵ جلد اول مندرجہ حقیقت الوجی ص ۱۳۸)

(اردو حانی خزانہ ص ۱۸ اج ۲۲، دافع البلاء ص ۲۳ اردو حانی خزانہ ص ۲۳۳ ج ۱۸)

تضاد بیانی کی ایک اور واضح مثال سنئے، مرا صاحب اپنی تمام تر توانائیاں اس پر صرف کرتے ہیں کہ وہ سیدنا عبیسی مسیح ابن مریم علیہ السلام کو فوت شدہ ثابت کریں۔ اب نہ تو کتاب و سنت کی کوئی نص ان کے پاس موجود ہے نہ کوئی قابل وثوق تاریخی، جغرافیائی حوالہ وہ تاکم ٹوپیاں مارتے ہیں، کبھی انہیں کشیر پہنچا کرو ہاں ان کا فوت ہونا اور قبر میں مدفن ہونا بتاتے ہیں، چنانچہ ”ستارہ قیصریہ“ میں لکھتے ہیں:

”دلائل قاطعہ سے ثابت ہو گیا ہے کہ حضرت عبیسی علیہ السلام کی قبر سری گمراہ کشیر میں موجود ہے..... آپ یہودیوں کے ملک سے بھاگ کر نصیبین کی راہ سے افغانستان میں آئے اور ایک مدت تک

کوہ نعمان میں رہے اور پھر کشمیر میں آئے اور ایک سو بیس برس کی عمر پا کر سری گنگر میں آپ کا انتقال ہوا اور سری گنگر محلہ خان یار میں آپ کا مزار ہے۔
(ستارہ قصیریہ ص ۱۳)

”اور لطف تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی بھی بلا دشام میں قبر موجود ہے۔“
(اتمام الحجۃ ص ۱۹)

پھر انپی تائید میں مولوی محمد سعید طرابلسی کا ایک عربی خط نقل کیا ہے جس کا ترجمہ مرزا صاحب نے کیا ہے اس میں لکھتے ہیں:

”حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بلدة قدس میں موجود ہے۔“
(اتمام الحجۃ ص ۲۲)

مرزا جی کی یہ تضاد بیانی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں مخالف اللہ نہیں ہوتا۔

سوال ۹: مرزا جی ارشادِ الہی: ”لو تقول علينا

بعض الاقاویل لأخذنا منه باليمین ثم لقطعنا منه الوتين“
کوکس ضمن میں پیش کرتے ہیں؟ اس کا اصولی طور پر روکریں؟
نیز مرزا جی ”هلا شقت قلبہ“ کوکس ذیل میں پیش کرتے
ہیں؟ اسی طرح حضرت ابو مخدورہ سے اذان کہلانے کا کیا
مطلوب بیان کرتے ہیں؟ مؤقف واضح طور پر بیان کر کے اس کا
شافی رو تحریر کریں؟

جواب: قادیانی کہتے ہیں کہ: ”لو تقول علينا بعض الاقاویل لأخذنا منه

باليمین ثم لقطعنا منه الوتين -“ (سورہ الحاقة: ۴۴-۴۶)
اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ: ”اگر محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) مجھ پر کوئی جھونٹا افتراء باندھتے تو میں ان کی شرگ کو کاٹ کر ہلاک کر دیتا۔“

اس سے ثابت ہوا کہ اگر مرتضیٰ قادریانی نے خدا تعالیٰ پر جھوٹا افتراء کیا تھا تو اسے ۲۳ سال کے اندر اندر ہلاک کر دیا جاتا اور اس کی شرک کاٹ دی جاتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد ۲۳ سال تک بقید حیات رہے، اور یہ بات آپ کی اس زندگی سے متعلق ہے۔

جواب ۱:..... اس آیت کا سیاق و سبق دیکھیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کسی قاعدہ کلیہ کے طور پر نہیں ہے، بلکہ یہ قضیہ شخصیہ ہے اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات کہی جا رہی ہے اور یہ بھی اس بناء پر کہ ہائیل میں موجود تھا کہ: ”اگر آنے والا پیغمبر اپنی طرف سے کوئی جھوٹا الہام یا نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ جلد مارا جائے گا۔“ چنانچہ درج ذیل عبارت ملاحظہ ہو:

”میں ان کے لئے ان ہی کے بھائیوں میں سے تھسا..... ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منڈ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا (مرا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہیں) وہ سب ان سے (یعنی اپنی امتوں سے) کہے گا اور ایسا ہو گا کہ جو کوئی میری باتوں کو جنہیں وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سے گا تو میں اس کا حساب اس سے لوں گا، لیکن جو نبی گستاخ بن کر کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اس کو حکم نہیں دیا، یا اور معبدوں کے نام سے کچھ کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے گا۔“ (انجیل مقدس عبد نامہ قدیم ص ۱۸۲ آنکتاب استنباط باب ۱۸ آیت ۲۱۲۱۸)

جواب ۲:..... بالفرض اگر یہ قانون عام بھی تسلیم کر لیا جائے تو یہ قانون سچے نبیوں کے متعلق ہو گا نہ کہ جھوٹے نبیوں کے متعلق، کیونکہ جھوٹے نبیوں کو مهلت ملنے سے یہ قانون مانع نہیں۔ فرعون و نمرود، بہاء اللہ ایرانی وغیرہ کو خدائی اور نبوت کے دعویدار ہونے کے باوجود کافی مهلت ملی۔

جواب ۳:..... مرتضیٰ قادریانی اپنی اس دلیل کی روشنی میں خود جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ مرتضیٰ نبوت کا دعویٰ ۱۹۰۱ء میں کیا۔ اس کا دعویٰ نبوت اگرچہ محل نزد اے ہے کیونکہ اس کے

مانے والے دو جماعتوں میں منقسم ہیں، لاہوری گروپ اس کو نبی تسلیم نہیں کرتا، واس کے خیال میں اس کا اپنا دعویٰ نبوت ہر شک سے بالا ہے۔ اس کے برعکس قادریانی گروپ اس کو نبی تسلیم کرتا ہے، اور نبی تسلیم کرنے والے گروپ کی تحقیق یہ ہے کہ مرزا قادریانی کی موت ۱۹۰۸ء میں ہو گئی تھی، لہذا یہ بات ثابت ہو گئی کہ مرزا قادریانی ۲۳ سال پورے کرنے سے پہلے ہی ہیضہ کی موت سے مرکراپنی اس دلیل کو جھوٹا کر گیا۔

هلا شفقت قلبہ کا جواب:

”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت اسماءؓ حاضر ہوئے اور عرض کی کہ جنگ میں فلاں کافر سے میرا سامنا ہوا، جب وہ میری تکوڑا کی زد میں آیا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس کے باوجود میں نے اس کو قتل کر دیا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”میں تیرے اس فعل سے بربی ہوں“ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اس نے تو قتل سے بچنے کے لئے ذر کے مارے کلمہ پڑھا تھا، اس پر آپ نے فرمایا کہ ”هلا شفقت قلبہ (کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا)۔“

قادیریانی اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لے تو اس کے کلمہ کا اعتبار کیا جائے، اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا شخص جس کے تفصیلی حالات معلوم نہ ہوں، اگر اس کی کوئی ایسی بات ملتی ہو جو کفر کی طرف مشعر ہو تو اس کے معاملہ تکفیر میں احتیاط برتنی جائے گی چنانچہ اگر کوئی خفیف سے خفیف ایسا احتمال نکلتا ہو جس کی وجہ سے وہ کفر سے نفع سکتا ہو تو اس احتمال کو اختیار کرتے ہوئے اسے کافرنہ کہا جائے گا، لیکن قادریانیوں کا اس روایت سے استدلال پکڑنا غلط ہے، اس لئے کہ ان کے کفر یہ عقائد سینکڑوں تحریرات میں بعنوانات مختلف و الفاظ واضح موجود ہیں، پھر یہ شخص خود کفر یہ معنی مراد لیتا ہے، اس کے اپنے کلام میں کفر کی تصریحات موجود ہیں، اس لئے باجماع فہماً امت اس پر کفر کا فتویٰ صادر کیا جائے گا۔

حضرت ابو مخذورؓ کی اذان کا جواب:

حضرت ابو مخذورؓ ابھی نو عمر تھے اور انہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہ

کھیل رہے تھے کہ حضرت بلالؑ نے اذان دینی شروع کی تو انہوں نے بھی نقل اتنی شروع کر دی، اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا یا اور ان سے اذان کے کلمات کھلوائے، اشہد ان محمد رسول اللہ پر جب وہ پہنچ تو چوکے، آپؐ نے تلقین کی تو انہوں نے یہ کلمات بھی کہہ دیئے ساتھ ہی آپؐ نے ان کے سینہ پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا، ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی، جس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے رگ و ریشہ میں سراہیت کر گئی اور وہ صدق دل سے مسلمان ہو گئے قادیانی اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ ابو مخدودؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غیر مسلم ہونے کی حالت میں اذان کی، چلو ہم قادیانی غیر مسلم ہی سمجھیں میں اذان دینے کی تو اجازت دی جائے۔

جواب:..... اذان مسلمانوں کا شعار ہے، غیر مسلم کو اس مسلمانوں کے شعار کے اختیار کرنے کی قطعاً اجازت نہیں، غیر مسلم بھی اگر اسلامی شعائر کو استعمال کریں تو پھر اسلام باز پچھے اطفال بن جائے گا، اسلام کی تاریخ میں کبھی نماز کے بلا نے کے لئے ایک بار بھی کسی غیر مسلم نے اذان نہیں کی، جس دن حضرت ابو مخدودؓ نے حضرت بلالؑ کی نقل اتنا تھی اس دن بھی نماز کے لئے اذان حضرت بلالؑ نے دی تھی تبھی تو وہ ان کی نقل اتنا رہے تھے۔

سوال ۱۰: ثابت کریں کہ مرزا قادیانی بد اخلاق،

بد زبان اور بد کردار انسان تھا، اپنے مخالفین کو گالیاں دیتا تھا، انہیاء

کرام علیہم السلام کی خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توجیہ کرتا تھا۔

کم از کم میں سطر دل پر مضمون تحریر کریں۔

جواب:..... مرزا غلام احمد قادیانی کی پیدائش ۱۸۳۹ء یا ۱۸۴۰ء میں مرزا غلام

مرتضیٰ کے گھر واقع بستی قادیان تھیں میں تعلیم بلالہ ضلع گوردا سپور (انڈیا) میں ہوئی۔ انگریز نے مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے اور جہاد کو حرام قرار دلانے کیلئے اپنی اغراض مذمومہ اور خواہشات فاسدہ کیلئے اسے پروان چڑھایا تا بد اخلاق شخص تھا کہ معمولی معمولی باتوں پر مدربانی پر اتر آتا تھا۔ اپنے مخالفین کو ولد الحرام، ک مجری کی اولاد، کافر، جہنمی کہنا اس کا صحیح شام

کامشغله تھا جیسا کہ اس نے خود اپنی کتابوں میں لکھا ہے، ملاحظہ فرمائیے:

الف:.....”اور (جو) ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا

جاوے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زادہ نہیں۔“

(انوار الاسلام ص ۳۰ روحانی خزانہ ص ۳۱ ج ۹)

ب:.....”جو میرے مخالف تھے ان کا نام عیسائی اور یہودی بور

مشرک رکھا گیا۔“ (نزوں الحج حاشیہ ص ۲ روحانی خزانہ ص ۲۸ ج ۱۸)

ج:.....”میری ان کتابوں کو ہر مسلمان محبت کو انگلر سے دیکھتا ہے اور

ان کے معارف سے فائدہ اٹھاتا ہے اور میری دعوت کی تصدیق کرتا ہے اور

اسے قبول کرتا ہے مگر رثیوں (بدکار عربتوں) کی اولاد نے میری تصدیق نہیں

کی۔“ (آئینہ کمالات اسلام ص ۵۳۸، ۵۳۷ روحانی خزانہ ص ۵۳۷، ۵۳۸ ج ۵)

د:.....”وُمَنْ ہمارے بیبانوں کے خریر ہو گئے اور ان کی عورتیں

کتیوں سے بڑھتی ہیں۔“ (محمد الہدی ص ۵۲ روحانی خزانہ ص ۵۲ ج ۱۲)

ہ:.....”اور مجھے بشارت دی ہے کہ جس نے تجھے شاخت کرنے

کے بعد تیری دشمنی اور تیری مخالفت اختیار کی وہ جنمی ہے۔“

(تذکرہ ص ۱۶۸ طبع دوم)

و:.....”خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو

میری دعوت پہنچی اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں۔“

(تذکرہ ص ۲۰۰ طبع دوم)

اس کی بذریانی صرف عامۃ المسلمين تک کوشامل نہیں بلکہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام

کے متعلق بھی بذریانی کیا کرتا تھا جیسا کہ ملاحظہ ہو:

ز:.....”میں اس بات کا خود قائل ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسا نبی نہیں

آیا جس نے کبھی احتجاد میں غلطی نہیں کی۔“

(تدریجیات اللہی ص ۱۳۵، خزانہ ص ۳۷۵ ج ۲۲)

ج: ”خدا تعالیٰ میرے لئے اس کثرت سے نشان دکھلارہا ہے
کہ اگر نوح کے زمانہ میں وہ نشان دکھلائے جاتے تو وہ لوگ غرق نہ
ہوتے۔“ (تعریفیت الوجی ص ۱۳۷ خزانہ ص ۵۵۷ ج ۲۲)

ط: ”پس اس امت کا یوسف یعنی یہ عاجز (مرزا غلام احمد
قادیانی) اسرائیل یوسف سے بڑھ کر ہے کیونکہ یہ عاجز قید کی دعا کر کے
بھی قید سے بچایا گیا مگر یوسف بن یعقوب قید میں ڈالا گیا۔“

(براہین احمدیہ ج ۵ ص ۹۹ خزانہ ص ۹۹ ج ۲۱)

سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو اس کی بذریعاتی اور بدکلامی نے دنیا بھر کے

بذریعات کا ریکارڈ توزیع کیا، ملاحظہ ہو:

ی: ”آپ (عیسیٰ علیہ السلام) کو گالیاں دینے اور بذریعاتی کی
اکثریت تھی۔ ادنیٰ ادنیٰ بات میں غصہ آ جاتا تھا۔ اپنے نفس کو جذبات
سے روک نہیں سکتے تھے۔ مگر میرے نزدیک آپ کی یہ حرکات جائے
افسوس نہیں کیونکہ آپ تو گالیاں دیتے تھے اور یہودی ہاتھ سے کسر نکال
لیا کرتے تھے۔ یہ بھی یاد رہے کہ آپ (عیسیٰ علیہ السلام) کو کسی قدر
جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی۔“ (حاشیہ انجام آنکھ ص ۵ خزانہ ص ۲۸۹ ج ۱۱)

ک: ”نہایت شرم کی بات یہ ہے کہ آپ (عیسیٰ علیہ السلام)
نے پہاڑی تعلیم کو جوان بھیل کا مغز کھلاتی ہے، یہودیوں کی کتاب ”طالمود“
سے چراکر لکھا ہے اور پھر ایسا ظاہر کیا ہے کہ گویا یہ میری تعلیم ہے۔“

(حاشیہ انجام آنکھ ص ۶ خزانہ ص ۲۹۰ ج ۱۱)

ل: ”آپ (عیسیٰ علیہ السلام) کا خاندان بھی نہایت پاک اور
مطہر ہے۔ تین دادیاں اور نانیاں آپ کی زنان کار اور کسی عورتیں تھیں۔ جن
کے خون سے آپ کا وجود مطہر پذیر ہوا مگر شاید یہ بھی خدائی کے لئے ایک
شرط ہوگی۔ آپ کا بھریوں سے میلان اور محبت بھی شاید اسی وجہ سے ہو کہ
جدی مناسبت و رمیان ہے ورنہ کوئی پرہیز گارا نہیں۔ ایک جوان بھری کو یہ
موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر اپنے ناپاک ہاتھ لگاؤے اور
زن کاری کی کمائی کا پلید عطر اس کے سر پر ملے اور اینے بالوں کو اس کے

پیروں پر ملے۔ سمجھنے والے سمجھ لیں کہ ایسا انسان کس چلن کا آدمی ہو سکتا ہے۔” (ضمیرہ انجام آتھ قسم ص ۷۶، ان میں ۲۹۱ ج ۱۱)

م:.....”یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا ہے اس کا سب تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے۔ شاید کسی بیماری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے۔“ (کشی نوح حاشیہ ص ۳، خزانہ ان میں ۱۷ ج ۱۹)

ن:.....”خدا نے اس امت میں سے سچ موعود بھیجا جو اس پہلے سچ کا اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے اور اس نے اس دوسرے سچ کا نام غلام احمد رکھا۔“ (داغ البلاء ص ۳، خزانہ ان میں ۲۳۳ ج ۱۸)

س:..... ”اہن مریم کے ذکر کو چھوڑو

اس سے بہتر غلام احمد ہے۔“

(داغ البلاء ص ۲۰، خزانہ ان میں ۲۲۰ ج ۱۸)

دیکھئے یہ بد زبانی وہ شخص کر رہا ہے جو خود شراب کا رسیا تھا (تفصیل کے لئے دیکھئے ”خطوط امام بنام غلام“ ص ۵) اور غیر محروم عورتوں سے مٹھیاں دیوata تھا۔

(سیرت المهدی ج ۳ ص ۲۱۰)

دواستیوں میں افیون کھاتا تھا، جیسا کہ خود اس کے اپنے نام نہاد الہامی نہیں زد جام عشق (قوت باہ) کے نہیں کے اجزاً میں افیون بھی شامل ہے۔ (تمذکرہ ص ۲۱۷ طبع سوم) اسی طرح وہ خواب میں بھی ننگی عورتوں کے نظارے کرتا تھا۔ (تمذکرہ ص ۱۹۹ طبع سوم) اسی لئے مرزا قادیانی کے پیروکاروں کے لاہوری گروپ نے جو اسے بجائے نبی کے ولی اللہ مانتے ہیں، اس پر زنا کا الزام لگایا۔ (ملاحظہ ہوا لفضل قادیانی ج ۲۶ نمبر ۲۰۰ مورخ ۱۳۱ ۱۹۳۸ء)

ایسے اخلاق و کردار کا آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، محمد رسول اللہ ہوں، اس سے بڑھ کر کوئی اور ظلم ہو سکتا ہے؟ نہیں! ہرگز نہیں۔ امت میں سے سب سے زیادہ مرزا قادیانی کے کفر کو اگر کسی نے سمجھا ہے تو وہ حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیریؒ تھے انہوں نے فرمایا تھا کہ مرزا قادیانی فرعون اور ہامان سے بھی بڑا کافر تھا۔ اس فتنے سے بچنا اور پوری امت کو اس

سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائیں۔ آمین۔
برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله اولاً و آخرًا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہیں اور صحابی بھی

حافظ شمس الدین ذہبی تحریر میں اور حافظ ابن حجر عسقلانی اصحابہ میں اور علامہ زرقانی شرح مواہب میں تحریر فرماتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم جس طرح نبی اللہ اور رسول اللہ ہیں اسی طرح صحابی بھی ہیں۔ اس لئے کہ مسح بن مریم علیہما السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلة المراج میں بحالت حیات، وفات سے پیشتر اسی جسد عصری کے ساتھ دیکھا ہے۔